

# يمبرزل



Meer Zaheer Abass Rustmani

ترجمہ ریاض





**PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani**

**Cell NO : +92 307 2128068 - +92 308 3502081**



## سید محمد اشرف

جذبوں، رشتوں، زمینوں، بستیوں اور محبتوں کی کہانیاں لکھنے والے ان ہاتھوں کو ایک عجیب فن اور بھی تقدیر ہوا ہے کہ ان ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے اس طویل اور بسیط کائنات میں پھیلے سرخ، زرد، سبز، فیروزی، عنابی، لاجوردی، قرمزی اور سیاہ، بھدے، میلے اور چمکدار رنگوں کو نہ صرف یہ کہ چھو کر محسوس کر سکتے ہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے افسانوں کے حاشیے، متن اور بین السطور تک کو ان سے مزین بھی کر سکتے ہیں۔ موسم، ماحول اور موضوع کی ہم آہنگی کا اعجاز دیکھنا ہو تو معاصر اُردو افسانے میں ترنم ریاض سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔ جذبوں کی فراوانی سے تھر تھراتی ہوئی یہ کہانیاں ایک ایسی نوعمر معصوم دوشیزہ کی طرح محسوس ہوتی ہیں جو اپنے لب لباب کم واکرتی ہے مگر اپنی گہری گہری آنکھیں کھول کر پڑھنے والے کو یکایک دم بخود کر دیتی ہیں۔

”مجسمہ“ کی تکنیک، ”رنگ“ کا گہرا دکھ اور ”میمرزل“ کی محبت — فنا کی طرف بڑھتی محبت اُردو افسانے کو دہر تک اور دُور تک یاد آئے گی۔ ”میمرزل“ پڑھتے وقت محسوس ہوتا ہے جیسے پورے افسانے کے پس منظر میں، دُور وادی میں بیٹھا کوئی شخص غم انگیز آواز میں نے نوازی کر رہا ہے۔

غالباً اس بات سے سب بخوبی واقف ہیں کہ اچھی نثر میں جمال و جلال کے علاوہ ایک عنصر موسیقی کا بھی ہوتا ہے۔ نثر میں یہ موسیقی کس طرح پیدا ہوتی ہے، میں اس بات سے واقف نہیں لیکن ترنم ریاض کی کہانیاں پڑھ کر میں اس حقیقت سے ضرور واقف ہو گیا ہوں کہ ترنم ریاض نے نثر کی اس موسیقی کا راز پالیا ہے۔

یہ کہانیاں بیک وقت مسرت اور حیرت پیدا کرتی ہیں جو ان کہانیوں میں دُوب کر پڑھنے والے کو سرشار رکھتی ہیں۔ یہاں مسرت کا لفظ خوشی کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، یہ وہ آپار آئند ہے جو خوشی اور غم سے بالا ایک ایسا جذبہ ہے جسے رب سادات نے اپنے بندوں کے لیے بہت زیادہ ارزاں نہیں کیا ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلِيًّا

اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اُس کے ماں باپ کے واسطے پیٹ میں رکھا اُس کو اُس کی  
ماں نے تھک تھک کر۔

Means : We have enjoined on the human being to be kind to  
the parents in travil upon travil did thier mother bore them.

میمبرزل  
ترنم ریاض

**YIMBIRZAL**

(Short Stories)

By

Tarannum Riyaz

2004

Rs. 250/-

**NIRALI DUNIYA PUBLICATIONS**

358-A, Bazar Delhi Gate, Darya Ganj,

New Delhi - 110002

Phone: 011-23276094, Mobile: 9811270387

# یمبرزل

(افسانے)

ترنم ریاض

ناشر

**نرالی دنیا پبلیکیشنز**

358-A، بازار دہلی گیٹ، دریا گنج، نئی دہلی - 110002

فون 011-23276094

© ترنم ریاض

سی-11، جنگپورہ ایکسٹینشن، نئی دہلی-110014

فون: 24310682، 24317177

سن اشاعت : ۲۰۰۴ء

تعداد اشاعت : ۵۰۰

قیمت : دو سو پچاس روپے

سرورق : میران پنجابی

مطبع : ایم۔آر۔آفسیٹ پرنٹرز، نئی دہلی-۲

زیرِ اہتمام  
تنویر احمد

ملنے کے پتے:

○ نرالی دُنیا پبلی کیشنز، 358-A، بازار دہلی گیٹ، دریا گنج، نئی دہلی-110002

○ موڈرن پبلشنگ ہاؤس، 9-گولا مارکیٹ، دریا گنج، نئی دہلی-110002

سیادت

شجاعت

اور

یامین

کے لیے

جنہوں نے مجھے ممتا سے پہلے ممتا سے آشنا کیا۔



# انتساب

شرلی

اور

منو

کی محبتوں کے نام

# فہرست

۹	کشتی	۱-
20	ٹیڈی بیئر	۲-
32	مہرا کے شام	۳-
52	ایسے مانوس صیاد سے	۴-
61	رنگ	۵-
65	تجر بہ گاہ	۶-
72	بی بی	۷-
76	ہم تو ڈوبے ہیں صنم	۸-
83	مجسمہ	۹-
96	بالکنی	۱۰-
99	آہنگ	۱۱-
105	چوری	۱۲-
107	یمبرزل	۱۳-
140	شہر	۱۴-
149	پوتھی پڑھی پڑھی	۱۵-
161	یہ تنگ زمین	۱۶-
166	بلبل	۱۷-

• ترنم ریاض: مشاہیر کے سوچ رنگ ..... 178

## کشتی

”ارے ہٹو..... ہٹو..... ہٹو بھائی..... ایک طرف ہو جاؤ۔“

ٹیلیفون بوتھ کے پاس کھڑے کچھ لوگوں میں سے ایک ادھیڑ عمر شخص نے باقی چار چھ لوگوں کو ہاتھوں سے ذرا ذرا سا پرے کرتے ہوئے نووارد کے چہرے کی طرف بڑے خوش آمدانہ انداز میں دیکھتے ہوئے اس کے لیے راستہ بنایا۔

”نہیں نہیں۔ میں اپنی باری سے فون کر لوں گا۔“ آنے والے نوجوان نے لوگوں کی طرف

دیکھ کر کہا۔ ”پلیز، ایسی کوئی بات نہیں..... آپ لوگ تو مجھ سے پہلے کے کھڑے ہیں۔“

نوجوان کا رنگ سانولا تھا، جسم صحت مند۔ وردی پہنے وہ خاصہ چاق و چوبند نظر آ رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اس کی نظر ایک جگہ پر رکی رہ گئی۔ دو آدمیوں نے ایک آٹھ نو سالہ لڑکے کو گود میں لے رکھا تھا۔ ٹانگیں تھام رکھنے والے شخص کے سفید پانچامے پر بچے کے جسم سے رسنے والے خون کے دھبے بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ نوجوان گھبرا کر بچے کے قریب آ گیا۔

”آپ پلیز جلدی کیجئے۔ کسے فون کرنا ہے، اس نے ایک کندھے سے لٹکی بندوق اتار کر

دوسرے کندھے پر رکھی اور ٹیلی فون بوتھ کی طرف لپکا۔

”نمبر بتائیے۔ میں کرتا ہوں ڈائل۔ خون بہہ رہا ہے۔ جلدی۔“

”مگر صاب جی۔“ ادھیڑ عمر کا شخص کچھ کہنے لگا تھا کہ بندوق پر اس کا ہاتھ دیکھ کر باقی لوگوں

کی طرح وہ بھی پل بھر کے لیے ٹھٹھک گیا مگر اب اس کے چہرے پر اطمینان کی جھلک سی نظر آ رہی تھی۔ اس نے آگے کچھ نہ کہہ کر نمبر بتایا۔

نوجوان نمبر ملا چکا تو اس شخص نے آگے بڑھ کر اپنی علاقائی زبان میں کچھ کہا، اور بچے کے

قریب لوٹ آیا۔ بندوق بردار نوجوان نے دوبارہ ان لوگوں کی جانب نگاہ ڈالی کہ شاید کسی اور کو

فون کرنا ہو۔ مگر کسی کو متوجہ نہ پا کر وہ فون کی طرف پلٹا۔

دور سے کوئی عورت تیز تیز قدم اٹھاتی ٹیلیفون بوتھ کی طرف آرہی تھی۔ فون کے پاس بندوق بردارنو جوان دیکھ کر رک گئی اور باقی لوگوں کو دیکھنے لگی۔

”کک..... کیا ہوا؟ خون دیکھ کر اس نے جانے کس سے پوچھا تھا۔ پاؤں پکڑنے والے کی پوری ٹانگ سرخ ہو گئی تھی۔

”تم لوگ کھڑے ہو۔ کچھ زخم پر باندھا بھی نہیں۔ اسپتال لے جاؤ نا۔ ایسے تو سارا خون.....“

عورت نے ایک جھٹکے میں رومال نما مربع ساخت کا دوپٹہ کھینچا جو اس کے ماتھ سے ہوتا ہوا سر کے پچھلے حصے تک چلا گیا تھا اور وہاں اس نے اس میں ڈھیلی سی گرہ ڈال رکھی تھی۔ اس نے دوپٹے کو پھاڑ کر دو حصوں میں تقسیم کیا۔

”ہم لوگ بس گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آگے کر فیو ہے۔ وہ گھر سے نکل چکے ہیں۔ راستے میں تلاشیاں ہو رہی ہوں گی۔ رکننا پڑ رہا ہو گا انھیں بار بار۔“

ادھیڑ عمر شخص نے بچے کی پتلون نیچے کو سرکائی۔ عورت اس کی ران پر پٹی باندھنے لگی تو باوردی بندوق بردارنو جوان آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے لگا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر لوگوں کی نظروں میں لمحہ بھر پہلے جو خوف ابھر آیا تھا وہ اسے بچے کے قریب دیکھ کر دور ہو گیا تھا۔ عورت کا سرخ و سفید چہرہ بھی پل بھر پہلے پیلا پڑ رہا تھا۔ لیکن اب وہ بھی مطمئن سی تھی۔ سب لوگ بندوق بردارنو جوان کو پٹی باندھتا دیکھ کر کچھ ایسے حیرت زدہ تھے جیسے کوئی عجیب و غریب بات وقوع پذیر ہو رہی ہو۔

اس نے کمال مہارت سے بچے کے زخم پر دوپٹہ باندھ دیا تھا کہ پہلے سے بندھے رومال کی طرح دوپٹہ بالکل سرخ نہیں ہوا، بلکہ کچھ ہی دیر بعد کافی وقت سے بے ہوش بچہ دھیمی آواز میں کراہنے لگا تھا۔

”کمال ہے۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں۔؟“ کسی نے سرگوشی کی۔ باوردی نو جوان یہ زبان نہیں جانتا تھا۔ وہ بچے کو دیکھ رہا تھا۔

قریب کی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ عورت نے رومال نما دوپٹے کے نصف مستطیل ٹکڑے کو سر پر مزید درست کیا۔

ترنم ریاض

سب لوگ خاموشی سے سڑک کی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے کسی گاڑی کے آنے کی توقع تھی۔

عورت نے سیدھے ہاتھ سے اپنے پھرن کی جیب میں کچھ ٹٹولا۔ جیب سے کسی چیز کے کھنکنے کی آواز آئی۔

”آپ اس وقت کیوں باہر آئیں ہمیشہ؟“ ایک شخص نے پوچھا۔ ”حالات اور خراب ہو گئے ہیں۔ اس طرف بھی کر فیو لگنے والا ہوگا۔ جانے کس احمق نے ان جانوروں کی طرف گولہ پھینکا، جو ہمارے قریب پھٹا۔ میرے دوست کا بھانجا ہے یہ۔ زخمی ہو گیا غریب۔“

اس نے بچے کا دھڑتھانے والے شخص کی طرف دیکھ کر کہا۔

”ان لوگوں کو تو بہانہ چاہئے۔ آپ فوراً گھر چلی جائیں۔“

”مجھے فون کرنا ہے۔ میرا شوہر دریا پار چائے انڈے بیچتا ہے۔ دوپہر میں کھانے کے لیے

آیا ہی نہیں۔ پریشان ہو رہی ہوں۔ بچوں کو باہر سے تالا لگا کر آئی ہوں۔ چابیاں ساتھ ہیں میرے۔“

عورت نے جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا اور دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ عورت کے ہاتھوں کی اوپری جلد کھر دری اور کہیں کہیں سے چاک ہو گئی تھی مگر ہتھیلی پھول کی طرح ملائم تھی۔ اس نے گھٹنوں سے ذرا اوپر تک کی لمبائی کا ہلکے رنگوں کی چھینٹ والے کسی موٹے کپڑے کا پھرن پہن رکھا تھا۔ کرتے کی کاٹ کا نسبتاً چوڑا، چغہ نما پیرہن، اتنا کھلا کہ اگر ہاتھ آستینوں کے اندر سے کھینچ کر جسم سے لگا لیے جائیں، یا سوکھی جھاڑیوں کی آگ سے بھرے مٹی کے پیالے کے گرد بید کی نرم ہری ٹہنیوں سے بنی گئی کانگری اس کے اندر رکھ لی جائے جب بھی اس پیرہن کی تنگی کا احساس نہ ہو۔ پھرن کے ساتھ اس نے نیم تنگ پانچوں والی اسی چھینٹ کی شلوار پہن رکھی تھی۔ اس کے پیروں کی جلد بھی گلابی تھی مگر ایڑھیوں کے آس پاس کی سخت کھال میں چھوٹی بڑی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔

گاڑی آگئی تھی۔ کارواں بچے کو لے کر کسی طرف چل پڑا تھا۔ بندوق بردار باوردی نوجوان ٹیلیفون پر کوئی نمبر ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔

”دور کہیں زور سے بادل گرجے تو عورت نے چونک کر آسمان کی جانب نظر اٹھائی۔ لمبی سڑک کے اس پار کوہ سلیمان کی پہاڑی کے ٹیلے کے بالکل اوپر، آسمان کے کنارے پر تازہ برف

کے تو دوں جیسے سفید بادل دھیمی رفتار میں مجھ پر واز اسی طرف آرہے تھے۔ ابر کا ایک بڑا سا گالا پہاڑی کی چوٹی پر ایستادہ، شکر آچار یہ کے سرمئی چٹانوں سے تراشے گئے پر شکوہ مندر کے کلس سے الجھا جیسے کہ ٹھہر گیا تھا اور ہو بہو ان بڑے بڑے ناتراشیدہ پتھروں کے رنگ جیسا سرمئی نظر آرہا تھا۔

بادل کے اس دیو قامت ٹکڑے میں پل بھر کے لیے تیز روشنی کی ایک منحنی سی لکیر آڑھی ترچھی لہرائی اور غائب ہو گئی۔ بادل کچھ اور زور سے گرے۔

عورت کے چہرے پر پریشانی سی جھلک اٹھی۔ اس نے پلٹ کر، فون ملانے میں کوشاں باوردی نو جوان کی طرف دیکھا اور پھر جیب میں کچھ ٹٹولا۔ چابیوں اور رسکوں ملی جلی کھنک کے فضا میں تحلیل ہوتے ہی عورت نے گھبرا کے دائیں بائیں دیکھا پھر ٹیلیفون بوتھ کے شیشے میں لگے لمبے سے کیبن کے اندر بغور دیکھنے لگی۔

نو جوان کو نمبر نہیں مل رہا تھا۔ ٹیلیفون کے پیچھے دیوار میں لگے بڑے سے آئینے میں نو جوان نے عورت کو بار بار فون کی طرف دیکھتے دیکھا تو وہ کیبن سے باہر آ گیا۔  
”آپ فون کر لو جی۔ میں بعد میں Try کر لوں گا۔“

وہ عورت سے مخاطب ہوا۔ عورت بغیر کچھ بولے لپک کر فون کے پاس پہنچی۔ جہاں اس کا شوہر چھوٹے سے کھوکھے پر سامان بیچتا تھا، وہیں پاس کی ایک دکان پر فون پر بات کر کے وہ اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے آج کام زیادہ ہو۔ پاس والی دکان بند ہو۔ یا وہ گھر آ رہا ہو، پھر تو اسی سڑک سے گزرے گا۔ مگر پھر اب تک گزرا کیوں نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس نے اُسے نہ دیکھا ہو۔ مگر وہ تو دیکھ لیتا اسے۔ اگر گزرا ہوتا۔ کہیں کوئی بچہ جاگ نہ گیا ہو۔ مگر وہ آیا کیوں نہیں۔

اس نے آخری مرتبہ فون گھمایا۔ نمبر نہیں ملا۔ اس نے گردن موڑ کر بندوق بردار نو جوان کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ کچھ وقت بعد پھر کوشش کرے گی۔ جب تک یہ فارغ ہو لے گا۔  
نو جوان اسے باہر آتا دیکھ کر دوبارہ کیبن میں داخل ہو گیا۔

ہلکی ہلکی مگر قدرے خنک ہوا چلنے لگی تھی۔ عورت نے ہاتھ پھرن کے آستینوں میں سے اندر کھینچ لیے اور انھیں مخالف کہنیوں تلے دبایا۔ دانت آپس میں ملا کر اور لب وا کر کے اس نے ایک لمبی سی سانس لی تو مارے سردی کے دانت بجنے لگے۔ اس نے دونوں شانے ایسے اوپر اچکائے

جیسے گردن کو کندھوں میں چھپا دینا چاہتی ہو۔

وہ کبھی سردا ہنی اور گھما کر سڑک کی طرف نظر ڈالتی کبھی کیبن میں فون پر مصروف باوردی بندوق بردار نوجوان کو دیکھتی۔ فون کے عقب میں دیوار میں نسب آئینے میں اسے نوجوان کے چہرے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔

وہ سوچ میں پڑ جاتی۔ اسی کی طرح وہ بھی پریشان ہو رہا تھا۔ نمبر نہ ملنے پر جھنجھٹا رہا تھا۔ پھر ایک نئی امید کے ساتھ دوبارہ نمبر ڈائل کرنے میں منہمک ہو جاتا۔ سیدھا سانا رمل انسان لگ رہا تھا وہ..... ورنہ..... یہ سب تو درندے ہوتے ہیں..... جانور ہیں جانور..... انسان لگتے ہی نہیں۔ عورت نے سر جھٹک کر منہ پھیر لیا۔

صبح جب وہ پاس کے مختصر سے بازار، دودھ لانے گئی تھی، اس وقت اس نے ایک نہایت ضعیف آدمی کو ہاتھ گاڑی پر لہسن بیچتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ شاید پوتا تھا اس کا۔ بارہ تیرہ برس کا ایک لڑکا رک رک کر ہانک لگا رہا تھا۔ تازہ خوشبودار لہسن۔ بڑا بڑا لہسن۔ مٹی کے بھاؤ۔ آؤ بھائیو آؤ۔ آؤ بھئیو آؤ۔ ختم نہ ہو جائے۔ ماں جی آئیے۔

گاڑی کو دونوں ساتھ ساتھ دھکیل رہے تھے۔ وقفے وقفے سے گاہک آتے، ترازو کھڑکتی۔ کچھ سکے، کوئی نوٹ۔ پھر اسی ردھم سے لڑکے کی صدائیں بلند ہوتیں جنہیں وہ حلق کی گہرائی سے نکالتا۔ اس کے گلے کی جلد میں چھپی نیس ابھر آتیں۔ چھوٹی چھوٹی سرمئی ندیوں جیسی بل کھاتی ہوئی نیس۔

جانے کدھر سے ایک بار لیش، باوردی پولیس والا نمودار ہوا اور ہاتھ میں پکڑا کین لہسن کی ڈھیری پردے مارا۔ لہسن کی کئی ہتھیاں زمین پر گر گئیں۔ بوڑھا جلدی جلدی اٹھانے لگا۔

”باپ کی سڑک ہے کیا۔ ریڑھی لگانا منع نہیں ہے ادھر؟“

پولیس والا علاقائی زبان میں دہاڑا اور کین لڑکے کی پیٹھ میں چھو دیا۔

”جناب۔ جناب۔ ابھی ابھی خریدا ہے۔ گھر ہی جا رہے ہیں حضور۔“ بوڑھا دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر ان میں لہسن جمع کر کے جلدی جلدی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ لڑکے کے کین چبھتے دیکھ کر اس نے ہاتھوں میں پکڑا لہسن زمین پر گرا دیا اور سپاہی کے جوتے پکڑ کر گڑا گڑا لگا۔

”او۔ تو تو سکھا رہا ہے اسے بے ایمانی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے تجھے لہسن بیچتے ہوئے۔ پیسے بھرتے ہوئے۔ سمجھا؟“

باریش سپاہی نے لہسن کی ڈھیری کے نیچے بچھے ہوئے کونہ الٹ دیا اور دس روپے کا اکلوتا نوٹ اور پانچ کے تمام سکے اٹھا کر جیب میں ڈالے اور جھٹکے سے پاؤں چھڑا لیے۔ بوڑھا لڑھک گیا۔ اگر زمین پر نہ بیٹھا ہوتا تو زور سے گرتا۔ پھر جلدی سے سنبھلا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔

”جناب..... جناب یہ دس کا نوٹ مجھ کو۔ صبح سے بس اتنی ہی کمائی ہوئی تھی۔ اب کچھ نہیں ہے میرے پاس۔“

”بابا تمباکو پیتا ہے صاب۔ کچھ تھوڑا پیسہ واپس دے دو صاحب جی۔“ لڑکا سہا ہوا بولا۔

”بکو اس بند کرو۔ الٹ دوں گا ریڑھی۔ دونوں کو تھانے میں بھر دوں گا۔ حرام خور۔“

ہاتھ گاڑی کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر باریش سپاہی اُلٹے ہاتھ سے اپنی سیاہ داڑھی سنوارتا ہوا دوسری طرف چل پڑا۔

عورت جب تک دودھ والے کی دکان پر رہی تھی اس نے یہی دیکھا کہ بوڑھا شخص زمین پر بیٹھا اپنے ہاتھوں پر سے سپاہی کے جوتوں سے لگ جانے والی مٹی جھاڑ رہا ہے۔ جب وہ المیونیم کی چھوٹی سی ڈولچی میں ایک پاؤ دودھ لے کر پلٹی تو کوئی مری مری سی آواز میں جیسے کہ رو رہا تھا۔

”لہسن۔ تازہ۔ تازہ۔“

یہ گوری رنگت اور ستواں ناک والا باریش محافظ۔ اس کا ہم مذہب، ہم زبان، اسی کی مٹی کی پیداوار۔

اور وہ، جو کل زچہ بچہ ہسپتال کے پھانک کے پاس۔ وہ کالے سانولے موٹی چوڑی ناکوں والے۔ ہر برقع پوش عورت کا نقاب یہ کہہ کر اٹھتے تھے کہ اس کے اندر دہشت گرد ہو سکتا ہے۔ نازک ڈیل ڈول میں نرم کلائیوں اور چھوٹے پیروں والے برقع پوش دہشت گرد، جو میٹرنٹی، ہسپتال میں آتے ہیں۔ جن کے چہروں سے عمداً انگلیوں کو مس کرتے ہوئے انھیں بے نقاب کر کے بھوکے نظروں سے گھورا جاتا ہے۔

بیسویں صدی کی پانچویں دہائی کے آس پاس، یورپ کے ایک حصے میں ہر فوجی افسر کسی بھی عورت کو حکم دے سکتا تھا کہ وہ مکمل بے لباس ہو کر ثابت کرے کہ اس نے کوئی آتش گیر مادہ یا ہتھیار تو نہیں چھپا رکھا۔ یہ بات عورت نے بہت پہلے کسی کتاب میں پڑھی تھی۔

انھیں موقع مل جاتا تو۔ جہاں جہاں انھیں موقع ملتا ہے وہاں۔ خدا کی پناہ۔ وہاں کیا نہیں کرتا یہ بندوق بردار۔ پکی رنگت والا یا صاف رنگ کا۔ باوردی یا بغیر وردی کے۔ سب ایک طرح



کے درندے۔ خدا نے عورت کو بنایا ہی کیوں۔

اس کی نظریں باوردی نوجوان کی بندوق پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ ماتھے پر شکن ابھر آئے تھے۔  
باوردی نوجوان کا نمبر مل گیا تھا۔

وہ کسی سے بات کرنے میں مشغول تھا۔ اس کے چہرے پر اچانک خوشی چھا گئی تھی۔ وہ جلدی جلدی کچھ پوچھ رہا تھا۔ عجب بے صبری سے، اونچی آواز میں، جو کیبن کے شیشوں کے اس پار بھی سنائی پڑ جاتی تھی۔ مگر کسی غیر مانوس زبان میں۔ جو عورت کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔  
بوٹھ سے کچھ میٹر کے فاصلے پر تنگ سی سڑک کے اس طرف ایک اور بندوق بردار کھڑا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیبن والے نوجوان نے اس کی طرف دیکھ کر ہوا میں مکا لہرایا تو اس نے مسکرا کر زور زور سے سوالیہ انداز میں سر نیچے سے اوپر کو ہلایا کیبن کے اندر والے نوجوان نے ابرو اٹھا کر، آنکھیں پوری داکر کے جوشیلے انداز میں سر کو بار بار اثبات میں جنبش دی۔ دونوں کے چہرے کھل اٹھے تھے۔

عورت اپنے محتاط مگر پر تجسس تاثرات کو بخوبی چھپا کر سارا منظر دیکھ رہی تھی۔  
شاید اس کے ہاں بچہ ہوا ہو۔ مگر یہ تو خود ہی کم عمر لگتا ہے۔ شادی کہاں ہوئی ہوگی اس کی۔ مگر ہو سکتا ہے۔ ہو بھی سکتی ہے۔ یا شاید اس کے گھر والوں نے اس کی پسند کی لڑکی سے اس کی شادی طے کر دی ہو..... اور لڑکی بھی..... لڑکی بھی اسے پسند کرتی ہو..... لڑکی اسے..... پسند کرتی ہو.....  
پسند اس نے بھی کیا تھا کسی کو کبھی۔  
جب وہ ایک نوخیز لڑکی ہوا کرتی تھی۔

اس کا نام دلوتو تھا۔ نہیں، اس کا نام دلشاد تھا..... یعنی دلشاد بانو تھا۔ وہ ساتویں درجے تک تعلیم حاصل کر سکی تھی۔ اس کا باپ مجید بٹ نالائے مار کا ایک غریب مچھوارہ تھا۔ جو اپنے مختصر سے نیم بوسیدہ آبی گھر میں میلے گدے پانی کے اس نالے کے ایک کنارے پر رہتا تھا۔ میلے، گدے پانی والا نالا ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔

صدیوں پہلے جب نقل و حمل کا واحد وسیلہ پانی ہوا کرتا تھا تو سلطان زین العابدین کی حکومت میں جہلم سے کچھ اضافی نالے نکالے گئے تھے۔ نقل و حمل کے علاوہ سیلاب سے بچاؤ اور شہر کی خوبصورتی کا مقصد بھی ذہن میں رہا ہوگا۔ ان میں کٹ کل اور نالائے مار بھی شامل تھے۔ نالائے مار ایک راستوں سے گزرتا ہوا، بے شمار شاخوں میں بٹتا ہوا، پھر جہلم میں جا ملتا تھا۔ اس

میں ہر چھوٹی بڑی بستی کے لیے رسد گاہیں ہوا کرتی تھیں۔ بڑے بڑے بجزوں میں اناج ایندھن وغیرہ ہر گھاٹ پر پہنچایا جاتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ آبی وسائل کی جگہ موٹر گاڑیوں نے لے لی۔ جنگلوں کی مسلسل کٹائی سے پانی کم ہوتا گیا اور نالا رفتہ، رفتہ کوڑے کرکٹ کی آماجگاہ بنتا گیا، ساتھ ساتھ بیشتر مقامات پر سوکھتا چلا گیا تو اس پر تعمیرات ہونے لگیں۔

بعد میں بیسویں صدی کی آخری دو دہائیوں میں سرکار نے وہاں سے باقاعدہ سڑکیں نکالیں۔ اور کہیں کہیں گد لے پانی میں کچھ مچھلیاں کچھ کشتیاں اور اکادکا مختصر بستیاں رہ گئیں۔ مجید بٹ کا کل کاروباری اثاثہ ایک بوسیدہ سا جال اور ایک چھوٹی سی پرانی کشتی تھا۔ کشتی کا رنگ پانی نے اس قدر چوس لیا تھا کہ وہ بالکل اس گد لے پانی کے رنگ کی نظر آتی تھی۔

مجید بٹ کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے بچے پڑھ لکھ جائیں اور دن بدن اور زیادہ آلودہ ہوتے جا رہے اس نالے میں ایک ایک مچھلی پکڑنے کے انتظار میں پہروں گزارتے ہوئے عمر گنوانے کی بجائے کہیں نوکری کر لیں۔ مگر مشتاق احمد بمشکل پانچ جماعتیں پڑھ سکا، اور بار بار ہمارے کھانے کے باوجود اس نے سکول کا رخ نہ کیا۔ آخر کار باپ اسے اپنے ساتھ کشتی پر ہی لے جانے لگا۔

دلہا ایک ذہین طالبہ تھی اور سینٹرل اسکول کے ساتویں درجے میں پڑھ رہی تھی۔ اساتذہ کو اس سے خاصی امیدیں تھیں۔ جماعت کے انچارج ٹیچر اس کی بہت حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ ان کا نیا نیا تقرر ہوا تھا۔ دیکھنے میں بھی ماسٹر جی کا چہرہ خاصا حاذب تھا۔ گھنے گھنے بال اور چھوٹی سی داڑھی ان پر خوب کھلتی تھی۔ دلہا کے باپ کی درخواست پر کبھی کبھی ماسٹر جی دلہا کو کوئی مشکل سبق گھر آ کر بھی پڑھا دیتے اور اس بات سے انھیں خود بھی دلی خوشی ملتی تھی۔

دلہا کی آنکھیں نائف کی ٹکیاں ایسی تھیں۔ اس کے بال دیودار کی اس سلگتی ہوئی روغنی لکڑی ایسے سیاہ تھے جو روشنی کرنے کے لیے جلانی جاتی ہے۔ اور اس کی جلد سمانوار کے بارہا منجھے پیتل کے دستے کی رنگت لیے ہوئی تھی۔ ساتویں درجے میں آتے ہی وہ ایک دم بڑی بڑی سی لگنے لگی تھی۔ اس کے پاس سیاہ رنگ کا ایک پھرن تھا جس کے گریبان پر اس کی نانی کی یادگار، پانچ چاندی کے روپیوں کے ساتھ ٹانگا لگی گھنگھریوں والا ایک ہار رہتا تھا جو وہ بچپن سے پہنے ہوئے تھی۔ ورنہ اس کی ماں کے سر پر پھیلے سوتی رومال کے نیچے لگی ٹوپی، کسابہ کے اندر سے ماتھے پر جھانکنے والے تین تین جھومروں اور کان کی بڑی بڑی بالیوں والا چاندی کا زیور کب کا گھر کی

ترنم ریاض

ضروریات کی نذر ہو گیا تھا، جبکہ ایسے زیورات پانی پر رہائش پذیر خاندانوں کے مخصوص زیورات میں شمار ہوتے ہیں۔

آٹھویں دہائی کے غالباً آخری سال کا کوئی دن تھا جب دوسرے کنارے پر رہنے والے رشید ڈار کا منجھلاڑ کا جو دو ماہ پہلے اچانک غائب ہو جانے کے بعد کوئی ہفتہ بھر پہلے نمودار ہوا تھا، دلو کے بھائی مشا کے کو صبح آ کر کہیں لے گیا۔ مشا کہ اس دن دیر گئے گھر لوٹا اور ماں کے بار بار پوچھنے پر بھی کوئی جواب نہ دے کر سو گیا تھا۔ ماں کے سوالات کا جواب نہ سن کر مایوس باپ نے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ مگر اس کا چین لٹ گیا تھا۔

دوسری صبح رشید ڈار کا منجھلاڑ کا پھر گھر آیا اور اندر کے چھوٹے کمرے میں کافی دیر تک مشا کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ وہ اونچی آواز میں بول رہا تھا جبکہ مشا کہ وقفے وقفے سے دھیمی آواز میں کچھ کہتا۔ مگر کمرے کے باہر صرف شور کا سا احساس ہو رہا تھا اور بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تیسری بار جب رشید ڈار کا منجھلاڑ کا پھر آیا تو اندر کے کمرے سے دنوں کی بحث کرنے کی آوازیں بھی آئیں تھیں۔

دو ایک روز بعد جب کافی دن نکل آیا تھا، رشید ڈار کا منجھلاڑ کا آیا۔ مشا کہ باپ کے ساتھ کشتی پر دور نکل گیا تھا۔

شام کو جب مشا کہ اور مجید بٹ کام سے لوٹے تو دلو بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی گردن پر خراشیں تھیں اور چہرے پر نیلے دھبے ابھر آئے تھے اور ماں نے اپنے بہت سارے بال نوچ ڈالے تھے۔ اس دن ماں کچھ نہیں بولی تھی۔

دوسرے دن سینٹر اسکول کے ماسٹر جی کو گولیاں لگنے کی بات سن کر ماں نے بتایا تھا کہ باپ اور بھائی کو بار بار پکارنے کے بعد دلو نے کئی دفعہ ماسٹر جی کہا تھا اور پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔

اسی دن سے مشا کہ گھر سے غائب ہو گیا تھا اور کئی دن بعد جب رشید ڈار کے منجھلاڑ کے کی لاش نالے کے پانی میں تیرتی نظر آئی تو مشا کہ گھر آ کر ماں سے لپٹ کر خوب رویا تھا۔ اس کے بھورے رنگ کے لمبے سے پھرن کے اندر بغل کے پاس ٹخنوں تک پہننے والے جوتے کی ساخت سے ملتی جلتی لوہے کی کوئی بالشت بھر لمبی چیز لٹک رہی تھی۔

اس دن کے بعد مشا کہ زیادہ تر گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔

رشید ڈار کوئی دو ہفتے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ نہ ہی اس نے مسجد کا رخ کیا تھا۔ جس دن

رشید ڈار مسجد میں آیا، اسی دن اس نے مصیبت کے وقت انسان کے اور خاص کر پڑوسی کے کام آنے کا ذکر کیا تھا۔ اور کچھ دن بعد اس نے اپنے بڑے لڑکے کے لیے جس کی ایک ٹانگ پر پولیو کا اثر تھا اور جس کی شادی کی عمر نکلا چاہتی تھی۔ مصیبت زدہ دلو کا رشتہ مانگا تھا۔ دلو کے باپ نے یہ سوچے بغیر کہ کس کی مصیبت میں کون، کس کے کام آیا، اپنی حسین و جمیل نوخیز بیٹی کے لیے، یہ رشتہ قبول کر لیا تھا۔

مرے اشک بن میرے بابل ہے  
ترے دل کے اندر جو تھے آبلے

دلو کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر ہونٹ پر ٹپک گیا تھا۔ اس نے اٹے ہاتھ سے اسے پونچھ لیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز اُسے چونکا کر ماضی سے حال میں لے آئی تھی۔

بندوق بردار باوردی نوجوان ہنستا مسکراتا ٹیلیفون بوتھ کے شیشے لگے کیبن سے باہر آیا اور بوتھ کے مالک کو بل ادا کرنے لگا۔ دلو نے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا کہ نوجوان کے بٹوے میں کسی لڑکی کی مسکراتی ہوئی رنگین تصویر تھی۔

نوجوان کو دوتا پھاندتا سڑک پار کر کے اپنے دوسرے باوردی ساتھی کے پاس پہنچا اور دفعتاً اسے کمر سے اٹھا کر واپس زمین پر رکھتے ہوئے اس کا منہ چوم لیا۔ اُس کے ساتھی نے ہنستے ہوئے اپنا آپ چھڑایا اور اٹینشن میں کھڑا ہو گیا کہ سامنے سے سرکاری جھنڈے لگی تین موٹر گاڑیاں گزر رہی تھیں جن کے آگے پیچھے حفاظتی عملے کی دو بڑی بڑی گاڑیاں اور آخر میں اچانک حادثے کی صورت میں کام آنے کے لیے لمبی سی ایسولینس تھی۔ اس کا ساتھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کھلے کھلے چہرے کے ساتھ دوسری سمت کو جا رہا تھا۔

ٹھہرے ہوئے بندوق بردار کے سامنے سے پہلی گاڑی کے گزرتے ہی ایک زوردار دھماکا ہوا اور اس میں آگ لگ گئی۔ پیچھے کی گاڑیاں تو ازن کھو کر ادھر ادھر بکھرنے لگیں۔ ان کے حفاظتی عملے نے چند لمحوں کے اندر اندر چاروں طرف اندھا دھند گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ ٹیلیفون بوتھ والے نے اندر سے دکان کا شٹر گرا دیا تھا۔ دلو کے علاوہ دو اور لوگ بھی دکان کے اندر رہ گئے تھے۔

اب شاید کر فیولگ چکا ہوگا۔  
دکان کے اندر گھٹن سی ہو رہی تھی۔

وہ گھر میں تالا لگا کر آئی تھی۔

کچھ دیر بعد باہر سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر گاڑیوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی کہ ہارن اور انجن کی آوازیں دکان کے اندر صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دکاندار نے شہزادہ ساسر کا کر باہر جھانکا اور پورا شہر کھول دیا۔

دلو تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی طرف مڑی تو اس نے دیکھا کہ جائے حادثہ کا پتھروں سے احاطہ کر دیا گیا تھا۔ ادھر ادھر زمین پر سیاہی مائل سرخی چھا گئی تھی۔

گھر کے موڑ پر مڑتے وقت دلو نے یہ بھی دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کے ادھ جلعے فوجی جوتے کے پاس ایک والٹ کھلا پڑا تھا، اور اس میں ایک مسکراتی ہوئی لڑکی کی تصویر پتلے سے بے رنگ پلاسٹک کے پیچھے سے چپ چاپ جھانک رہی تھی۔

دلو کے سینے میں ایک چیخ گھٹ کر رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کچھ لمحوں بعد کھول دیں۔

اب وہ نہایت دھیمی رفتار سے گھر کے راستے پر چل رہی تھی۔ سارن سڑک سنسان تھی۔ دور ایک شخص داہنا بازو جھلاتا اور بائیں ہاتھ ہر دوسرے قدم کے ساتھ گھٹنے پر دھرتا لنگڑاتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، مگر دلو کی رفتار پھر بھی تیز نہیں ہوئی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ چابیاں اُس آدمی کی نہیں خود اسی کی جیب میں ہیں۔ اور وہ گھر میں تالا لگا کر آئی ہے۔



## ٹیڈی بیئر

سیاہ چشمے کی بائیں جانب کے کھلے حصے میں سے وہ اسے چپکے چپکے دیکھ رہی تھی، جو خود میں گم گار ہاتھ اور گٹار بھی بجا رہا تھا۔ گاڑی کے ہلکوروں کے ساتھ اس کے ماتھے پر آگے کولا کر پیچھے کی طرف سجائے گئے بال بھی جھول جاتے۔ اس نے قلمیں بڑھا رکھی تھیں جو کم عمری کے سبب گویا زیادہ گھنی نہ تھیں مگر کسی نہ کسی طرح اس کے پسندیدہ اور بیسویں صدی کے سب سے بڑے مغربی گلوکار کے بالوں کے اسٹائل سے ملتی تھیں کہ اسٹیج پر ایک کردار کی ادائیگی کے لیے اسے بال اُس کی طرح رکھنا تھے۔ شہر کے اسکولوں میں وہ سب سے خوش گلوں کا کار چنا گیا تھا۔

مقابلے کی تیاریوں کے دوران اس نے ایک دن ماں کو اس گانے کی وجہ تسمیہ بتائی تھی کہ ایک ہوٹل میں کسی نامعلوم نوجوان نے ایک پرزے پر ایک سطر لکھ چھوڑی تھی 'میں ایک تنہا راستے کا مسافر ہوں۔' کسی نے اس حادثے سے متاثر ہو کر یہ گانا لکھا تھا۔

”دیکھئے نامام..... کس طرح ایک نامعلوم نوجوان اتنے بڑے Master Piece کی بنیاد بن گیا۔ کیا ہوا ہوگا اسے..... میں کبھی کبھی سوچتا ہوں..... کیوں کی ہوگی اس نے خودکشی..... وہ کیوں تھا کیلا..... کیا اسے..... کوئی سمجھتا نہیں ہوگا..... یا پھر.....“

راجیل کی لمبی لمبی انگلیاں گٹار کے تاروں پر ٹھہر گئی تھیں۔

”نہیں بیٹا..... کبھی کبھی انسان کسی شدید جذباتی دباؤ کے زیر اثر سوچ نہیں پاتا اچھی طرح..... اور اس کمزور پل میں اس طرح کی حرکت..... کر گزرتا ہے.....“

نانکہ کا متا بھر ادل پل بھر کو کانپ سا گیا تھا۔

”تو وہ لمحہ..... انسان باہمت ہو تو..... ٹال سکتا ہے..... اور اگر ٹل جائے..... تو ایسا حادثہ کبھی

نہ ہو.....“

تمہیں تو میں سمجھتی ہوں میرے بچے..... کوئی سمجھ نہ سمجھے..... میں تو تمہارے ساتھ ہوں..... گاڑی میں بیٹھی نائلہ سوچتی رہی اور آہستہ سے گردن بائیں جانب موڑ کر اُسے دیکھنے لگی۔ راجیل نے بے رنگ چشمہ پہن رکھا تھا۔ اُس میں سے اس کی بند آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ چہرے کے تاثرات میں گرد و پیش سے بے خبری کا عالم تھا..... مگر دونوں ہاتھوں کی محتاط انگلیاں نہایت ماہرانہ انداز میں گٹار کے سخت تاروں کو کچھ ایسی نرمی سے چھو رہی تھیں کہ سُر بادلوں کی طرح فضا میں تیر رہے تھے۔ اس نے بیحد سریلانگمہ چھیڑ رکھا تھا۔ اسے پریکٹس کے لیے اپنے گروپ کے باقی ساتھیوں سے ملنے ایک دوست کے وہاں جانا تھا۔ نائلہ کو بھی راستے میں ایک جگہ اترنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھی اس کے گیتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ لمحے بھر بعد اس نے ایک تیز دھن والا گانا شروع کیا۔

وہ بالکل مغربی انداز میں، کبھی بے حد اونچے سُر میں تان کھینچتا اور کبھی ٹھڈی حلق سے لگا کر بھاری سی غراہٹ نما آواز میں گا کر منہ بڑا سا کھول دیتا اور کبھی ایک دم دہانہ چوڑا کر کے تمام دانتوں کو نمایاں کرتا ہوا زوردار آواز میں نعرہ سا لگا کر کچھ پل خاموش ہو کر دائیں بائیں دیکھتا اور پھر یلکھت دوبارہ دھیمے سُر سے شروع کر کے اونچے سُر تک جا پہنچتا۔

اس عمل کا مشاہدہ نائلہ کے لیے نہایت دلچسپ عمل تھا۔ جب وہ چہرے کے سارے پٹھے تان کر دانتوں کی نمائش کر کے ماتھے پر بہت سے آڑے بل ڈال کر کوئی سُر ادا کرتا تو اسے بے تحاشا ہنسی آ جاتی جسے وہ کمال ضبط سے چھپا لیتی۔

Put a chain around my neck  
And lead me everywhere  
So let me be your teddy bear

کیا گارہا ہے..... میرا ٹیڈی بیئر.....

نائلہ کا دل کرتا اس سے کہے..... ابھی کل تک گول مٹول سائیڈی بیئر جیسا تھا، وہ سوچتی..... دبلا پتلا، لمبا ہو گیا..... ساری جان گانے کی ادائیگی میں لگانے سے اس کی گردن پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگتیں۔ حالانکہ گاڑی کے اندر ٹھنڈک تھی۔ نائلہ کا جی چاہتا کہ پرس میں سے رومال نکال کر اس کے چہرے اور گلے پر سے پسینہ پونچھ لے۔ اس سے پہلے کے نائلہ کی منزل آ جائے، سرخ ٹی شرٹ میں چھپے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس کا لہس اپنی ہتھیلی میں محفوظ کر لے۔ مگر اس

کے پاس ایسا کوئی بہانہ نہ تھا کہ اسے چھو لیتی۔  
 کہ وہ ناراض تھا اس سے..... شاید..... مگر اتنے دنوں..... کیوں..... آخر۔  
 کیا وہ خود بھی اس جیسی تھی.....  
 نائلہ سوچنے لگتی۔ راحیل کی ثابت قدمی پر اسے خوشی ہوتی۔

نائیلہ کو تصویریں بنانے کا شوق تھا۔

”اُف، اُف..... گناہ..... گناہ کبیرہ.....“ اماں سر پر آنچل درست کرتی جانے کب آ کر  
 اس کے عقب میں کھڑی ہو جاتیں۔

”ایک تو پڑھائی نہیں کرتی..... دوسرا..... یہ..... شکلیں..... اللہ..... یہ اولاد..... جہنم  
 رسید کروائے گی.....“ چوری پکڑے جانے سے وہ شرمندہ سی ہو کر رہ جاتی۔

”اپنی باجی کو دیکھو..... اول آتی ہے اکثر ہی..... ورنہ دوئم تو ضرور ہی..... اور تم.....  
 پڑھو گی نہیں تو فیل ہو جاؤ گی..... میں نے ہی بگاڑا ہے شاید تمہیں.....“

”اماں..... یہ تو..... ڈرائنگ ہے..... اسکول میں.....“

”جھوٹ تو نہیں بولتیں..... تمہارے ابا سچ کہتے ہیں..... کہ میرا ہی قصور ہے..... تمہاری  
 ہر بات مان لیتی ہوں.....“

”جھوٹ ہی تو بولا جا رہا ہے..... یقیناً.....“ ابا کی آواز پتھر کی طرح کان کے پردے پر  
 پڑتی..... نائلہ پتھری دیکھا کرتی۔

”کہاں لے جائیں گی یہ لکیریں..... یہ تصویریں تم کو.....؟“

ابا جانے کیسے اسی وقت گھر میں داخل ہوتے۔

”یہ شریف لڑکیوں کا چلن نہیں ہے.....“ وہ چہرہ اس کی طرف اور نظریں دوسری جانب  
 کر کے کہتے اور چلے جاتے اور اماں پاؤں پٹختی ہوئی ان کے پیچھے۔ ایسے میں کتنا غصہ آتا تھا.....  
 اُسے..... دونوں پر۔

جیومیٹری کی کاپی کے سادہ ورق پر بنے رنگ برنگے چہرے پر اس کے دو آنسو پ سے  
 گرتے۔ پانی کارنگ (water Colour) پانی میں گھل کر بے رنگ ہونے لگتا۔ رونے کی  
 خواہش گلے کے اندر پھندا سا ڈال دیتی۔



اتنی محنت سے..... میں نے..... خراب ہو گئی تصویر..... یہ ابا..... یہ ابا..... آخر ہیں ہی کیوں..... سب کچھ تو ہوتا ہے اماں کے پاس..... کھانا..... جیب خرچ..... کتابوں کے پیسے..... کاپیوں کے..... کاپیوں کے پیسے..... اتنے سارے..... پھر ابا بھلا کیوں..... رعب جمانے کے لیے..... اللہ کرے..... اللہ کرے..... اللہ کرے..... کہ.....

اللہ نہ کرے..... ایسا سوچتا ہے کوئی اپنے ابا کے لیے..... جانے یہ کس کی آواز تھی..... آواز تھی بھی یا.....

تصویریں بنانا جاری رہا..... آرٹ فائل مہینے میں دو بار باقاعدگی کے ساتھ گم ہو جایا کرتی..... رنگ سکول کے ساتھی استعمال کر لیتے تو بے چاری نائلہ کیا کرتی..... جواز معقول ہوا کرتا..... اور امی کی تھوڑی سی ڈانٹ اور تنبیہ کے عوض ایک نئی آرٹ فائل..... سودا مہنگا نہیں تھا۔ بلکہ کبھی کبھی تو کس قدر فائدہ مند.....

پیلے رنگ کے پتلے ٹین کے مستطیل ڈبے میں بارہ خانے مختلف رنگوں کے..... اور ساتھ میں نرم و نازک سنہری بالوں والا مو قلم..... تھوڑے میں بسی ہزار شہیہات..... کمرے کی تنہائی..... اب جنت میں بھی کیا ہوتا ہوگا۔

زندگی جنت سے بھی حسین تھی۔ مگر دنیا کی ہر جنت کی طرح عارضی..... کہ اس کے سارے رنگ، راز اور تھوڑے رطبت از بام ہو گئے۔ اسے آج بھی کتنا دکھ ہوتا ہے یاد کر کے..... گاڑی رک گئی تھی۔ نائلہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور ونڈو کے باہر دیکھنے لگی۔ سرخ روشنی پر لکھے Relax کے دائرے میں باجی کا چہرہ نظر آیا..... اس کا دل جیسے کہ خود کلامی کرنے لگا۔ ہفتے کا دن تھا۔ اسکول میں آدھے دن کے بعد چھٹی ہوا کرتی تھی۔

باجی دو دن سے کہہ رہی تھیں کہ ان کی ہفتے اور اتوار کی دو دن کی چھٹی ہے اور وہ اماں کے ساتھ مل کر میرا کمر صاف کروائیں گی۔

”میرا کمر صاف ہے بالکل۔“ میں نے باجی کی آنکھوں میں جانے کون سی چمک سے نظریں چرا کر کہا تھا۔

”تم کیا جانو..... اپنے پاؤں کے تلوے دیکھو کتنے میلے ہیں..... میں جانتی ہوں کیا صحیح ہے.....“ انھوں نے ”میں پر زور دیا تھا۔ آخر کو مجھ سے پانچ، چھ برس بڑی تھیں۔

”رہنے دیجئے نا باجی..... اگلے ہفتے کر لیں گے..... یا اتوار کو میری بھی چھٹی ہوگی نا.....

”مجھے اپنے کام نہیں ہیں کیا اتوار کو.....؟“ باجی گردن مٹکاتیں۔

”ٹھیک کہتی ہیں باجی..... تم زیادہ دخل مت دو۔“ اماں کو جب باجی پر زیادہ پیار آتا، تو اسے باجی بلایا کرتی تھیں..... اماں کی یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔

”اچھا چلو..... اتوار کو ہی کر لیں گے.....“ انھوں نے نہایت حاکمانہ انداز میں جیسے کہ رحم کھا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیں.....

مگر ایسا نہیں ہوا..... باجی..... دھوکے باز باجی.....

میں کسی ٹکٹ یافتہ مجرم کی طرح بیٹھک کے دروازے سے لگی تھی۔ تھانے کی دیواروں پر چسپاں جرائم پیشہ افراد کی تصویروں کی طرح میز پر میری چار آرٹ فائلوں کے موٹے موٹے ورق بکھرے تھے۔ بے شمار چہرے لیے ہوئے..... کہیں بڑے..... کہیں چھوٹے..... کوئی بزرگ..... کوئی بچہ۔ نرم تاثرات لیے ہوئے، دودھ پہنچانے والے حاجی صاحب گوالے کا چہرہ..... میری حساب کی سنگدل ٹیچر کا ناراض چہرہ..... بڑے دانتوں والے چوکیدار بابا کا چہرہ..... روتی ہوئی چھوٹی سی لڑکی کا بسورتا ہوا..... کوئی مسکراتا..... کوئی غصہ ور..... کوئی گنجبا..... کہیں لمبے لمبے بالوں والی عورت کا..... گورا..... کالا..... ہر چہرہ مجھے اپنے چہرے کی طرح عزیز تھا۔

”یہ سب کیا ہے.....؟“ ابا کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ انھوں نے میز پر اپنا بڑا بازو ایک جھٹکے سے جھاڑو کی طرح پھیر دیا۔ لمبے سے فرائک کے اندر میرے گھٹنے کانپ کانپ کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے رہے۔

چہرے لہراتے لڑھکتے فرش پر بکھر گئے۔ اور بعد میں باجی کے قبضے میں چلے گئے۔

اماں نے مجھ سے بات کرنا ترک کر دیا۔

حساب کے پرچوں میں بمشکل تمام پاس ہونے کی بجائے..... میں فیل ہو گئی..... اور تعجب کی بات یہ کہ باجی کو پہلے ہی پتہ تھا کہ جو سوال وہ مجھے کروا رہی تھیں امتحان میں ویسے سوالات غلط کر کے میں فیل ہو جاؤں گی۔

مجھے دوبارہ باجی کی تحویل میں دینے سے پہلے ابا نے ایک نہایت تجربہ کار اور سینئر قسم کے حساب داں استاد کا انتظام کیا کہ باجی کے خود امتحان سر پر تھے۔

حساب کے استاد گھر آنے لگے۔

ترنم ریاض

ماسٹر جی کے پیلے دانتوں پر ہر وقت رالیں جمع رہتیں۔ منہ سے ریشم کے لچھوں ایسے نئے نئے ویلے چوزوں کے درمیان جوں کے توں پڑے رہ جانے والے انڈے کی سی بدبو آتی۔ جنھیں باجی مجھے سنگھانے کے بعد پیٹ پکڑ کر دوہری ہو کے ہنسا کرتی تھیں۔ اور جیسے چوزوں کے استقبال کے لیے ٹوکری کے گرد کوٹھری میں کھڑی میں اماں کے چہرے پر لا تعلق سی مسکراہٹ دیکھ کر بچھ جایا کرتی۔ اس سے کہیں زیادہ تکلیف مجھے ماسٹر جی کے پاس قیامت جیسا ایک گھنٹہ گزارنے میں ہوتی۔

اکثر سر پر سے شملے والا صافہ اتار کر ماسٹر جی دونوں ہاتھوں کے میلے ناخنوں سے اپنا گنجاسر کھجاتے ہوئے منہ کھول کھول کر جمائیاں لیتے اور الجبرا کے زبانی یادگار مولے دوہراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سمجھایا کرتے۔

جیسے تیسے مڈل اسکول ہوا۔

باجی نے گھر میں مشورہ دیا کہ اگر آرٹس پڑھوں گی تو ڈرائنگ تو کرنا ہی ہوگی..... اور سارا وقت میں ڈرائنگ کرتی رہوں گی تو پڑھوں گی کہاں..... اس لیے نویں درجے میں میڈیکل پڑھایا جائے اور یہ کہ وہ مجھے خود گائیڈ کریں گی..... کہ آخر ان کی میڈیکل کی پڑھائی کس دن کام آئے گی..... کہ..... کہ روز Good یا Excellent ملتا تھا انھیں پریکٹیکل کاپی پر۔

گھر میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ جس دن باجی نے میری رَف کاپی پر ماسٹر جی کا جمائی لیتا سر کھجاتے ہاتھ والا چہرہ دیکھا تھا، اسی دن یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر میں ان کی سائنس کی ڈاگریز امر بنایا کروں تو وہ کسی سے نہیں کہیں گی کہ میں نے چہرے بنانے میں دوبارہ وقت ضائع کرنا شروع کر دیا ہے۔

”یہ تو..... بالکل..... لگتا ہے ابھی ہاتھ نیچے کر کے آنکھیں کھولیں گے اور سوال چیک کریں گے..... تمہاری کاپی پر.....“

باجی کئی لمحوں تک تصویر کو دیکھتی رہی تھیں.....

”اب تو تم بالکل اصلی صورت جیسا..... خیر..... یہ کوئی اچھی بات تو ہے نہیں..... لہذا تو تمہیں کوئی کام تک نہیں بتائیں کہ وقت نہ ضائع ہو..... ویسے..... میری ڈاگریز میں ایسا کوئی وقت نہیں لگے گا..... اور پھر میں ان سے کچھ..... کہوں گی بھی نہیں۔“

بہر حال.....

میری ہمدرد باجی..... میں Maths میں Nil، Physics کے Problems کیسے Solve

کروں گی۔

مجھے سائنس سے ذرا دلچسپی نہیں..... میں کیا پڑھوں گی۔

مگر باجی جو تھیں پڑھانے والی۔

وہ میری استاد مقرر ہوئیں تو ان کا مجھے بلاوجہ پیننا بھی جائز ہو گیا.....

چہرے جانے کہاں چلے گئے..... اماں کا چہرہ ناراض..... ابا کا چہرہ مجھے دیکھتے ہی رنگ

بدلتا..... باجی کا چہرہ..... فاتح سے تاثرات لیے..... اور میرا چہرہ..... آئینے میں نظر ہی نہ آتا.....

تمہیں تمہاری شخصیت مبارک ہو.....

نانکھ نے پہلو میں بیٹھے راحیل کو کنکھیوں سے دیکھا۔

موسیقی میں گم گردو پیش سے بے خبر یہ چہرہ مبارک ہو.....

اس نے ڈرائیونگ سپٹ کے سامنے اوپر کی جانب لگے چھوٹے سے آئینے میں راحیل کی

بند آنکھیں دیکھ کر دل ہی دل میں کہا۔

نواں درجہ کسی طرح ہو ہی گیا تھا۔

نانکھ سوچنے لگی..... Physiology کے Diagrams نے کہانی کی طرح سمجھے

انسانی نظام کی Description میں بہت مدد دی۔ ریاضی اور فزکس میں فیل..... باقی تمام میں  
اول.....

یہ تھا دسویں جماعت کے ششماہی امتحان کا نتیجہ۔ اور بورڈ کے امتحانات میں شامل ہونے

کے لیے ان سب میں پاس ہونا ضروری تھا۔ بڑی مشکل سے ان پرچوں میں دوبارہ امتحان دینے

کی اجازت ملی اور پاس کر لیے مگر بورڈ میں اگر ایک بھی مضمون میں فیل ہوں تو پورے امتحان میں

فیل ہونا لازمی تھا۔ اور پھر سال ضائع ہو جانا طے تھا۔

اور میں تین سال لگا تاں پرائیویٹ امتحان دیتی اور فیل ہوتی گئی۔

نئی نئی لیکچرر ہوئی باجی کو جب لڑکے کی اماں اور خالہ دیکھنے آئیں تو چھوٹے صاحبزادے

کے لیے، جو پڑھائی چھوڑ کر بھائی کی دکان میں خاصا کام سنبھال لیتے تھے، مجھ پر غور ہوا۔

ترنم ریاض

باہجی کے سسرال جانے کے بعد کی آزادی کے تصور میں مگن اور مسرور میں اماں کا پیازی رنگ کا کادانی دوپٹہ اوڑھے خشک میوے کی طشتری لیے اندر داخل ہوئی تو دونوں بزرگ خواتین نے مجھے باری باری چونک کر دیکھا تھا۔

فیصلہ یہ ہوا کہ ایک کند ذہن لڑکی کو پڑھانے کی کوشش میں مزید وقت ضائع کرنا حماقت ہوگا۔ رشتے کو قدرت کی طرف سے اشارہ سمجھ کر قبول کر لیا جائے۔

سارے چہرے روٹھ گئے مجھ سے ....

زندگی کے افق پر ایک نیا چہرہ ابھرا۔ اس کا گھر سنبھالنے میں سارا آرٹ خوب کام آیا۔ اور پھر گھڑنگلی میں ..... کہ جیٹھ جی کی پروفیسر بیوی کی غیر موجودگی میں مجھے گھر کا ہر کام خوش اسلوبی سے نبھانے کی ہدایت تھی۔ اور وہ کبھی کبھی بہ آواز بلند خدا کا شکر کرتیں کہ کم از کم یہ ذرا سا سلیقہ تو پیدا ہوا مجھ میں ..... جو میں نے ان ہی کی صحبت میں سیکھا تھا ..... کیونکہ پڑھنے میں مصروف و مشغول ہونے کے باعث انھیں مجھے ہی کام کاج سمجھانا پڑا تھا مائیکے میں .....

اس سے زیادہ وہ کبھی کیا سکتی تھیں۔ کیونکہ جب میری ہی دلچسپی تعلیم میں نہیں تھی تو پھر انھوں نے مجھے گھر سنبھالنے لائق بنانے میں محنت کی۔

رات کے کھانے کی میز پر پھولی ہوئی گرم گرم چتکبری روٹیاں میرے ہاتھ سے لیتے وقت، ان سب باتوں کا انھوں نے کئی دفعہ کھلے دل سے اعتراف کیا تھا۔  
کھلے دل والی باہجی .....

راحیل نے دوبارہ وہی سریلانگمہ چھیڑا تو نائلہ پھولی ہوئی روٹی چھوڑ کر گاڑی کی کچھلی نشست پر لوٹ آئی۔

Since my baby left me  
I found out a place to dwell  
Its, down at the end of a lonely street  
Of heart break hotel

وہ بالکل ایلیوس پریسلی کی طرح سر ہلار ہا تھا۔ دھن بھی دل میں اترے جاتی تھی ..... آج راحیل کی آواز میں نائلہ نے درد محسوس کیا تھا۔ گانے کا اس کے بعد کا حصہ نائلہ کو اور ادا اس کرے گا ..... وہ جانتی تھی۔ اور شاید راحیل بھی جانتا تھا۔ اس نے آواز ذرا دھیمی کر لی۔ یہ گانا اسے بہت

پسند تھا۔ اور اسے اسٹیج پر بھی گانا تھا۔ اسے گاتے وقت اداس ہو جانا بھی اچھا لگتا تھا۔

You make me so lonely baby

I get so lonely

You make me so lonely

I could die

ناکلہ رنجیدہ نظر آ رہی تھی.....

خدا نہ کرے..... میرے فنکار..... آخری لائن سن کر اس نے دل میں کہا۔

آج بہت اداس ہے راجیل..... وہ سوچنے لگی۔

اس کا باپ اس سے بہت خفا ہے..... اور باپ کی ہاں میں ہاں اگر نہ ملائی جائے تو بچے

خراب ہو جاتے ہیں۔ باجی نے کہا ہے۔

”میں نے اسے گٹار کیوں لے کر دی۔

میں نے اسے میوزک اسکول کیوں بھیجا۔

ہر شام بون ویٹا والا دودھ ہاتھ میں لیے اس کے کمرے کے دروازے کے قریب کھڑے

ہو کے اس کا گٹار سن کر اس کی حوصلہ افزائی کیوں کی۔

میں ماں ہوں..... کہ دشمن..... شرم نہیں آئی مجھے۔

اپنا انجام بھول گئی..... میں.....

باجی، راجیل کے نویں جماعت کے ششماہی امتحان میں ریاضی کے ۱۰۰ میں سے ۳۴ نمبر

دیکھ کر اونچی آواز میں سمجھا رہی تھیں۔ آوازیں سن کر گھر کے دوسرے لوگ بھی آگئے تو مارے

ہمدردی کے باجی کی آواز گلوگیر ہو گئی تھی۔

"O shut up." وہ چیخا تھا۔ یہ مام کا زمانہ نہیں ہے..... شاید اس کی نظروں میں میرا اس

کی کاپی کے کور پر پنسل سے کھنچا ہوا اس کا گٹار بجاتا سکیج گھوم گیا تھا۔ جو دو سال سے اس نے اپنی

میز کی دراز میں سنبھال رکھا تھا۔

"Just do'nt interfere in my life" وہ اسکول سے ملار پورٹ کارڈ لے کر

کمرے سے جانے لگا تو اس کے باپ نے اس کے چہرے پر ایک زور کا تھپڑ مارا۔

”بڑوں سے زبان لڑاتے ہو؟“ میں نے فوراً کہا۔

اس نے میری طرف زخمی نظروں سے دیکھا..... شفاف رخسار پر پانچ سرخ لکیریں

چھالوں کی طرح ابھر آئی تھیں۔

کئی دن مجھ سے نظر ملا کر بات نہیں کی تھی۔ میں نے سمجھنا چاہا تو کمرے میں گھس کر دروازہ  
پتخ کر بند کر دیا۔

اس کے بعد میں نے کچھ نہ کہا۔

نانکھ نے تصور میں اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔

اسکول کی طرف سے جب والدین کے اجازت نامے پر دستخط کی باری آئی تو..... میں نے  
چپکے سے دستخط کر دیئے اور کسی کو پتہ نہ چلا۔

اب میرے ٹیڈی بیئر کو مجھ سے ناراض نہیں رہنا چاہئے۔  
نانکھ سوچنے لگی۔

آج وہ اسی ریہرسل کے لیے جا رہا تھا۔ اپنے پسندیدہ گلوکار کے گائے سب سے پسندیدہ  
گانے کی ریہرسل..... وہ اس کے گانے گاتے ہوئے اکثر سوچوں میں گم ہو جاتا۔  
”قابل لوگ زیادہ دیر جیتے ہی نہیں..... کیوں مام؟“

ایک دن جب اس نے نانکھ کو ایلیوس پر ایسلی کے کئی گانے گا کر اور بجا کر سنائے تھے، وہ  
ایسے ہی اداس تھا۔

ایلیوس پر ایسلی نو جوانی میں ہی انتقال کر گیا تھا۔ بے حد خوش شکل نو جوان تھا وہ..... بیضوی  
چہرہ..... اونچا قد..... تندرست، چست بدن، سرخ و سفید رنگت، بالوں کا رنگ سیاہ کرتا تھا وہ اور  
پوشاک اپنے وضع کردہ انداز کی جاپانی شہزادوں کی بڑے کالروں والی جیسی کچھ۔ جس سے شانے  
اور وجیہ معلوم ہوتے۔ چمکیلے رنگوں والی۔ بہت سے رنگ برنگے بٹنوں والی۔ مختلف ڈیزائن کے  
ہیرے جڑی کر بند والی۔ گاتے ہوئے جب اسٹیج پر تھرکتا تو دلوں کی دھڑکن اس کی تال پر تھرکتی۔ یہ  
باتیں نانکھ کو راحیل نے بتائیں تھیں۔

نانکھ یاد کر رہی تھی کہ ایک بار اس نے کسی شو کے دوران اپنا پسینہ خشک کر کے رومال  
تماشائیوں کی طرف اچھالا تھا تو لوگوں نے اس رومال کو حاصل کرنے کے لیے کسی نایاب نعمت کی  
طرح انگنت ہاتھ بڑھائے تھے۔

ٹیلی ویژن پر دیکھا تھا نانکھ نے۔

”موت تو اللہ کے اختیار میں ہے بیٹا..... ایسا تو نہیں ہے..... بہت سے قابل لوگ برسوں جیتے ہیں..... بہت سے عام لوگ کم جیتے ہیں، یا اس کا الٹ بھی ہوتا ہے.....“

”مگر ماما..... میں کیوں اس شدت سے محسوس کرتا ہوں..... اس کے بارے میں اتنا زیادہ..... میں دیکھنے..... اس کی موت کے تیس سال بعد پیدا ہوا..... پھر بھی..... King تھا وہ Music

کا..... Rock-n-Roll کا..... I just adore him mom.....“

”کیوں کہ آپ کی نظر میں وہ سب سے اہم آدمی ہے..... آپ موسیقی کو جاننے سمجھنے والے ہیں..... اور وہ ایک پیدائشی موسیقار تھا۔“

”ہاں..... ایک مکمل فنکار تھا وہ..... اُس گمنام شخص کا درد کیسے محسوس کیا اس نے..... کہ درد کو گانے میں تبدیل کر کے امر کر دیا..... کتنا مشہور ہو گیا Heart Break Hotel کے نام سے وہ مغربی ہوٹل..... جب اس نے گانے کے ساتھ ڈانس کر کے لوگوں کا دل جیت لیا تھا جب تک گاتے ہوئے کوئی ناچا نہیں کرتا تھا اسٹیج پر..... وہ ایک درد مند..... ایک درد مند دل تھا اس کے پاس..... امریکن ہو کر بھی وہ افریقیوں کے دکھ بانٹتا تھا۔

گورا ہو کر بھی اس کے اندر سے افریقیوں کی آواز آتی تھی..... انسان کو ایسا ہی سچا اور ایماندار ہونا چاہیے..... ہے نا..... ہے نا ماما.....“

نانکھ کو اچھا سامع پا کر وہ دل کی باتیں کہتا.....

”ہاں..... میری جان..... میرا بچہ کتنا عقل مند ہے.....“

وہ اس کا شانہ تھپتھپا دیتی.....

بال سہلا دیتی.....

ماتھا چوم لیتی.....

”ماما..... دیکھئے گا..... سارے سکولز میں سے ہمارا گروپ ہی فرسٹ آئے گا..... اس بار بھی..... فائنل میں پر فارم کرنے کے لیے..... ہم سب بہت Dedicated ہیں.....“

”انشاء اللہ.....“ نانکھ دعا دیتی۔

انشاء اللہ..... گاڑی میں بیٹھی نانکھ نے دھیرے سے گردن اس کی طرف موڑی۔

آج وہ ضرور مجھ سے بات کرے گا۔ میرا شکریہ ادا کرے گا۔ میری گود میں سر رکھ کر مجھے



منائے گا..... معافی مانگے کا مجھ سے۔

نانکھ سوچتی رہی..... وہ اپنی دھن میں گاتا بجاتا رہا۔

نانکھ کی منزل قریب آرہی تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے کامیابی کی دعائیں دینا چاہتی تھی۔ بہت دنوں سے اس نے اس کا سر نہیں چھوا تھا۔ مگر وہ بالکل بے خبر گارہا تھا۔

یہ مجھ سے ایسے نہیں روٹھ سکتا۔ اس چہرے میں تو میں نے آرٹ فائلز کے سبھی چہرے جوڑ رکھے تھے۔ اس کے معصوم ہاتھوں کی ماہرانہ جنبش سے چھیڑے جانے والے نغموں کو سنتے ہوئے میں پیلے رنگ کے ٹین کے نازک سے مستطیل ڈبے کے سب رنگ اور ان رنگوں سے مزید بننے والے ان گنت رنگ دیکھ لیتی تھی۔

نانکھ نے نہایت اداسی سے سوچا۔

میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہوگا..... مگر اس میں بے فنکار کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دیا۔ اس کے اس Concert کی منظوری دینے کے لیے جانے کیسے کیسے جواب دہ ہونا ہوگا مجھے.....

وہ ایک آہ بھر کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں آخر کار بھیگ ہی گئیں۔ کون سمجھے گا مجھے..... آخر..... اس کے بوجھل دل میں خیال ابھرا.....

گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رکی۔ اس نے تھکے ہارے سے قدم گاڑی سے باہر رکھے ہی تھے کہ راحیل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔

”یہ سب..... آپ ہی کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے مام..... مجھے کامیابی کی دعا دیجئے..... My sweet mom..... آپ کو جانے کیا جھیلنا پڑے گا نا.....؟ مگر میں آپ کے ساتھ ہوں ماما..... آپ گھبرائیے گا نہیں۔“ اس کی آواز بھرا گئی۔

”صرف آپ..... آپ مجھ سے ناراض مت رہیے گا کبھی..... میں غلط نہیں ہوں ناما.....؟“

تم کبھی غلط نہیں تھے، میرے فنکار..... نانکھ اسے دیکھتی رہی..... پھر سر ہلکے سے نفی میں ہلا کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتی ہوئی باہر آ گئی.....



## میرا کے شام

”کس سے بات کرنا ہے۔؟“ فون پر جاذب سی نسوانی آواز سن کر صبیحہ نے پوچھا۔  
 ”جی۔ آپ ہی سے۔“ آواز میں ہلکی سے کھنک شامل ہو گئی۔

صبیحہ اُس آواز کو بخوبی پہچانتی تھی۔ یہ وہ آواز تھی جس کی وجہ سے اُسے عجیب عجیب تجربے ہوئے تھے۔ مختلف حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اور خود صاحبہ آواز کو اُس نے مثبت اور منفی دونوں صورتوں میں ثابت قدم دیکھا تھا۔ ایسی ثابت قدمی کو صبیحہ نادانی بلکہ دیوانگی کہتی تھی۔ یا کچھ ایسی یکسوئی کہ سوائے ایک شے کے انسان ہر دوسری چیز سے اس درجہ بے نیاز ہو کہ خود اپنی پرواہ رہے نہ دوسروں کی۔ دوسروں میں تقریباً سب ہی آتے تھے والدین، اساتذہ، طلباء و طالبات، سکول کا عملہ اور ایک انسان کو چھوڑ کر ہر کوئی..... بلکہ اُس انسان سے متعلق لوگ بھی۔  
 اور یہ سلسلہ کوئی چار برس سے جاری تھا۔

ایک دن صبیحہ کو عمران کے سکول کی طرف سے فون پر صبح آٹھ بجے معہ اپنے شوہر کے سکول پہنچنے کی ہدایت ملی تھی۔

عمران کے گھر پہنچنے پر صبیحہ نے اُس سے سکول بلائے جانے کی وجہ دریافت کی تو اُس نے لاعلمی ظاہر کی تھی۔ لیکن صبیحہ نے اُس کے محض چودہ سالہ معصوم سے چہرے پر پریشانی کے سائے لہراتے دیکھ لیے تھے۔ جنہیں پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔  
 شام کو صبیحہ نے فون کے بارے میں عادل سے کہا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر دونوں میاں بیوی قیاس آرائیاں کرتے رہے۔ پھر عادل نے بیٹے سے دریافت کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ معمول سے پہلے ہی سوچا تھا۔

دوسری صبح، صبیحہ اور عادل سکول کے جس ہال میں اندر بلائے جانے کے منتظر تھے، وہاں دوسری طرف دو اور لوگ اُن کے آنے کے کچھ دیر بعد آ بیٹھے تھے۔ مرد سا نولا، درمیانہ قد اور خوش لباس تھا اور عورت گورے رنگ کی بھلے سے چہرے والی خاتون تھی جو صبیحہ کی ہی طرح پریشان سی تھی۔ اور رہ رہ کر اپنے (غالباً) شوہر سے اسی بارے میں بات کر رہی تھی کہ سکول بلائے جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اُس کا شوہر سر ہلا کر رہ جاتا اور زبان سے کچھ نہ کہتا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی جس کی عمر تیرہ چودہ برس کی رہی ہوگی اُن کے پاس آئی تو عورت نے پریشان تاثرات کے ساتھ اُسے دیکھا۔

”بتادے اب بھی..... کیا بات ہوئی ہے؟“ اُس نے لڑکی کے ماتھے سے بال ہٹائے۔ لڑکی کے بال سنہرے تھے۔ جلد سنہری مائل گوری تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور قدرے سہمی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ جیسے ابھی ابھی کسی نے اُسے ڈانٹ دیا ہو۔ بھرے بھرے رُخسار اور چھوٹی سی ناک جس کا رُخ ذرا سا اوپر کو تھا، اُس کے چھوٹے سے دہانے کے گول چہرے پر نہایت جاذب نظر آتی تھی۔ نازک سی گردن پر سنہرے بال گہرے ہرے رنگ کے چھوٹے سے ہیر بینڈ میں پھنسے تھے اور گردن کے دونوں اطراف آ کر کاروالی سفید قمیض کو چھور ہے تھے جہاں گہرے سبز رنگ کی ٹائی میں ڈھیلی سی گرہ پڑی ہوئی تھی۔ اس نے آستینیں کہنیوں تک سمیٹ رکھی تھیں۔ اپنی گوری سڈول کلائی میں سے سونے کا نازک سا بریس لیٹ اُتارتے ہوئے اُس نے عورت کو ایک نظر دیکھا اور سر نفی میں ہلا دیا۔

”کہانا ماں..... مجھے کچھ نہیں معلوم۔“ اُس نے انگلی میں پڑی انگوٹھی بھی اُتاردی اور دونوں چیزیں ماں کی گود میں رکھ دیں۔

”پرس میں رکھ لو ماں..... یوں ہی ڈانٹیں گے۔“ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور صبیحہ اور عادل کو دیکھ کر ذرا سا ٹھٹھکی تھی کہ اتنے میں عمران آ کر دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے اُسے دیکھا تو اُس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ بھی نہ پائی تھی کہ آنکھوں میں خوف کے سائے سے لہرانے لگے۔ عمران نے اُسے دیکھا اور پھر آنکھیں ہلکی سی میچ کر سر کی خفیف سی جنبش سے نفی کا اشارہ کیا تو وہ مسکراتی ہوئی دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اپنے فکر کی کوئی بات نہیں کے اشارے کے ردِ عمل میں لڑکی کو مطمئن ہوتا دیکھ کر عمران بھی مسکرا دیا تھا۔

صبیحہ یہ منظر سیاہ فلم لگے شیشے کے دروازے سے باہر بغور دیکھنے سے ہی دیکھ پائی تھی۔ پھر

صبحہ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ دیر پہلے سہمی ہوئی ہرنی سی آنکھوں والی لڑکی نے عمران کو دیکھ کر شانے اچکاتے ہوئے ہاتھ ہلکے سے پھیلائے اور سر جھٹک کر ہنس دی جیسے کہہ رہی ہو کہ مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔

کچھ منٹ بعد چار بالغ اور دو نابالغ لوگ وائس پرنسپل کے کمرے میں کھڑے تھے۔ لڑکی کا نام چاندنی شرما تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اُس کی آنکھوں میں خوف کے سائے پھر سے واضح ہو گئے۔ اس نے آستینوں کی سلوٹس کھول کر کلائیوں پر بٹن بند کر لیے تھے۔ کالروالی سفید قمیض کے اوپری کھلے بٹن کے قریب جہاں سبز ٹائی کی ڈھیلی گرہ بندھی تھی، پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر سر جھکائے اپنے جوتوں کو دیکھ رہی تھی۔

عمران اُس سے کچھ فاصلے پر گردن اٹھائے آنکھیں نیچی کیے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے سیدھا کھڑا تھا۔

”بیٹھے مسز شرما۔“ وائس پرنسپل نے کہا۔

”آپ لوگ بھی بیٹھے۔“ انہوں نے عادل کی طرف دیکھا۔

”ہاں تو عمران فاروقی..... بتایا پرنس کو.....“

عمران ایک قدم اُن کی طرف بڑھا اور اٹینشن میں کھڑا ہو گیا۔

”No sir“ اُس نے سر اوپر اٹھا کر جھکالیا۔

”We did not do any thing sir“ وہ دھیرے سے بولا۔

”Shutup..... سب لوگ غلط ہیں..... اور ایک تم سچے ہو.....“ وائس پرنسپل گرجے۔

”مسٹر فاروقی۔ یہ دونوں کل بریک کے بعد بھی پی ٹی گراؤنڈ میں بیٹھے تھے اور وہ۔“

Period ان دونوں نے Bunk بھی کیا تھا۔ تقریباً آدھے سے بھی زیادہ کلاس ختم ہونے کو تھی

کہ یہ لڑکا آیا..... اور یہ لڑکی..... اس سے ایک کلاس پیچھے ہے..... 8th میں..... بھلا کیا لینا

دینا..... انہوں نے سر جھکالیا۔

”And do you know“ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے.....

”No sir.No sir“ وہ ریلنگ ادھر سے..... جہاں سے Short Cut ہے سر.....

اونچی تھی..... تو چاندنی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا..... اترنے کے لیے.....“ عمران نے جلدی سے کہا۔

”اور اسی وقت چھوڑ دیا سر.....“ چاندنی جھٹ سے بولی۔

”Sorry Sir“ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔

”This shouldn't happen in future.“ آپ لوگوں کو ہم نے اسی لیے بلوایا

ہے کہ یہ بات repeat نہ ہو۔ سکول کا ماحول خراب نہ ہو..... اور بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں.....

یہ کوئی بات ہے.....؟ Written دو تم دونوں..... کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا..... ہوا تو دونوں کو

Suspend کر دیں گے..... سمجھے.....؟“

”Yes Sir.“

دونوں کاغذ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کتابوں کے بستے وہ اپنی اپنی کلاس میں چھوڑ آئے تھے۔ وائس پرنسپل نے اپنے پی۔ اے سے انھیں کاغذ کا ایک ایک ورق دینے کا اشارہ کیا۔ صبح نے پرس میں سے قلم نکالا تو چاندنی نے ہاتھ بڑھایا اور صبح کی آنکھوں میں دیکھا۔ صبح کو معصوم سے چہرے پر اپنایت اور التجا کی عجب آمیزش نظر آئی تو ہونٹوں پر آ رہی مسکراہٹ کو اُس نے بڑی کوشش سے قابو میں رکھ کر قلم اُس کے ہاتھ میں دے دیا۔

باہر آ کر والدین لوگ آپس میں کچھ جھینپے جھینپے سے متعارف ہوئے، جیسے کہ سب اپنی جگہ خود کو مجرم تصور کر رہے ہوں۔ چاروں نے مل کر بچوں کو کچھ سمجھایا..... کچھ ڈانٹا بھی۔

بچوں کو اپنی اپنی جماعتوں کو لوٹنا تھا۔ بچے چلے گئے تو وہ چاروں پارکنگ تک ساتھ چلتے چلتے ایسے گھل مل گئے جیسے پرانے دوست ہوں۔ مگر ایک دوسرے سے اپنے اپنے بچے کی غلطی پر ندامت ظاہر کر کے معافیاں بھی مانگ رہے تھے۔ اور آگے ایسا نہ ہونے کا یقین بھی دلارہے تھے..... ساتھ ہی اس بہانے اچھے لوگوں سے ملاقات ہو جانے کے لیے ایک دوسرے کے تیس مسرت کا اظہار کیا گیا بلکہ اس تعارف کے لیے بچوں کی ممنویت کا ذکر بھی ہوا۔

اس ’اینکاونٹر‘ کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ صبح فون اٹھاتی تو کوئی اُس کی آواز سنتے ہی سلسلہ منقطع کر دیتا۔ اس بات سے اُسے عادل پر شک ہونے لگا کہ شاید کوئی عورت.....

وہ نہیں جانتی تھی کہ عادل کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اور ایک اتوار کی دوپہر جب عادل اپنے کسی خیالی رقیب کو اونچی آواز میں کھری کھری سنا رہا تھا تو وہ شرمندہ سی کمرے میں دُکبی رہی کہ اُس نے عادل پر بلاوجہ شبہ کیا اور اب جانے عادل کیا سمجھ رہا ہوگا۔

عادل نے فون لائن پر نمبر شناخت کرنے والا آلہ لگوا یا تو Blank Calls آنا یکسر ہی بند

ہو گئیں۔ یعنی blank caller کو اطلاع ہو گئی کہ نمبر شناخت ہو سکتا ہے۔  
ادھر عمران فون پر گھنٹوں باتیں کرنے لگا تھا۔ اس وجہ سے کئی ضروری کام رہ جاتے۔  
ڈانٹ کھا کر بھی فون نہ چھوڑا جاتا۔

بس اماں..... دو منٹ اور..... میرا ایک دوست ہے..... ہو سکتا ہے..... وہ بہت بیمار  
ہے..... اُس کے Room Mate کے ساتھ Discuss کر رہا ہوں کہ اُس کے Parents  
کو Inform کریں..... یا۔“

وہ بھولے پن سے بتاتا اور صبح پریشان ہو جاتی اور سب کام بھول کر بیمار لڑکے کے بارے  
میں مزید دریافت کرتی۔

ایسے عجیب عجیب حادثے اب اکثر سننے میں آتے تھے۔

کبھی کسی دوست کا ایکسیڈنٹ میں پاؤں زخمی ہو جاتا اور عمران اس کی مزاج پرسی کے لیے  
جانے سے گھر دیر سے پہنچتا اور کبھی پریکٹیکل کرتے کرتے سکول کی بس نکل جاتی اور گاڑی بھجوانا  
ہوتی۔

بات جب کھلی جب سکول کے Reception سے مزید فون آنے لگے اور گھر میں شکایت  
نامے بھی پہنچنے لگے۔

..... کل آپ کا بیٹا اور چاندنی..... چھٹی کے بعد سکول کے پھانک کے پاس زینے پر بیٹھے  
ایک گھنٹہ باتیں کرتے رہے.....

..... آپ کے بیٹے نے گیٹ کیپر کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اس نے صرف سکول میں رکنے کی  
وجہ پوچھی تھی.....

..... آپ کے بیٹے نے چاندنی سے جھگڑنے پر ایک لڑکے کو تھپڑ مارا.....

..... آپ کے بیٹے نے ہوٹل کے لڑکوں سے لڑائی کی.....

..... آپ کے بیٹے نے اس ہفتے حساب کی کوئی کلاس اینڈ نہیں کی.....

..... آپ کے بیٹے نے کلاس ٹیچر کے ساتھ بحث کی.....

..... آپ کا بیٹا سٹاف پارکنگ کے پیچھے چاندنی کے ساتھ کوک پی رہا تھا وغیرہ۔

اس بیچ عادل نے دو ایک دفعہ عمران کو تھپڑ لگائے تھے اور عاق کرنے کی دھمکی دی تھی۔

اور چاندنی سے ماں نے بات کرنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔

صبحیہ سے مسز شرما کی بات ہوا کرتی تھی۔

بچوں پر کسی سزایا دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سال میں دو تین بار چاروں والدین کا سکول میں حاضر ہونا ناگزیر ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ معاملہ پرنسپل تک پہنچ گیا۔ وہ مجرمین کی طرح شرمسار سے پرنسپل کے سامنے پیش ہوئے۔

”تین سال سے تم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں..... یہ سکول ہے یہاں نظم و نسق کی پابندی لازمی ہے.....“

پرنسپل سر جھکائے اپنے کاغذوں کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہتے۔

”Sir یہ co-ed ہے تو بچے..... آپس میں بات تو کریں گے ہی..... اور خدانخواستہ کوئی غلط بات تو نہیں ہوئی آج تک..... ہاں..... یہ ڈسپلن کی بات تو ہے ہی Sir اب یہ بڑے ہو رہے ہیں..... ایسی حرکت دوبارہ نہیں کریں گے.....“ صبیحہ سر جھکائے عمران کے پیروں کی طرف ایک نظر پھینکتی۔

”ہمیں اپنی بیٹی پر پورا Confidential ہے سر..... اب ایسا نہیں ہوگا.....“ مسز شرما چاندنی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتیں۔

”ہمیں بھی اپنے Students پر پورا بھروسہ ہے..... یہ اچھے شہری بنیں گے..... سکول کا نام روشن کریں گے..... بس اپنی class کبھی Bunk نہ کریں..... Discipline کا خیال رکھیں..... اور کیا چاہیے ایک ٹیچر کو..... God Bless you..... go.....“ پرنسپل سب کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائے اور اپنے کاغذوں پر جھک گئے۔

معاملات کچھ سمجھتے نظر نہیں آرہے تھے۔

”صبحیہ جی..... آج میرے کو پتہ کیا کہتی ہے.....“ مسز شرما نے جنھیں اب صبحیہ کافی وقت سے سندھیا جی بلاتی تھی فون پر کہا۔

”جی..... کون چاندنی کہتی ہے.....؟“ صبیحہ بولی۔

”ہاں جی اور کون..... آج میرے کو کہتی ہے..... مجھے برتھ ڈے Present میں عمران چاہیے..... میرے پیروں سے تو جمین کھسک گئی۔“

”God ایسا کہا اُس نے.....“

”اور کیا..... اُس کے پاپائیں گے تو مار ڈالیں گے.....“

”پیار سے سمجھائیے نا..... کہ ایسی باتیں نہیں کہتے۔“  
 ”کہاں مانتی ہے صبیحہ جی..... کہتی ہے میں نی ڈرتی کسی سے..... بول دو چاہے پاپا کو.....“  
 اب بتائیے کیا کروں.....“

”یہ تو بہت بری بات ہے۔ عمران بھی بد تمیز ہو رہا ہے آج کل..... فون کرنے پر بحث شروع ہو جاتی ہے۔۔ کتاب تو میں دیکھتی ہی نہیں اُس کے ہاتھ میں کبھی.....“ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی۔

”اب تو ہائی سکول ہے..... فیل نہ ہو جائے کہیں.....“ صبیحہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔

”اب آخر ہو گا کیا.....“ سندھیانے پوچھا۔

”پتہ نہیں..... خدا ان کو عقل دے..... میں تو خود ہی ہار گئی ان بچوں سے.....“

”کیا کریں جی..... بچے تو بچے ہیں..... مگر یہ کہ اب جمانہ بالکل بدل گیا ہے..... پہلے تو

اپنے منہ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا شادی کی..... اور اب دیکھو.....“ سندھیانے پنجابی لہجے میں جب اردو بولتی تو صبیحہ کو بہت اچھا لگتا۔ ایک عجیب سا ادگی بھری متانت تھی اُس کی باتوں میں جس کی صبیحہ قدر کرتی تھی۔

”آپ فکر نہ کیجئے سندھیانے..... سب ٹھیک ہو جائے گا۔“

”آپ کو پتہ ہے..... آپ کی بھاشانا..... میرے کو بہت اچھی لگتی ہے.....“

”اور مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں.....“

سکول سے اب بلاوے کم اور شکایت نامے زیادہ آنے لگے اور ہر شکایت نامے کے بعد صبیحہ اور سندھیانے کی ٹیلیفون پر باتیں ہوتیں۔

اُن دنوں سکول میں Annual Day کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دونوں بچے بھی کچھ مصروف ہو گئے تھے۔ چاندنی خوش گلو تھی اور عمران اداکاری اچھی کر لیتا تھا۔

صبیحہ نے سکھ کا سانس لیا کہ فون پر اُن کی گھنٹوں کی باتیں کچھ کم ہوئیں..... عمران مختلف ملبوسات پہن کر سکول جاتا..... کبھی میک اپ کا سامان کبھی انگریزی ٹوپی ساتھ لی جاتی۔ لے لے جوتے اور گلوبند وغیرہ خریدے گئے۔ مصروفیات بھی بڑھتی گئیں۔



ادھر کئی دن صبیحہ کی سندھیا سے بات نہیں ہوئی تو صبیحہ نے فون ملایا۔  
 ”بڑی لمبی عمر ہے آپ کی..... میں تو آپ کو ہی یاد کر رہی تھی۔ سوچتی تھی جرا free ہوں تو  
 بات کروں۔“

”دیکھئے نادل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔“ صبیحہ نے نرمی سے کہا۔  
 ”دل کو کیا ہوتی ہے.....“ سندھیا نے نہایت سادگی سے پوچھا تو صبیحہ نے بڑی محبت سے  
 سارا معاملہ سمجھایا جسے سن کر سندھیا ہنس دی۔

”آپ کو پتہ ہے..... اُس دن جب ہم نے سکول میں دیر تک رکنے سے منع کیا۔ تو روپڑی  
 تھی کہ Rehearsal چل رہے ہیں..... دوپٹیں اٹھا کر دے ماریں..... جمین پر..... اتنی اچھی  
 میری کرا کری.....“ وہ اطلاع دینے والے مخصوص لہجے میں بولی اور زور سے ہنسی۔

”پتہ ہے مجھے، اس کے پاپا کیا کہتے ہیں..... کہتے ہیں.....“ وہ قہقہوں کے درمیان رک  
 رک کر بولتی گئی۔

”بولتے ہیں کہ میرے باپ نے بڑی گلٹی کی پاکستان چھوڑ کر ادھر آ گیا..... اگر میری اولاد  
 نے ادھر یہ ہی کرنا تھا تو فر پاکستان کیا بُرا تھا.....“ وہ پل بھر کوز کی۔

”پتہ ہے صبیحہ جی..... بھگوان جانتا ہے..... یہ دھرم کی بات بیچ میں نہ ہوتی تو..... میں نے  
 نا، ابھی سے آپ سے اپنی بٹیا کے لیے.....“

”آپ بھی یقین کیجئے کہ یہ مذہب کا معاملہ نہ ہوتا تو میں بھی..... جھولی سپار کر آپ کی بٹیا کا  
 ہاتھ مانگ لیتی..... اور ساری عمر اُسے سینے سے لگائے رکھتی۔“ صبیحہ نے دھیرے سے جملہ مکمل کیا۔

اینول ڈے کی تقریبات کے بعد فون کا سلسلہ کچھ اور کم ہو گیا۔  
 صبیحہ کو احساس بھی نہ ہوا کہ فون کو گھنٹوں خاموش دیکھ کر وہ سوچوں میں ڈوب سی جاتی تھی۔  
 جب صبیحہ کو یقین ہو گیا کہ بچے آپس میں بات نہیں کر رہے تو اُس نے سندھیا سے معلوم  
 کرنے کا فیصلہ کیا، مگر خود سندھیا نے یہی بات دریافت کرنے کے لیے فون کیا۔ معلوم ہوا کہ  
 چاندنی نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ اور عمران بھی گھر میں کچھ چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرنے لگا تھا۔  
 بہانے بنا کر روتا تھا۔ نہ کھانے کے برابر ہی کھاتا تھا وغیرہ..... اس طرح کی گفتگو کے بعد ماؤں

نے ادھر ادھر ٹیلیفون کھڑکھڑائے..... کچھ وجہ معلوم نہ ہوئی..... مگر پھر تین چار روز کے اندر اندر فون والا سلسلہ بحال ہو گیا۔ اور نہ صرف ماؤں نے بلکہ والد صاحبان نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ جانے کب ان دونوں کے اس تعلق نے والدین کے دلوں میں ایک جگہ بنالی تھی۔

”اس کے پاپا بھی پوچھ رہے تھے کہ بچوں میں جھگڑا تو نہیں ہوا.....“ سندھیانے یہ بات فون پر بچوں کی موجودہ حالت کی نوعیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے دوبار کہی تھی۔ جسے سن کر صبیحہ اُداسی سے مسکرا دی تھی۔

”ہاں..... عادل بھی یہی پوچھ رہے تھے.....“ وہ بولی تھی۔

مگر ادھر فون پر باتوں کے درمیانی وقفے کچھ زیادہ ہو گئے اور باتوں کا وقت کچھ کم۔ شاید چشمک ابھی باقی تھی۔ صبیحہ سوچا کرتی۔

”چاندنی کو کسی نے بتایا تھا کہ عادل کسی لڑکی سے باتیں کرتا تھا۔“ سندھیانے فون پر کہا۔

”بعد میں پتہ چلا کہ گلت نہیں تھی..... جو فردور ہو گئی تھی۔“

”چلیے اچھا ہوا..... ہنسنا بولنا چھوڑ دیتے ہیں بچے تو.....“

”میرا تو صبیحہ جی سارا گھر ہی دکھی لگ رہا تھا.....“

”بچے شاید سمجھدار ہو گئے ہیں اب..... فون پر باتیں کم ہوتی ہیں.....“

”exams بھی تو آرہے ہیں ان کے.....“

”ہاں..... یہ تو ٹھیک ہے..... شاید اسی لیے.....“ صبیحہ کہتی۔

امتحانات شروع ہو کر ختم ہو گئے۔ مگر فون دھیمی رفتار سے ہی ہوتے رہے ادھر سکول سے بھی کوئی شکایت نہ آئی۔

شاید عمر کے ساتھ ساتھ بچے احساس ذمہ داری اور فرائض کی اہمیت سمجھ رہے تھے۔ مگر کبھی کبھی صبیحہ اُداسی ہو جاتی کہ اب سال ڈیڑھ سال سے چاندنی صبیحہ کی آواز سن کر فون کا سلسلہ منقطع نہیں کرتی تھی۔

”آئی..... میں عمران سے بات کر لوں۔“ پیار سے لبریز میٹھی سی آواز میں وہ گھنگھروں کی

سی کھنک لیے عجب انداز میں التجاسی کرتی تو صبیحہ کا متاثرادل اُس کے لیے محبت سے چھلک چھلک جاتا۔

”ہاں بیٹا..... ایک منٹ“ وہ مختصر سا جواب دیتی۔

اب کئی روز سے صبیحہ نے اُس کی آواز نہیں سنی تھی۔ ٹیلیفون کا ایک کنکیشن عمران کے کمرے میں بھی لگ گیا تھا اُس کا کمپیوٹر بھی وہیں تھا۔ اب اسی نمبر پر فون کرتی ہوگی چاندنی۔ پھر اب چاندنی کے پاس موبائل فون بھی ہے۔ صبیحہ مسکرا کر سوچتی۔

نئی جماعت کے فارم بھرنے والے دن سندھیا اور صبیحہ کی سکول میں ملاقات ہوئی تھی۔

صبیحہ جی..... میں تو چاندنی کی فوٹو لائی ہی نہیں..... عمران کہاں ہے؟“ سندھیا نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ”میں نکلی تو سو رہی تھی..... بتایا بھی نہیں کہ فوٹو چاہیے۔“

”ابھی آ رہا ہے.....“ صبیحہ کا گھر سکول سے زیادہ دور نہ تھا۔ وہ بھی مسکرا کر بولی..... سمجھ گئی میں.....“ صبیحہ کو ہنسی آگئی تو سندھیا بھی تہتہ لگا کر ہنس دی۔

”ہے نا Short cut اُس کے پاس تو جرور ہوگا..... فون کر کے بتادیں اُسے کہ چاندنی کا ایک فوٹو لیتے آنا۔“ اُس پر دونوں ہنستی رہی تھیں۔ پھر ساتھ ساتھ کینٹین جا کر کافی بھی پی۔

پھر کچھ دن بعد صبیحہ نے فون پر ایک نئی آواز سنی۔

"Hello, may I please speak to Imran"

میں کہا۔

"Who is that?" صبیحہ نے پوچھا تو اُس نے اپنا نام بتائے بغیر اسی منظبوطی سے کہا کہ

وہ اُس کی دوست ہے۔

خیر یہ پبلک سکول کا کلچر..... دوستی تو ہوتی ہوگی Students میں ہلکی پھلکی..... وہ اپنے آپ سے کہتی۔

کئی دن سے اُس کی سندھیا سے بھی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔

پھر ایک دن سکول کے اوقات میں سندھیا کا فون آیا تھا۔

چاندنی سکول میں بے ہوش ہوگئی تھی۔ عمران سے اُس کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اُس کی فرینڈس

نے فون کیا تھا..... اور اُسے ہوش میں لایا..... سکول بس میں بٹھایا۔ ”جرا پوچھنا تو صبیحہ جی.....“

عمران آ گیا کیا..... کیا ہوا تھا۔“ سندھیا نے ایک ہی سانس میں کہا۔

”نہیں..... تو..... ابھی نہیں آیا..... آپ مجھے چاندنی کا سیل نمبر دے دیں میں بات کرتی

ہوں اُس سے.....“

صبحیہ نے چاندنی کو فون کیا تو وہ کانپتی ہوئی آواز میں ہیلو بولی تھی..... اور پھر خاموش سکتی رہی تھی۔

”کیا ہو امیری بیٹیا.....“ صبیحہ کے بیٹی نہیں تھی۔ اُس نے بے چینی سے پوچھا۔ پہلے اُس نے اس طرح کبھی چاندنی کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ سکول کی ملاقاتوں میں انھیں ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے والدین فلمی ولین کی طرح نظر آتے ہوں گے..... چاندنی نہیں جانتی تھی کہ صبیحہ اُس سے محبت کرتی تھی۔ اور شاید چاندنی کی سسکیاں سننے سے پہلے خود صبیحہ پر بھی یہ بات واضح نہیں تھی۔

”بہت..... دنوں سے..... Ignore..... مارہا تھا۔ آج اُس نے مجھے Get Lost کہا۔ بہت جوڑ سے ڈانٹا..... اور کہا جو مر جی کر۔“ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔

”کیوں.....؟“ صبیحہ نے پوچھا۔

”کچھ نہیں آنٹی..... میں نے کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے کانچ پر اپنا ہاتھ دے مارا تھا.....“  
”وہ کیوں بیٹا.....؟ کیوں مارا تھا ہاتھ ٹوٹے ہوئے کانچ پر.....“ صبیحہ نے جلدی سے

پوچھا۔

”وہ سب سے باتیں کر رہا تھا..... ایک نئی لڑکی آئی ہے..... ساری break میں اُس کے ساتھ تھا..... میرے کو بہت بُرا لگ رہا تھا..... پھر سُن کر آیا تھا بھاگا ہوا..... میرے ہاتھ پر رومال باندھا اور مجھے ڈانٹ کر چلا گیا۔“ اُس نے ہچکی لی۔

”وہ بدل گیا ہے آنٹی.....“ وہ رو پڑی ”وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ بے وفائی کر رہا ہے میرے سے وہ۔“

”نہیں..... میری گڑیا..... روتے نہیں..... غصہ آ گیا ہوگا اُسے۔ تم نے اپنا ہاتھ جو زخمی کر لیا تھا۔“ صبیحہ نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ مگر اُسے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ چیزیں کتنی دور تک چلی گئی تھیں۔

”بچی آنٹی.....؟“ اُس نے معصومیت بھری بے اعتباری سے پوچھا۔ اتنی سی عمر میں اتنے بڑے مسئلے پال لیتے ہیں بچے۔ صبیحہ نے سوچا۔

”ہاں اور کیا.....“ صبیحہ نے یقین سے کہا۔

”یہاں بس میں بہت شور ہے..... میں گھر پہنچ کر آپ کو فون کروں گی۔“ بس کے شور میں

اُس کی آواز دب گئی۔

صبحیہ نے سندھیا کو فون کر کے ساری بات بتائی اور پریشان نہ ہونے کی تلقین کی۔  
پھر سارا دن صبحیہ چاندنی کے فون کا انتظار کرتی رہی مگر اس کا فون نہیں آیا۔ صبحیہ اتنی رنجیدہ ہو گئی تھی کہ خود اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو رہی ہے۔  
وہ سونے کے لیے لیٹی تو اُسے بار بار یہ ہی خیال آتا کہ چاندنی اس کے بے وفا بیٹے کو یاد کر کے رو رہی ہوگی۔ مگر ضروری نہیں کہ وہ بے وفا ہو..... وہ اس سے کیوں بے وفائی کرے گا..... وہ خود سے پوچھتی..... مرد ہے نا..... اس کی محبت کی بہتات سے وقتی طور پر کچھ لاپرواہ ہو گیا ہو..... یکسانیت سے گھبرا اٹھا ہو۔ مگر ایسے کیسے وہ دل دکھا سکتا ہے اُس کا۔ کچھ مہینے ہی اور ہیں اُس کے سکول میں۔ پھر جانے کون کہاں جائے۔ مستقبل تو صرف خدا جانتا ہے مگر وہ چاندنی سے ایسا سلوک نہیں کر سکتا..... صبحیہ کی آنکھوں میں چاندنی کا چہرہ گھوم جاتا۔

لیکن چاندنی کو خوش رہنے کے لیے اُس کے سہارے کا محتاج نہیں رہنا چاہیے۔ ایسے تو..... وہ کہیں اپنے آپ کو کچھ..... اُس نے فون بھی نہیں کیا..... کہیں وہ رو نہ رہی ہو..... وہ سو بھی نہیں پار ہی ہوگی۔ گھر میں کوئی نہ جانتا ہوگا کہ ایک ننھی سی روح کتنی بے سکون ہے۔ کروٹیں بدل بدل کر اُس کے ریشمی بال الجھ الجھ گئے ہوں گے۔ اُس کے معصوم اور محروم دل سے آپس نکل نکل کر اُس کی نیند جلا رہی ہوں گی۔ وہ سراپا محبت، نفرت کیسے سہے گی۔۔۔ مر جائے گی غریب.....

صبحیہ رو پڑی..... یہ کیا ہو گیا.....

یہ تم کیا کر رہے ہو عمران.....

صبحیہ اُسے سمجھا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنی سی کرتا تھا۔ اور رو دھو کر شور مچا کر اپنی بات منوالیتا تھا۔

اُس دن آدھی رات کو چاندنی کا فون آیا۔

”مجھے آپ ہی سے بات کرنی ہے آنٹی۔“ معصومیت اور محبت کی کھنکھتی ہوئی آمیزش والی

مانوس آواز آئی۔ ”آپ سو رہے تھے..... Sorry.....“

”نہیں..... میری گڑیا تم ٹھیک ہونا؟“ صبحیہ نے نہایت محبت سے کہا۔

”ہاں جی آنٹی.....“ اس بار اُس کی آواز اُداس سی ہو گئی۔

”کیا ہوا بیٹیا..... کیا ہوا ہے۔“ صبحیہ نے پوچھا..... مگر چاندنی کی آواز رندھ گئی۔ وہ کچھ نہ

بول سکی۔ اُس کی گھٹی گھٹی سسکیاں سنائی دیں۔

”رُوو نہیں بیٹا..... پلیز..... تم بتاؤ تو سہی.....“ صبیحہ کی آواز رنجیدہ ہو گئی۔

”آئی..... وہ اب مجھ سے ویسے نہیں ملتا..... جیسے..... پہلے.....“ وہ سسکتی رہی۔

”اوہ..... کب سے.....“ صبیحہ کا دل بجھ سا گیا۔

کئی دن ہو گئے..... ایک مہینہ..... نہیں..... بہت سے مہینے.....“ وہ بلک بلک کر روتی

رہی..... ”وہ..... اب بدل گیا ہے.....“

”وجہ کیا ہوئی.....“

”میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا..... میں نے تو اُسے اتنا پیار دیا..... کہ وہ پیار کی کوئی کمی محسوس نہ

کرے..... آپ لوگ اُس سے ناراض رہتے تھے نا پہلے..... اسی لیے..... میں نے وہی کیا جو اس نے

کہا..... کہا جینز مت پہنو..... میں نے چھوڑ دی..... کہا کسی لڑکے سے سکول میں بات نہ کرو

میں نے کبھی نہیں کی..... اُس کے لیے..... اُس کے پیر میں موج آئی تو میں نے ورت رکھے.....

خدا حافظ..... انشاء اللہ اور آمین کہنا سیکھا.....“ وہ بے اختیار اپنے دل کی باتیں بتاتی گئی۔ اُس کی

معصوم باتوں سے صبیحہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی مگر آنکھیں نم ہواٹھتیں۔

”سب سو گئے تو میں نے..... فون کیا..... کہ کوئی میری حالت نہ دیکھے۔ ماماں سے کہا کہ

سب ٹھیک ہے..... بہت دیر کر دی میں نے؟“

”نہیں بیٹا..... ایسا کچھ نہیں ہے.....“ صبیحہ نے جلدی سے کہا۔

کتنی بے بس تھی وہ ننھی سی جان..... غم کا پہاڑ اٹھائے۔

”تم جب چاہو..... چاہے آدھی رات ہو..... فون کر لو..... میں تو خود تمہاری وجہ سے بہت

پریشان ہو رہی تھی..... جاگ رہی تھی میں بھی.....“

”اچھا.....؟..... اب پتہ ہے میری فرینڈس کیا کہتی ہیں..... کہتی ہیں کہ تم نے اسے زیادہ

لفٹ دی ہے۔ وہ سرچڑھ گیا ہے..... کہتی ہیں بھول جاؤ اُسے..... مت بات کرو اُس سے.....

میں یہ کیسے کروں۔ اُس نے آج تک میرے کو جتنے Flowers دیئے ہیں..... میں نے سب اپنی

Almirah میں سجا کر رکھے ہیں..... اس کی ہر چیز..... ہر Gift ہر بات سے اُس کی یاد آتی

ہے.....“ وہ رو پڑی۔

”نہیں بیٹا..... رُوو نہیں..... میں بتاتی ہوں کہ تم.....“

ترنم ریاض

”کوئی گانا بجاتا ہے تو وہ یاد آتا ہے..... گھر میں روتی رہتی ہوں۔۔۔ سارا سکول جانتا ہے..... سب پوچھتے ہیں۔ اکیلا دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں عمران کہا ہے..... میں کیا کہوں کیا کروں..... میں مہینوں سے نہیں سوئی..... میں..... میں آتم ہتیا کر لوں گی.....“

”سنو..... سنو بٹیا۔ میں تمہیں ایک بڑی ضروری بات بتاتی ہوں.....“

”آئی..... میری Friends نئی نئی چیزیں مانگتی ہیں Parents سے..... میں صرف عمران مانگتی ہوں..... اُن سے..... God سے..... پھر میرے ساتھ ایسا.....“

”اگر تم بٹیا میری بات سنو تو میں کچھ بتاؤں گی تم کو.....“ معالے کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتے ہی ساری بات صبیحہ کی سمجھ میں آ گئی۔ اُسے بے حد دکھ ہوا۔

”سنو کی..... آپ بولو.....“

”مگر رو کر نہیں.....“

”ٹھیک ہے آئی.....“ اُس کا دل رو کر کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اُس کے ناک سیٹرنے کی آواز آئی۔

”تمہاری سہیلیاں ٹھیک کہتی ہیں..... تم نے واقعی اسے سرچڑھا دیا ہے..... تمہاری ابھی عمر دیکھو کتنی چھوٹی سی ہے..... اپنا سارا پیار تم نے اسے دے دیا ہے۔ ہے نا؟“ صبیحہ نے اسی کے انداز میں بات شروع کی۔

”ہاں جی.....“

”تم نے اُسے اُس کی نظروں میں Important بنا دیا۔ وہ خود کو تم سے بڑھ کر سمجھنے لگا ہے..... جبکہ سب انسان برابر ہیں۔ اور پیار تو ہے ہی برابری کے احترام اور عزت کا نام..... ابھی تو بٹیا تمہیں زندگی میں کتنے کام کرنے ہیں..... ہیں نا.....“ صبیحہ نے کتنے کو کھینچ کہا۔

”کرنے تو ہیں.....“

”ٹھیک ہے نا..... دیکھو انسان ہمیشہ غلطیاں کرتا آیا ہے..... ہے نا..... تو Admit کر لو..... کہ تم سے بھی ایک غلطی ہو گئی۔ بچپن میں تم نے ایک غلط انسان سے دوستی کر لی۔ باقی زندگی کو تو جہنم نہ بناؤ..... کہہ دو اپنی Friends سے..... اپنے Parents سے کہ تم سے غلطی ہو گئی ایک..... والدین تمہیں اتنے قصور معاف کرتے آئے ہیں۔ وہ یہ بات بھی بھول جائیں

گے۔ انہیں پتہ تو چل گیا ہوگا کہ تم لوگوں میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے..... تم اُداس رہتی ہو..... اُن سے تو کچھ چھپا نہیں ہوتا..... ہے نابیٹا.....“

”ہاں جی.....“

”خوش ہو جائیں گے کہ اب تم اور غم زدہ نہیں رہو گی..... کم سے کم آگے کی زندگی تو سنور جائے گی نا.....“

”جی آنٹی..... مگر.....“

”مگر کیا..... تم سوچو نابیٹا.....“

”میں جب سوچتی ہوں کہ عمران میرا ساتھ نہیں دے گا تو میری جان سی نکلتی ہے۔ زندگی میں کچھ Meaning ہی نظر نہیں آتا مجھے.....“ چاندنی کی آواز میں تھکن اور یاسیت تھی۔

”آپ نہیں جانتی آنٹی..... میں کتنا پیار کرتی ہوں اُس سے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے اپنی ایک Kidney اُسے دینی پڑے تو دوسری بار نہیں سوچوں گی.....“

”آج تک جب بھی جھگڑا ہوا تو پہلے کون فون کرتا تھا۔“ صبیحہ کو کسی سہیلی کی طرح وہ بے تکلفی سے اپنی باتیں بتاتی گئی تو صبیحہ نے بھی اچھا سامع ہونے کا ثبوت دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ چاندنی کو کسی باقاعدہ سمجھانے والے کی، باقاعدہ Counselling کی ضرورت ہے۔

”میں ہی مناتی ہوں اُسے..... ہمیشہ..... سوچتی ہوں 12th میں ہے..... کچھ مہینے بعد چلا جائے گا سکول چھوڑ کر..... پھر کہاں ہوگا۔ کب دیکھوں جانے۔“

اُس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔

”اگر قصور اُس کا ہو..... تو بھی تم ہی مناتی ہو.....“

”ہاں جی..... جھٹ سے فون کرتی ہوں..... کہ لمبانا کھج جائے۔“

”مماں آگئی آنٹی.....“ اُس نے جلدی سے سرگوشی میں کہا۔

”اچھا مینا کشی..... میں بعد میں فون کروں گی۔“ وہ اونچی آواز میں بشارت سے بولی..... اور فون رکھ دیا۔ کتنا کچھ سیکھ لیا تھا اُس نے۔ کتنا کچھ سکھا دیا تھا وقت نے اُسے..... کتنا

بالغ کر دیا تھا اُس کی سوچ کو محبت نے..... اور کتنا تنہا اور غمزہ بھی..... صبیحہ کی آنکھیں پھر نم ہو گئیں۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی جو اُس دن سارا وقت صبیحہ چاندنی کے بارے میں سوچتی رہی۔

اُسے بار بار اُس کی مغموم آواز اُس کا والہانہ انداز یاد آ کر اُداس کرتا رہا۔



پچھلے سال ایک بار جب صبح کسی کام سے سکول گئی تھی تو لوٹتے وقت اُس نے لمبی سی راہداری میں کئی لڑکے لڑکیوں میں چاندنی اور عمران کو بھی دیکھا تھا۔ صبحہ زینہ اتر رہی تھی تو چاندنی کی اُس پر نظر پڑ گئی تھی اور اس نے عمران سے کہا تھا۔ پھر ذرا محتاط سی ہو کر مسکرائی تھی۔ اور عمران کو دیکھ رہی تھی..... صبحہ نے سیاہ چشمہ پہن رکھا تھا۔ اس نے بالکل ظاہر نہ ہونے دیا کہ اُس نے بھی ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ مگر چشمے کی اوٹ سے وہ وہاں سے گذرتے وقت ان ہی کو بلکہ صرف چاندنی کو دیکھ رہی تھی۔ صبحہ خاصی تعلیم یافتہ تھی۔ اور نفسیات اُس کا محبوب مضمون رہا تھا۔

اُس دن بھی چاندنی کے تاثرات دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اُسے دیکھ کر چاندنی کے چہرے پر جو تاثرات اُبھرے تھے وہ فطری تو تھے مگر جس طرح وہ عمران کو دیکھ رہی تھی وہ بالکل ایسا تھا جیسے وہ اپنے ٹھٹھکنے اور مسکرانے کے تیس عمران کا ردِ عمل جاننا چاہتی ہو۔ کہ اُس کے معصوم سے چہرے پر خوشامدانہ مسکراہٹ تھی۔ آنکھوں میں تعمیل پر آمادہ محکومیت کی جھلک تھی۔ وہ نیم سہمی سی پاؤں آگے پیچھے رکھتی ہوئی کھڑی تھی۔ پورے وجود سے خود اعتمادی کی ہر وہ جھلک غائب تھی جو صبحہ نے پہلی بار اُس میں وائس پرنسپل کا سامنا کرتے ہوئے دیکھی تھی۔ اس کی صحت بھی گری ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی۔

جب سے صبحہ کو اکثر یہ بات یاد آ جاتی۔

”مماں چلی گئیں.....“ صبحہ نے فون اٹھایا تو چاندنی کی آواز آئی۔

”آپ کو پتہ ہے آنٹی..... گھر میں سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے..... میں خوش ہوں..... انھیں کیا پتہ اتنی Sincere ہو کر بھی میں کتنی دکھی ہوں.....“

”اور پھر بھی..... اُس نے تمہاری قدر نہیں کی..... اچھا یہ بتاؤ وہ سیمائیس لڑکی ہے.....“

”وہ..... وہ Tall ہے۔ اُس کا Skin بہت اچھا ہے..... ایک بھی Pimple نہیں ہے۔“

عمران کہتا تھا تیری آنکھوں میں گڈھے ہیں.....“

اُس کا جواب سن کر صبحہ کے ہونٹوں پر اُداس سی مسکراہٹ پھیل گئی۔

”اوہ..... میرا مطلب تھا نیچر وغیرہ..... مگر یہ بتاؤ کہ تم ڈائمنگ تو نہیں کر رہی ہیں نا..... پچھلے

برس دیکھا تھا دور سے تمہیں..... کمزور لگ رہی تھیں۔“

”کرتی تو تھی ڈائمنگ..... مگر اب کئی مہینوں سے نہیں کر رہی..... عمران نے کہا تھا..... موٹی

ہو گئی ہو.....“

”تو پھر تم نے..... رورو کر آنکھوں میں گڈھے بنا لیے..... ہے نا؟“

”ہاں جی..... اُسی کے لیے روئی اور وہی مذاق اڑاتا ہے۔“ اُس کی آواز میں شکوہ ہی شکوہ

تھا۔

”تو پھر بیٹا..... تم..... اپنا آپ ایک ایسے آدمی کے لیے خراب کرو گی جس کو قدر ہی نہیں..... اتنی ننھی سی عمر میں اتنے اتنے دکھوں سے آشنا کرادیا تم کو ظالم نے.....“

صبیحہ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے غصے کی لہر دوڑ گئی..... مگر اُسے چاندنی کے تڑپتے دل کو کسی طرح سکون دینا تھا..... اور کیسے۔ یہ اُس نے سوچ لیا تھا۔

”تم جانتی ہو تم کتنی خوبصورت ہو..... کتنی پیاری ہو.....“

”کہاں ہوں آنٹی اب میں سندر..... پہلے تھی.....“

”تو کیا اب تم سندر ہونا بھی نہیں چاہتیں..... پہلے کی طرح؟“

”اب دل ہی نہیں کرتا۔ مجھ سے کچھ کرنے کی Will-power جیسے کہ چھن ہی گئی ہے.....“

میرے میں آنٹی۔ Confidence ہی نہیں ہے نا.....“

اُس نے جیسے کہ تھک کر کہا۔

”کس نے کہہ دیا.....؟“

”عمران ہی کہتا ہے.....“

”تم میں.....؟ Confidence نہیں ہے؟..... Will-power نہیں ہے؟..... بدھو

لڑکی..... یہ میں مان ہی نہیں سکتی۔ میں نے تو تم جیسی Strong لڑکی دیکھی ہی نہیں آج تک.....

ایک طرف تم تھیں۔ اور ایک طرف سارا Staff..... تمہارے Parents اور ہم..... سب سے

اکیلے مقابلہ نہیں کیا تھا؟..... نہیں۔؟“ صبیحہ نے آواز میں مضبوطی پیدا کی۔

”ہاں جی..... آنٹی۔“ وہ دھیرے سے بولی۔

”ایک طرف اتنی بڑی دنیا تھی اور ایک طرف میری یہ ننھی سی ہرنی..... ہرنی سی آنکھوں

والی..... اُس کا چھوٹا سا تہقہہ سنائی دیا۔

”جانتی ہو ننھی سی ہرنی کو کیا کہتے ہیں.....“

”کیا کہتے ہیں.....؟“

”اُسے غزالہ کہتے ہیں..... جس کی بہت پیاری آنکھیں ہوں..... تمہارے جیسی۔“

”اور وہ میں ہوں.....“ اُس نے میں پر زور دیا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔

صبح کی آنکھوں میں جانے کب سے آنسو بھرے تھے..... وہ ٹپ ٹپ کرنے لگے۔

”میری نادان سی بھولی سی بچی۔“ صبح نے آواز کی یاسیت کو قابو میں کر لیا۔

”کیا تم نہیں چاہتیں کہ وہ پہلے سی مضبوط چاندنی..... وہ پہلے سی خوبصورت..... سکول کی

سب لڑکیوں سے خوبصورت چاندنی..... وہ پہلے سی Confident چاندنی۔ پھر لوٹ آئے؟“

”ہاں جی..... چاہتی ہوں۔“ اُس نے دھیرے سے کہا۔

”تو پھر بیٹیا۔ اپنے بارے میں سوچو نا۔ اُس سے زیادہ خود اپنے آپ سے محبت کرو..... رونا

چھوڑ دو گی تو پہلے کی طرح سندر ہو جاؤ گی..... تمہارا Skin بھی اچھا ہو جائے گا۔ تمہاری ہر بات

سے Confidence چھلکے گا۔ اور ٹھیک سے کھاپی کر۔ نیند آنے لگے تو اُس کے بارے میں سوچ

سوچ کر نیند اڑاؤ گی نہیں بلکہ اپنے بارے میں بہتر سوچ کر..... اپنے آپ کو اور اچھا بنانے کے

طریقوں پر غور کرتی ہوئی..... Deep Breathing کرتی رہو گی..... دیکھنا کیسی میٹھی نیند آئے

گی تم کو..... گہری گہری سانس لیتی اپنے Career کے بارے میں سوچتی ہوئی..... کہ زندگی میں

کیا بننا ہے..... اچھی اچھی Positive باتیں اپنے بارے میں Decide کرتی۔ سو جانا.....“

”ہاں جی.....“

”ابھی تو تمہاری عمر کھیلنے کھانے کی ہے..... پھر اپنا Future بنانے کی۔ پھر کہیں Settle

ہونے کی باری آتی ہے..... ہے نا؟ اس میں بھی کئی سال ہیں۔“

”ہاں جی..... اب میں ایسا ہی کروں گی..... کل نا سونے سے پہلے الماری سے کپڑے

نکلنے لگی تو اس کی دی ہوئی ساری چیزیں..... رو پڑی تھی میں۔“

”تم نے بیٹا اتنے برسوں اس کی ہر چیز سنبھال کر رکھی ہے نا.....“

”ہاں جی..... ہر چیز الماری میں سجا کر.....“

”اب تم ان سب کو ایک بیگ میں ڈال کر اور اچھی طرح سنبھال لو..... پھر وہ..... وہ

بیگ..... ہاں اسے Bed کے Box میں ڈال دو..... بس یہ سوچ کر کہ فی الحال پیار ڈبے میں

بند کر کے میں اپنے بارے میں سوچوں گی.....“

”پیار ڈبے میں بند کر دو گی.....“ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔

”کیوں کروگی.....“

”تا کہ مجھے اُس کی یاد میں رونا نہ آئے..... اور میں اپنے لیے..... اپنے لیے کچھ سوچ سکوں.....“

”شباباش..... دیکھو، جس ماں باپ نے تمہارے لیے اتنا کیا ہے..... کیا یہ اُن کا حق نہیں کہ ان کی بیٹی کسی لائق ہو جائے۔ اُن کے اُس خون کو جو تمہاری نسوں میں دوڑ رہا ہے کسی دوسرے کے لیے آنسو بنا کر نہ بہائے، بلکہ کچھ کر کے دکھائے۔ کچھ بن کر دکھائے۔“

”ہاں جی آنٹی..... میں خوب پڑھوں گی تو ماماں، پاپا بہت خوش ہوں گے۔“

”بالکل میری اچھی بیٹیا..... اور ادھر ادھر کے خیالات کو، Disturbing خیالات کو بالکل من میں جگہ نہ دوگی.....“

”ہاں ایسا کچھ نہیں سوچوں گی.....“ اُس نے مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔

”اور..... کیا تم نے نہیں سنا کہ Its better to be loved than to love.“

”جی..... سنا ہے.....“

”تو پھر سمجھنے کی کوشش نہیں کی..... آج اس پر بھی سوچنا..... کہتے ہیں اگر تم کسی کو چاہتے ہو تو اُس کا پیچھا مت کرو..... اگر وہ تمہارا ہے تو تمہارے پاس لوٹ آئے گا..... اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں..... ہے نا..... ہیلو.....“

”ہاں جی آنٹی..... میں..... آپ کی بات پر Concentrate کر رہی ہوں۔ ایسا کہتے ہیں کیا.....؟“

”ہاں..... ہے نا پتے کی بات..... تو بس پھر خود پر دھیان دو۔ خود کو بناؤ کچھ بن کر دکھاؤ۔ اُس کی نسبت خود کو اہمیت دو گی تو خوش رہنا آسان ہو جائے گا۔ کوئی بہت اچھی پوزیشن حاصل کر لو۔ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔“

”جی ہاں.....“

”تو اب تم ان باتوں پر عمل کرنا..... پھر ایک عمران تو کیا ایسے دس عمران تمہارے آگے پیچھے ناک رگڑیں گے..... اور نہ بھی رگڑیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔“

وہ چھوٹا سا قہقہہ لگا کر ہنسی۔

”تو بس میری بیٹیا..... اب تم کیا کروگی۔“

ترنم ریاض

”میں اچھے سے Exams کی تیاری کرونگی..... اپنے کیریئر پر Concentrate کروں گی..... اپنی health اور beauty کا خیال رکھوں گی اور خود کو اچھا بناؤں گی.....“

”شاباش..... Good Girl..... اپنے آپ کو بالکل پہلے جیسی پیاری اور پہلے سے بھی قابل لڑکی بنا کر دکھاؤ گی۔ کچھ کر دکھاؤ گی تو سب لوگ تمہارا نام فخر سے لیں گے..... تمہیں کس میں دلچسپی ہے.....؟“

”مجھے Fashion Designing میں..... Jewellery Designing میں بھی۔ میری آرٹ فائل میں ہمیشہ Good اور Excellent ملا ہے مجھے.....“

”تو بس بیٹیا..... تم تو بہت اچھا job بھی کر سکتی ہو۔ اور Self-employment بھی..... Good ملا ہے کیا..... مطلب اب نہیں ملتا؟“

”اب میں نے دل لگا کر پڑھا ہی نہیں بہت دن سے.....“

”مگر اب تو پڑھو گی نا تم..... تم فن کار ہو..... تم بلکہ ہر Situation میں سے Positive Aspect ڈھونڈ سکتی ہو..... ذرا سی کوشش کرنا ہے۔ ایک ہی تو زندگی ملتی ہے انسان کو..... ایک ہی تو موقع ملتا ہے خود کو Prove کرنے کا، ہے نا۔“

”ہاں جی آئی..... میں فیشن ڈیزائننگ میں ڈپلومہ کر کے اپنا Boutique کھولوں گی..... میں نے یہی سوچا تھا۔ اُس کے لیے باہر جاؤں گی.....“

”یہاں بھی تو ہو سکتا ہے..... دُور کیوں جاؤ گی اپنے Parents سے..... ڈگری کہیں کی بھی ہو، Success تمہاری Creativity پر Depend کرتی ہے۔۔ تمہاری اپنی محنت پر..... ہے نا.....“

”یہاں رہوں گی تو مجھے عمران کی یاد آتی رہے گی۔ کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ اس ماحول سے دور جا کر کچھ کروں گی، کچھ بنوں گی تو پھر عمران میرے پاس لوٹ آئے گا۔“ اُس نے نہایت سادگی سے جواب دیا اور ایک لمبی سانس لی۔ ”ہے نا آئی۔“

”ہاں بیٹا.....“

صبیحہ نے ہاری ہوئی اداس آواز میں کہا۔



## ایسے مانوس صیاد سے.....

”کبھی کبھی آپ کو ایسا تو محسوس نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے گھر خالی کر دیا ہوتا تو مشراجی کے بچوں کا گھر شاید نہ ٹوٹتا۔“

شینا نے سعید صاحب کے چہرے کی طرف بغور دیکھا۔ اُسے یقین تھا کہ اس بات کے جواب میں سعید صاحب کے ضمیر کا سارا بوجھ اُس کے سامنے عیاں ہو جائے گا۔ سعید صاحب نے میز پر سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھر کر واپس رکھ دیا پھر آہستہ سے روٹی کا نوالا توڑ کر ہاتھ سالن کی کٹوری کے کنارے کے قریب روک کر شینا کی رکابی کو دیکھنے لگے۔

”آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں..... آپ باتوں میں الجھ گئیں یا پھر تکلف.....“  
وہ نرمی سے مسکرائے۔

کوئی مہینہ بھر پہلے شینا کی تقرری اس یونیورسٹی میں فلسفے کی ٹیچر کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ یہ شہر اُس کے گھر سے بہت دور تھا۔ اور یونیورسٹی کی جانب سے رہائش الاٹ ہونے میں ابھی دیر تھی۔ کرائے کی رہائش کا انتظام کرنا اور پھر تنہا رہنا..... وہ سوچ میں پڑ جاتی۔ کچھ دن سے وہ یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہری ہوئی تھی مگر وہاں بھی آخر کب تک..... اس بے پہلے کہ اُس کی پریشانی بڑھ جاتی، سعید صاحب نے اُسے انتظام ہو جانے تک اپنے گھر میں رہنے کی دعوت دی۔ اُن کے پاس دو خوابگاہوں والا فلیٹ تھا۔ بیٹی سسرال چلی گئی تھی اور اُس کا کمرہ خالی پڑا تھا۔ شینا سعید صاحب کی نیک طینت شخصیت سے پہلے ہی متاثر تھی۔ اُن کی بیگم سے ملاقات ہونے کے بعد شینا نے بخوشی اُن کی دعوت قبول کر لی۔

ترنم ریاض

سعید صاحب ہر ایک کی مصیبت میں کام آنے کے لیے مشہور تھے۔ جہاں اُن کا گھر تھا وہ جگہ بہت خوبصورت تھی۔ کشادہ چوکور پارک کے تین اطراف تعمیر کیے گئے تقریباً ایک جیسی ساخت کے مکانات۔ یعنی سامنے کی طرف مکانوں کا سلسلہ نہ تھا اور ایک کشادہ سی سڑک تھی۔ جس سے بصارت کو بھی کھلے پن کا احساس ہوتا تھا۔ کہ سڑک پر آمدورفت محض اتنی ہی تھی جتنے لوگ ادھر ادھر رہا کرتے تھے۔

درختوں سے گھرا ہریالی سے بھر اعلیٰ۔ دن بھر پرندوں کی چہچہاہٹ کانوں میں رس گھولتی معلوم ہوتی۔ ماحول پُر سکون رہتا۔

سعید صاحب کا فلیٹ دوسری منزل پر تھا اور اوپر بڑی سی چھت تھی جہاں سے صرف کھلا آسمان نظر آتا۔

نچلے فلیٹ میں مشراجی رہتے تھے، اپنی ضعیف اہلیہ کے ساتھ۔

ایک دن جب شینا یونیورسٹی سے لوٹی تو دونوں میاں بیوی باغیچے میں بیٹھے تھے۔ بانس کی پرانی کرسیوں کے سامنے بانس کی ہی گول میز پڑی تھی جس کی اوپری سطح پر کانچ لگا ہوا تھا۔ میز پر چائے کے برتن رکھے تھے۔

”آداب عرض ہے بیٹا۔“ شینا اُن کی موجودگی محسوس کر کے دائیں بائیں نہ دیکھ کر راہداری پار کر رہی تھی کہ مشراجی نے پکار کر کہا تھا۔

”جی، آداب۔“ وہ دونوں کی طرف باری باری دیکھ کر مسکرائی۔

”آؤ چائے پیو ہمارے ساتھ۔“ مسز مشرانے سر اثبات میں ہلا کر کہا۔

”میں کپ لاتی ہوں۔“ وہ کرسی سے اٹھنے لگیں۔

”نہیں نہیں۔ آپ تشریف رکھئے..... میں لاتی ہوں۔“ شینا نے خوشدلی سے کہا اور گھر

کے اندر کی طرف لپکی۔ اندازہ تھا کہ باورچی خانہ کہاں ہے کیونکہ دونوں منزلوں کی ساخت یکساں معلوم ہوتی تھی۔ وہ پیالی لے کر باہر آگئی اور کرسی کھینچ کر اُن کے سامنے بیٹھ گئی۔

”سعید صاحب کی رشتہ دار ہو؟“ مسز مشرانے پیالی میں چائے اُنڈیلتے ہوئے پوچھا۔

”جی بس..... ایک اپنائیت سی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔“

شینا نے گردن کو ایک طرف خم دے کر نرم سے لہجے میں کہا۔

”سعید صاحب کے ساتھ ہی میں بھی یونیورسٹی میں ہوں۔“

شینا نے اپنی پیالی میں ایک چمچ چینی ڈال دی اور مسز مشرانے اُس میں ذرا سا دودھ اٹھیل دیا۔  
 ”تمہارے آنے سے رونق سی آگئی ہے۔“ انہوں نے پر خلوص نظروں سے شینا کو دیکھا اور  
 پیالی ہاتھ میں لے کر دونوں ہاتھوں سے شینا کو پکڑا دی۔ شینا نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ ہلکے ہلکے  
 کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے پرچ پیالی تھام لیے۔  
 ”میں بھی آپ لوگوں سے ملنا چاہ رہی تھی مگر..... تعارف نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ذرا سی  
 جھجک.....“

”محبت میں تعارف کی ضرورت ہی نہیں..... بس آ جاتیں.....“ مسز مشرا بولے۔  
 زینہ اترنے کی آواز آنے پر شینا نے مُڑ کر دیکھا۔ بیگم سعید تھیں۔  
 ”میں اپنے لیے پیالی لینے جا رہی ہوں..... سمجھ گئی تھی کہ انکل آنٹی نے روکا ہوگا تمہیں لان  
 میں۔“ وہ مسکراتی ہوئی بولیں اور باورچی خانے کی طرف مُڑیں۔  
 ”صبا..... اب دو لے آنا..... تمہارے میاں بھی آرہے ہوں گے۔“ مشراجی کی بیگم نے  
 آواز لگائی۔

”اکثر شاموں کو ایسا ہی ہوتا ہے..... ہم سب یہاں جمع ہو جاتے ہیں.....“ بیگم صبا سعید  
 نے ایک کرسی میز کی جانب کھسکاتے ہوئے کہا۔  
 ”تیس برس کی شناسائی ہے..... کوئی مذاق نہیں۔ عادت سی ہوگئی ہے ان لوگوں کی۔“  
 مشراجی کی آواز میں کچھ سنجیدگی گھل گئی۔

”اور گھر میں کون کون.....“ شینا نے پوچھنا چاہا تو بیگم سعید جلدی سے بولیں۔  
 ”بس یہ ہی دو ہیں اور ہم..... کافی نہیں ہیں.....؟“ انہوں نے ہلکا سا قہقہہ لگایا مگر بزرگ  
 میاں بیوی کے چہروں پر سنجیدگی سی اتر آئی۔ لمحہ بھر بعد مسز مشرانے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پیالی میز  
 پر رکھ دی۔

”ایک بیٹا ہے ہمارا..... امریکہ میں رہتا ہے.....“ اُن کے چہرے پر ہلکی سی چمک نظر آرہی تھی۔  
 ”دو سال پہلے آیا تھا..... شاید اس سال بھی آئے گا..... تمہیں ملوائیں گے اُس  
 سے۔“ مشراجی نے بے تاثر چہرہ لیے کہا اور چائے پینے لگے۔ مسز مشرانے ایک بسکٹ کے دو چار  
 ٹکڑے کر کے دیوار کی طرف اچھال دیئے۔ ادھر ایک چھوٹا سا درخت تھا۔ جو دیوار کی اونچائی سے  
 کچھ ہی اونچا تھا۔ اُس پر دو گلکچیاں بیٹھی تھیں۔ بسکٹ دیکھ کر ایک گلکچیا چبکی۔ اونچی باریک آواز



میں..... اور سب کو ہنسی آگئی۔ دوسری پھر سے نیچے اڑ آئی، کچھ دیر بعد پہلی بھی آگئی۔ دونوں بسکٹ پر زور آزمائی کرنے لگیں۔

”پچھلے کئی سال سے یہ مینائیں ادھر رہتی ہیں۔“ صبا بیگم بولیں۔

”ہاں تعجب ہے..... اور ہمیشہ دو ہی نظر آتی ہیں۔“ مسز مشرانے کہا۔

”حالانکہ ان کا گھونسلہ بھی ہے..... ادھر..... اوپر اُس جگہ وہ جہاں سے ایک اینٹ نکلی ہے

نا.....“ صبا بیگم نے کہا۔

”جب ہم گھر بنا رہے تھے تو..... کوئی..... ۳۲ برس پہلے..... اوپر کالکٹری کا ڈھانچہ بنا ہوا

تھا..... آس پاس..... مزدوروں کے کام کرنے کے لیے۔ اسی دوران کہیں ان میناؤں نے یہاں

گھونسلہ بنا دیا تھا۔ جب مکان مکمل ہو رہا تھا تو بانس کا وہ ڈھانچہ کھولنا پڑا تھا..... دیکھا تو لکڑی اور

دیوار کے درمیان..... ایک گھونسلہ ہے..... ریکھا کی نظر پڑی تھی..... ورنہ مزدوروں کو تو بس

اُکھیڑنے کی جلدی تھی۔“ مشراجی نے بیوی کی طرف دیکھا اور گھونسلے کی طرف ہاتھ سے اشارہ

کیا۔

”میں نے پھر وہاں سے ایک اینٹ نکلو کر بڑی احتیاط سے وہ گھونسلہ خالی جگہ میں منتقل

کر دیا۔“ مسز مشرا بولیں۔

”دوانڈے بھی تھے نا اُس میں..... آپ نے بتایا تھا۔“ صبا بیگم نے کہا۔

”ہاں تھے تو..... جانے کیا ہوا..... یا تو بچے بڑے ہو کر یہیں رہتے ہیں اور ماں باپ اڑ

جاتے ہیں..... یا پھر بچے ہی کہیں اور اڑ جاتے ہیں.....

بچے ہی کہیں اڑ جاتے ہوں گے۔“ انھوں نے ایک دبی دبی سی گہری سانس لی۔ نظر تو بس

یہ دو ہی مینائیں آتی ہیں..... ہمیشہ۔“

مشراجی اور ریکھا مشرا کے ہونٹوں پر بے معنی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔

”کتنے اُداس ہوتے ہیں ماں باپ۔“

صبا بیگم اور شینا جب اوپر آگئیں تو شینا نے کہا۔

”بچے جانے کیوں چھوڑ جاتے ہیں اس طرح..... والدین کو۔“ شینا کے لہجے میں دکھ تھا۔

”نہیں..... دراصل ان کا لڑکا بہت فرمانبردار تھا۔“ صبا بیگم باورچی خانے کی طرف

بڑھیں۔ شینا اُن کے پیچھے ہوئی۔

”تو پھر کیا ہوا..... اتنی دور..... بوڑھے ماں باپ“۔ شینا نے پوچھا۔

صبا بیگم نے باورچی خانے کی کھڑکی کھول دی جو گیس کے چولہے کی دوسری طرف تھی۔ وہاں پیڑوں کی اونچی شاخیں نظر آتی تھیں..... قریب ایک نیم کا درخت بھی تھا جس کے گھنے پتوں میں چڑیاں ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھیں۔

”بہت خوبصورتی سے سجایا ہے آپ نے کچن۔“ شینا نے کہا۔

”تیس سال سے Maintain کر رہی ہوں..... اس گھر کو..... یہ طاقے تو تھے ہی نہیں.....“ صبا بیگم مسکرائیں۔

”اب تو گھر ایسا سنورا نہیں ہوتا..... نغمہ ہوتی تھی تو گھر دلہن سا لگا کرتا تھا..... اب سسرال میں.....“

صبا بیگم نے دھیرے سے کہا۔

”اچھا بھابی..... مشراجی کے بیٹے نے شادی بھی بدلیں میں ہی کی ہے؟“ شینا نے پوچھا۔  
 ”وہی تو دکھ کی بات ہے..... میں نے اسی لیے نیچے لان میں موضوع بدل دیا تھا..... ورنہ۔“  
 ”کیوں؟“

”وہ اس لیے کہ اُس کی بیوی اب اُس کے ساتھ نہیں رہتی..... مگر شادی اُس نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی۔ نمرتا، مشراجی کے دوست کی بیٹی تھی۔ برسوں سے آنا جانا تھا۔ روہت اور نمرتا میں دوستی بھی تھی۔ دونوں محنتی اور Professional تھے۔ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ گھر والوں نے شادی کر دی۔“ صبا بیگم نے ریفریجیٹر میں سے سبزی کی تھیلی نکالتے ہوئے کہا۔ شینا پر ات میں آنا نکالنے لگی۔

”پھر بھابی؟“

”دو ڈھائی برس تو خوب جی دونوں میں..... پھر جانے کیا ہوا..... نمرتا چپ چپ سی رہنے لگی۔ کبھی کبھی اُن کے کمرے سے اُن دونوں کی بحث کرنے کی اونچی اونچی آوازیں بھی آتیں..... اُن کا روم بالکل ہمارے بیڈ روم کے نیچے والا تھا.....“

”جی..... پھر کیا ہوا؟“

”خدا جانے کیا بات ہوئی نمرتا اکثر گھر میں نظر آنے لگی جبکہ دونوں نے ایک مشترکہ دفتر

ترنم ریاض

کھول رکھا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دفتر میں کچھ دوسرے لوگوں سے نمرتا کو اختلاف تھا.....  
روہت اصل میں کچھ ضدی قسم کا لڑکا واقع ہوا تھا..... اُن دنوں نمرتا اُمید سے تھی۔ گھر میں تناؤ  
رہنے لگا تو..... تو مشراجی اور مسز شررا اور نمرتا کے ماں باپ نے مشورہ کیا کہ دونوں کے دفتر الگ  
الگ ہو جائیں تو تناؤ کم ہو سکتا ہے۔ پہلے تو روہت اس بات پر راضی ہی نہیں ہوا۔ مگر بعد میں بادل  
نخواستہ مان گیا۔ طے یہ ہوا کہ نمرتا کی Delivery کے بعد Basement میں ہی اُس کا دفتر کھولا  
جائے گا..... پھر..... کچھ ہفتہ دس دن سکون رہا مگر پھر تناؤ بڑھنے لگا دونوں کے والدین کے  
دہائیوں پرانے مراسم تھے۔ حیران تھے کہ کیا ہو گیا.....“  
”شاید وہی Ego Clash“ شینا نے کہا۔

”ہاں..... ہو سکتا ہے..... مردوں کی انا ہوتی بھی تو اُن کے قد سے بڑی ہے..... انہیں ذہین  
بیوی کی موجودگی میں بلاوجہ اپنی حیثیت خطرے میں نظر آتی ہے..... حالانکہ عورت کا اس طرف دھیان  
جاہی نہیں سکتا۔ وہ تو ہر حال میں اپنے شوہر کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتی ہے۔“  
”مگر بھابی..... کبھی کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیوی ہی اپنی حیثیت منوانے پر تکل  
جائے۔“

”ہاں۔ ہوتا ہے..... مگر اُس وقت جب مرد اُس کی حیثیت کو لاکارے۔“

”اچھا پھر کیا ہوا؟“

”بس دونوں کے والدین کسی طرح اس شادی کو بنائے رکھنا چاہتے تھے..... وہ کسی طرح انھیں  
بچے کی پیدائش تک ساتھ رکھنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے کہ بعد میں بچہ خود دونوں کو قریب لے آتا۔“  
”تو ایسا نہیں ہوا؟“

”نہیں..... دونوں کے کمرے سے روزرات کو جھگڑنے کی آوازیں آتیں..... نمرتا نے کہا  
کہ وہ بچہ ہونے تک الگ کمرے میں رہے گی..... مگر کمرہ تو تھا ہی نہیں.....“ صبا بیگم نے ایک لمبی  
سانس لی۔

”ہم بھی بہت سمجھاتے کہ نبھ جائے مگر..... خیر..... ہم سے کہا گیا کہ گھر خالی  
کردیں..... سعید صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے..... ہم لوگ پورے ایک مہینے بعد گھر خالی کرنے  
والے تھے کہ..... اچانک ایک دن ہمارے نام عدالت کا من آ گیا.....“ صبا بیگم نے اتنا ہی کہا تھا  
کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ سعید صاحب لدے پھندے آ رہے تھے۔

”موسم کے پہلے آم ہیں۔“ سعید صاحب نے سامان بیوی کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے دونوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔

صبا بیگم انھیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں:  
 ”ہاں بھائی..... دے آیا ہوں ایک تھیلی نیچے بھی۔“  
 وہ مسکرائے۔

شینا کا تجتس کچھ اور بڑھ گیا تھا۔

”پھر کیا ہوا بھابی؟“ شینا صبا بیگم کے ہاتھ سے سامان لے کر الماریوں اور ریفریجریٹر میں رکھنے لگی۔

”پھر..... ہم حیران کہ یہ کیسا من ہے۔“ صبا بیگم بولیں تو سعید صاحب چونکے۔

”اچھا..... وہ بات..... میں بتاتا ہوں..... انہوں نے خواجواہ من بھجوا دیا۔ میں نے وعدہ تو کیا ہی تھا..... میں کبھی کوٹ کچہری کے چکر میں پڑا نہ تھا..... حیرت میں پڑ گیا..... اصل میں یہ سب روہت کا کیا دھرا تھا..... وہ عجیب سر پھرا تھا..... مجھے بھی غصہ آ گیا..... میں نے کہا ٹھیک ہے..... اب جو فیصلہ کوٹ کرے گا..... وہی آخری ہوگا..... شروع ہو گئیں تاریخیں..... روہت گاڑی ڈرائیو کرتا..... مشراجی اور مسز مشرا کچہری جانے سے پہلے مجھے بھی آواز لگاتے..... میں بھی اسی گاڑی میں سوار..... ساتھ ساتھ کچہری پہنچتے..... اور وہاں الگ الگ کٹہروں میں کھڑے ہو جاتے۔“

سعید صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ بیگم نے پانی کا گلاس پکڑا یا..... سب لوگ چلتے چلتے نشست گاہ میں آ گئے۔

”رنج ہوتا ہے یاد کر کے۔“ وہ سر جھکا کر بولے اور صوفے پر بیٹھ گئے۔

”جج نے بیان لینا شروع کیا۔ مشراجی سے پوچھا کہ کتنے افراد ہیں گھر میں تو پتہ چلا کہ چار۔ پوچھا کہ پھر کس لیے اوپری کی منزل خالی کروا رہے ہیں۔ جو لوگ پچیس سال سے رہ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے۔ کس کے لیے چاہتے ہیں کمرے..... تو مشراجی بولے کہ بہو کے لیے..... اب جج نے کہا کہ کیا بیٹا بہو دو الگ الگ کمروں میں سوئیں گے تو مشراجی خاموش ہو گئے..... لوگ ہنس پڑے..... جج نے فیصلہ ہمارے حق میں سنا دیا.....“

سعید صاحب کچھ مسکرا کر خاموش ہو گئے۔

”کہ آپ یہیں رہیں گے.....“ شینا نے کہا۔

”ہاں..... اور کیا.....“

”اور کرایہ؟“

”تیس سال پہلے سوا سو دیتے تھے..... اب تین سو روپے دیتے ہیں۔“ صبا بیگم نے کہا تو دونوں میاں بیوی مسکرا دیئے۔

شام ڈھل چکی تھی۔ ایک بلبل آ کر کھڑکی کی چوکھٹ پر بیٹھ کر چمکنے لگی۔ جالی لگی کھڑکی میں سے اُسے اندر بیٹھے ہوئے انسان نظر نہیں آرہے تھے۔ اُسی وقت مغرب کی اذان ہوئی تو سعید صاحب اُٹھ گئے۔

”اچھا بھئی..... ذرا نماز پڑھ لیتے ہیں۔“ وہ جاتے ہوئے بولے۔

شینا جیسے کہ سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رات کے کھانے کے وقت شینا نے بات چھیڑی۔

”پھر..... نمرتا کا کیا ہوا تھا؟“ اُس نے صبا بیگم کی طرف دیکھا۔

”نمرتا اُن ہی دنوں اپنے والدین کے ہاں چلی گئی تھیں۔“ سعید صاحب نے کہا۔

”پھر ایک دن اُن لوگوں کو پتہ چلا کہ اُس نے Abortion کر دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد

روہت کو امریکہ سے Offer آئی..... اصل میں وہ اُس کے لیے کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا..... وہ چلا گیا۔“ صبا بیگم نے کہا۔

”اور یوں سارا گھر بکھر گیا.....“ شینا جیسے کہ اپنے آپ سے بولی۔

کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ شینا نے سر اٹھا کر سعید صاحب کو دیکھا۔

”سر..... آپ کو کبھی دکھ ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہوا؟“ وہ آہستہ سے بولی۔

”ہاں بھئی..... اگر ادھر نہ رہے ہوتے تو کم از کم یہ اپنا گھر بنانے کا خیال تو کرتے.....

نغمہ اپنے گھر کی ہو گئی..... ریٹائرمنٹ کے بعد اس شہر میں کیا کریں گے..... واپس گاؤں جائیں

گے۔ گھر، زمین وغیرہ سنبھالیں گے۔“ سعید صاحب کی جگہ صبا بیگم بولیں۔

”تو..... پھر یہاں کیا پتہ کیا ہو جائے..... جب قبضہ ہی نہ رہے گا..... کل کو نغمہ کے بچے

آئیں گے..... تو..... شہر میں کوئی ٹھکانہ تو ہو..... ماشاء اللہ..... وہ اُمید سے ہے۔“

سعید صاحب سر جھکائے آہستہ آہستہ کھانا کھاتے رہے۔

”ہاں..... صبا کو اس بات کا بے حد غصہ ہے کہ میں نے اپنا گھر نہیں بنایا..... بھائی اب ایسا

علاقہ کہاں ملتا اس بھیڑ بھاڑ میں..... یہاں کی عادت ہو گئی تھی..... کوئی جگہ چچی ہی نہیں..... پھر.....“ انہوں نے فرش کی طرف دائیں بائیں دیکھ کر کہا پھر کچھ دیر خاموش ہو گئے۔ جگ میں سے پانی گلاس میں اٹھایا۔

”کبھی آپ کو..... ایسا لگتا ہے کہ..... یہ سب غلط ہوا ہے..... ایسا ہونا نہیں چاہئے تھا۔“ شینا نے آہستہ سے پوچھا۔ اُسے یقین تھا کہ ساری یونیورسٹی کے ڈکھ درد میں سے اپنا حصہ مانگنے والے سعید صاحب اس بات پر رنجیدہ تو ضرور ہوں گے کہ وہ برسوں کسی دوسرے کے گھر کے خواجواہ مالک بنے رہے..... اور حالات..... ایسے ہو گئے۔

”ہاں..... کل کو نغمہ کے بچے اگر نانا نانی کے ساتھ کبھی شہر میں رہنا چاہیں گے..... تو..... کیا کروں گا..... اس مکان نے مجھے مستقبل کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیا.....“ وہ آہستہ سے کچھ کہتے کہتے جیسے کہ رُک گئے تھے۔ شینا سمجھ گئی کہ واقعی انہیں ان حالات کا پچھتاوا ہے۔۔۔ اگر وہ براہ راست ان سے سوال کرے گی تو یقیناً وہی بات اُن کی زبان پر آئے گی جو شینا ان سے سننا چاہتی تھی۔ اُس نے پہلے صبا بیگم اور پھر سعید صاحب کی طرف دیکھا کہ قانون ایک طرف مگر خود ان کا ضمیر تو کچھ اور کہتا ہوگا۔

”سراگر آپ لوگ اُس وقت گھر چھوڑ دیتے..... تو کچھ عرصہ الگ کمرے میں بحث اور جھگڑے سے دور رہ کر شاید نمرتا کا ذہنی تناؤ کم ہو جاتا۔“ اُس نے صبا بیگم کی طرف دیکھا۔

”ہو سکتا ہے وہ مایکے نہ جاتی..... اپنے بچے کو جنم سے پہلے..... اور پھر دونوں میاں بیوی آخر کار پچھڑ ہی نہ جاتے..... یا پھر..... یا پھر روہت ہی امریکہ نہ جاتا..... اور انکل، آنٹی..... یوں تنہا.....“

شینا آخری جملہ کہتے ہوئے اُداس سی نظر آنے لگی۔ سعید صاحب نے آہستہ سے نوالا توڑا اور اُسے سالن کی کٹوری کے کنارے سے نکال کر جانے کہاں دیکھنے لگے.....

”ہاں..... پتہ نہیں..... مگر اکثر میرا ضمیر مجھے اس بات کے لیے کچوکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی یا اُس کے ہونے والے بچوں کے لیے..... ایک گھر تک نہ بنو اسکا.....“ وہ اُداس ہو کر رُک رُک کر بولے..... اور شینا حیرت زدہ سی اُنہیں دیکھتی رہ گئی۔



## رنگ

آج اُس نے پھر ویسا ہی خواب دیکھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کیوں.....؟ کیوں..... دیکھتی ہوں میں یہ خواب۔ کہتے ہیں خواب میں انسان اپنی ادھوری خواہشات کو تکمیل کے عمل تک پہنچاتا ہے..... میری تو کوئی خواہش ادھوری نہیں..... کوئی کمی نہیں زندگی میں۔ ایک مکمل انسان ہوں میں..... پھر؟

وہ کسی ہرے بھرے راستے سے گذر رہی تھی۔ دونوں طرف سرسبز پیڑ تھے۔ اور بڑی بڑی شاخیں راستے پر جھکی آ رہی تھیں۔ وہ اُن شاخوں کو ہاتھ کی ہلکی سی جنبش سے ذرا سا پرے کر دیتی۔ کبھی گہری سانس لے کر اُن کی خوشبو سے محظوظ ہو کر مسکرا دیتی۔ کتنی ہی دیر تک وہ اس خوبصورت راستے پر چلتی رہی۔ نرم نرم گھاس اس کے پیروں کو گدگداتی رہی۔ ہر آٹھ دس قدم کے فاصلے پر کوئی پھولوں سے لدی کیاری اُس کا استقبال کرتی..... وہ پھولوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوئی اور قہقہہ لگا کر ہنستی ہوئی آگے بڑھ جاتی۔

تھوڑی دور چل کر وہ اچانک رُک گئی اور خوشی سے چیخ پڑی۔ گھنے پتوں اور بے شمار پھولوں سے لدی ایک ڈال اس کے شانے کے برابر جھکی ہوئی تھی اور اُس کے آخری سرے کے بالکل قریب سنہرے رنگ کے نرم نرم تنکوں کا ایک گھونسلہ بنا ہوا تھا اور اس میں ایک نوزائیدہ انسانی بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اُس کا لباس کسی خوش رنگ پرندے کی طرح تھے۔ ہر اسرخ، نیلا، اُودا، نارنجی سبز، رو پہلا اور کئی اور رنگوں کا جن کے نام وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ بچہ اُسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ بھی مسکرائی اور اسے دیکھتی رہی۔ بچہ اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اسے اعتبار نہ ہو رہا تھا کہ بچہ اُسی کے لیے ہمک رہا ہے۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگی کہ کیا یہ بچہ واقعی اُس کی گود میں آنا چاہتا ہے یا کسی اور کے

لیے چل رہا ہے۔ کئی لمحے اسی ادھیڑ بن میں گذر گئے۔ اُس کے علاوہ وہاں اور کوئی نہ تھا۔ پھر جب بچے کی خود سپردگی کے انداز سے اُسے یقین ہو گیا کہ بچہ اُسی کے پاس آنا چاہتا ہے تو فرط مسرت سے اس کی آنکھیں بھر آئیں اور ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اُس نے رنگ برنگی پوشاک والے مسکراتے ہوئے بچے کو گود میں لے لیا اور سینے سے لگا کر کئی منٹ تک ہچکیاں لے لے کر روتی رہی۔ رونا ذرا تھا تو اُس نے دائیں بائیں دیکھا۔ پرندے درختوں کی ڈالیوں پر بیٹھے نہایت سریلے نغمے گارہے تھے۔ ہوا میں دل نواز سا ترنم تھا۔ نوزائیدہ بچہ اُس کے کندھے سے لگا تھا اور کبھی کبھی سر اٹھا کر اُس کی طرف دیکھ کر مسکرا بھی دیتا تھا۔

پھر جانے کب وہ بچے کو لیے ہوئے گھر پہنچ گئی۔ آج اس کی خواہگاہ بہت پہلے کی طرح سچی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جب وہ اپنے پسندیدہ رنگوں کے پردوں اور چادروں سے اُسے سجایا کرتی تھی۔ اُن دنوں اُس کے ہاں پہلے بچے نے جنم لیا تھا۔ آج خواہگاہ سے اُس کی پسندیدہ مصنوعی خوشبو کی مہک بھی آ رہی تھی۔ ریشمی پردے ہوا میں سرسرا کر اُس کا استقبال کر رہے تھے۔ پلنگ کے قریب روپہلی دھات سے بنا چھوٹا سا پالنا، جالی کی جھالروا لے ننھے سے بستر سے مزین تھا۔ اُس کے ساتھ گھنگھروں والی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ گھونسلے والا بچہ پالنے میں لیٹا ہمک ہمک کر مسکرا رہا تھا۔

اس بچے نے اس وقت وہ لباس پہن رکھا تھا جو اُس نے اپنے پہلے بچے کی اُمید کے دنوں میں بنا تھا۔ یہ لباس اُس پر کتنا زیب دیا کرتا تھا۔ اُس کے بعد اُس کی بیٹی نے بھی کئی دفع یہ کپڑے پہنے تھے۔ طوطے کے پروں جیسے ہرے رنگ کے اون سے بنا گیا سویٹر، موزے اور ٹوپی۔

وہ اپنے کمرے میں کھڑی پالنے میں لیٹے بچے کو ایک ٹک دیکھ رہی ہے۔ وہ اُس کے پاس آنے کو بیقراری سے پیر مار رہا ہے۔ ننھی ننھی گول گول باہیں اُس کی طرف بڑھا بڑھا کر مسکرا رہا ہے۔ نوزائیدہ بچے اس طرح دیکھ دیکھ کر مسکراتے نہیں، جس طرح وہ آنکھوں میں محبت کے سمندر لیے اُس کی گود میں جانے کے لیے بیقرار ہو رہا ہے۔ اُس نے پھر دائیں بائیں دیکھا..... کیا یہ بچہ میرے لیے ہی..... مسکرا رہا ہے، میرے لیے بے چین ہے۔ اُس کے سینے میں ممتا کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ اس نے اپنے سینے سے آنجل کھینچ کر پلنگ پر پھینک دیا۔ اُس کا گریباں بھیگ بھیگ گیا تھا۔ نمی رس رس کر قیص کے دامن تک جانے لگی تو اُس نے بیقرار ہو کر دونوں باہیں پالنے کی طرف بڑھا دیں۔ اُس کے ہاتھ بچے کے قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ کسی اونچی آواز سے اُس



کادل اُس کے سینے میں اچھل کر دھڑکنے لگا۔ اُس نے گھبراہٹ میں آنکھیں کھول دیں۔  
اُس کا بیٹا دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ آج اتوار ہونے کے باوجود نہا بھی چکا تھا اور باہر  
جانے کو تیار نظر آ رہا تھا۔

”آپ ابھی تک سو رہی ہیں ماماں۔“ وہ بُرا سا منہ بنا کر بولا۔  
”ہمیں سکول کے لیے جگاتے وقت روز کہتی ہیں کہ دیر سے اٹھتے ہو۔ مجھے دوستوں کے  
ساتھ گھومنے جانا تھا اور اب تک ڈرائیور نہیں آیا۔“  
”ماما نے اُسے چھٹی دے دی ہوگی بھیا۔“

اُس کی بیٹی اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ شب خوابی کے چغہ نمالے سے لباس میں وہ ایک  
دم بڑی بڑی سی لگ رہی تھی۔

”پاپا جب شہر سے باہر جاتے ہیں تو یہ ایسے عجیب عجیب حکم سادر کیا کرتی ہیں۔“  
اُس نے ماں کی طرف ایک نظر پھینک کر منہ پھیر کر کہا۔  
”میں حالانکہ ڈرائیو کر سکتا ہوں مگر Under Age ہوں ورنہ آپ سے کون پوچھتا۔“  
بیٹے کے ماتھے پر کئی بل ابھر آئے تھے۔

وہ مسہری پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اور سینے پر ہاتھ دھر کر اپنے بے طرح دھڑکتے دل کی دھڑکن  
اعتدال میں لانے کے لیے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ پھر سر ذرا سائے کو خم کر کے وہ بائیں جانب  
کھڑکی کی طرف مڑی۔ کھڑکی اور مسہری کے درمیان چھوٹی سی تپائی پر ایک نہایت پرانا ٹیلیفون رکھا  
ہوا تھا۔

یہ ٹیلیفون تو لابی میں ہوا کرتا تھا۔ مہینہ بھر پہلے خریدا ہوا اُس کے پسندیدہ رنگ کا ٹیلیفون  
غائب تھا۔

”میں نے آپ کا فون اپنے کمرے میں Shift کر لیا ہے اور اپنا لابی میں لگا لیا ہے۔ یہ  
یہاں لے آیا ہوں۔ ہر آنے والے کی نظر لابی میں پڑتی ہے۔ پھر یہاں تو کوئی آتا نہیں۔“ بیٹے  
نے ماں کی نظروں کو دیکھ کر کہا۔

وہ چپ چاپ اپنے بچوں کو دیکھتی رہی۔ پھر سر کے پیچھے پڑے سر ہانے درست کر کے نیم  
دراز ہو گئی۔ اس نے منہ دیوار کی طرف موڑ لیا اور آنکھیں موند لیں۔

”اور ہاں آج ہم گھر re set کریں گے۔“ اس کی بیٹی کی آواز اس کی سماعت سے

”آپ نے یہ پرانے زمانے کا پالنا ابھی تک کمرے میں رکھا ہے۔ ہم تو بڑے ہو گئے ہیں۔ اس میں اب ہم Fit نہیں ہوں گے۔“ بیٹا بولا تو دونوں بہن بھائی قہقہہ لگا کر ہنسے۔ ”اسے چھت پر رکھو دیجئے۔ کسی کو ضرورت ہو تو دے دیجئے گا۔“ بیٹی کہہ رہی تھی۔

”نہیں“ اُس نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور چیخ کر کہا۔ پھر پالنے پر ہاتھ دھر کر دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ بچوں نے اسے کچھ حیرت سے دیکھا۔

”لو یہ پھر سو گئیں۔“ بیٹا ہاتھ ماں کی طرف اٹھا کر بولا اور کمرے سے باہر کی طرف مُڑا۔  
 ”اوہ فو.....“ بیٹی بھی باہر نکل گئی۔ کئی لمحے ایسے ہی گذر گئے..... وہ ساکت لیٹی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔

کچھ دیر بعد اُس کے ہونٹوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔



## تجربہ گاہ

خاکی نے ہسپتال کی تجربہ گاہ میں لگے بڑے سے آئینے میں خود کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ اپنے اسی قیمتی لباس میں تھا جو اُسے بہت پسند ہوا کرتا تھا۔ اُس کا قد چھ فٹ کے قریب تھا۔ رنگ کھلنا ہوا گندمی، بال گھنے اور بھورے تھے۔ آنکھوں کی پتلیاں سیاہ تھیں۔

بہت پہلے وہ دنیا بھر کے چند مشہور دولت مند لوگوں میں سے ایک ہوا کرتا تھا۔ یہ دولت اُسے وراثت میں ملی تھی۔ جسے وہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا۔ دن رات شراب سے مدہوش رہنے کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو گیا۔

اُس کی بہت سی معشوقاؤں میں سے کسی نے اُسے اس بلانوشی سے باز رہنے کو نہیں کہا۔ بیوی کی وہ کوئی بھی بات نہیں مانتا تھا۔ اور چالیس برس کی عمر تک آتے آتے اُس کا جگر تقریباً ناکارہ ہو گیا۔ اُسے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ دنیا کے چند ماہر ڈاکٹروں کی نگہداشت میں اُس کا علاج ہونے لگا۔ ایک تندرست ملازم کا انتخاب ہوا جس کے پھیپھڑوں کا سرطان آخری درجے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے گھروالوں کو ایک ضخیم رقم دے کر خاکی کے جگر کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا۔

آپریشن کامیاب رہا..... کچھ دن آرام سے گزرے مگر اُس کی لاپرواہیوں کی وجہ سے پیوند کیے ہوئے جگر نے زیادہ دن اُس کا ساتھ نہ دیا اور اُس میں Infection ہو گیا جسے کی آس جاتی رہی۔ ڈاکٹروں نے اس معاملے میں مشہور اداروں کے جینیٹک انجینئروں سے مشورہ کیا۔ وہ گھیرا باندھے اُس کی مسہری کے گرد کھڑے تھے۔

اس رنگ و شباب کی دنیا کو کیا اُس کی دولت خرید نہیں سکتی۔ کس کام کی یہ تحقیق..... یہ

سائنس..... یہ تجربات.....

مجھے زندہ رہنا ہے.....

اُس نے احتجاج کیا.....

زہرنوں کے اندر تک سرایت کر چکا ہے..... ڈاکٹر نا اُمید ہو گئے.....  
سارا خون بدل ڈالو..... یہ..... دولت.....  
اُس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا..... مگر.....!  
مگر.....؟

مگر ہمیں اپنی تحقیق پر دنیا کے قیام سا اعتماد ہے۔ ہم موت پر قابو پانے والے ہیں، ہمیں  
Gene کا Code حاصل ہو گیا ہے..... وہ پیچیدہ ضرور ہے۔ مگر جس دن ہم اُسے Decode  
کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، سمجھ لیجئے کہ.....  
مشہور عالم سائنسدانوں کی ٹیم اپنے آقاہم کے سربراہ نے کہا تھا۔  
اپنی ساری دولت میں تمہارے نام کرتا ہوں۔  
مگر اتنی جلدی تو ایسا کوئی امکان نہیں.....

او..... ڈاکٹر..... ڈاکٹر..... مری سانس..... مگر مجھے یقین ہے کہ میری ہڈیوں کا ڈھانچہ  
تندرست ہے تم اُسے محفوظ کر لو اور باقی کا جسم Hydrogen Peroxide میں Dissolve  
کر لو..... اور جب..... اور جب.....

ہاں اور جب زندگی ہمارے قابو میں آ جائے گی تو صرف تمہارے DNA کو  
Develop کر کے ہم بالکل تمہاری طرح کا انسان کلون کر لیں.....  
سربراہ نے زور دار قہقہہ لگایا۔

سائنسدان اس کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگے۔  
مگر اس سب کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ایک خلیہ محفوظ رکھ لینا ہی کافی ہوگا..... سارا  
جسم اُسی سے بنتا جائے گا۔

نہیں..... خاک کی پوری طاقت استعمال کر کے چیخا۔  
مجھے..... مجھے بچپن سے جوان ہونے تک کا مرحلہ..... طے نہیں کرنا..... مجھے جوانی  
چاہیے..... سیدھا جوان پیدا ہونا ہے مجھے..... یہی قد..... یہی صورت درکار ہے مجھے..... مجھے  
..... یہی صورت ڈاکٹر..... اُف..... میری سانس..... پلیز ڈاکٹر..... یہی زندگی..... یہی

دولت.....ہاں دولت۔

مگر تمہیں دولت دینا ہمارے بس میں.....کیسے؟

میں اسے.....میں.....وصیت کروں گا کہ.....میری دولت.....میرے کسی وارث کو اس وقت تک.....نہ دی جائے.....جب تک میں خود.....لوٹ کر.....میں خود.....زندہ ہو کر.....اپنی مرضی سے.....اپنی.....مرضی سے.....ہاں.....اس چیک سے.....اس چیک سے تم اپنے اخراجات.....پورے کرتے رہنا.....اور.....اور.....

ایک زوردار قہقہہ۔

پھر ہچکیاں.....ایک زور کی ہچکی۔

دستخط شدہ چیک اس کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان دبا ہے۔

DNA، RNA اور TRNA کے علاوہ اس کا ڈھانچہ بھی محفوظ ہے۔

تجربہ گاہ کو مزید وسعت دی گئی۔

تجربے ہوتے چلے گئے.....برسہا بیت گئے۔

سربراہ کا انتقال ہو گیا۔ دیگر ارکان بھی فوت ہو رہے ہیں، نئے نئے سائنسدان آرہے ہیں۔

تجربہ گاہ کے بہت بڑے وسطی ہال کے عین درمیان دنیا کے ایک امیر ترین آدمی کا ڈھانچہ

شیشوں میں محفوظ اپنے سر ہانے اپنی شناخت ایسے لیٹا ہے۔

نام : خاکی

پیدائش : ۱۹۶۰ء

موت : ۲۰۰۰ء

بہت پہلے لوگ دلچسپی سے اس ہال سے گذر کرتے تھے۔ مگر اب یہ بات بھی پرانی ہو گئی۔

دو صدیاں گذر گئیں.....شناخت کی فائل جانے کب کی بند ہو گئی تھی۔

اچانک ایک نوجوان جینیٹک انجینئر کو اپنے آقا، ہم، ٹیم کا خواب سچا ہوتا نظر آیا۔ لوگ کہتے

تھے اس انجینئر کی شکل ہو بھوشیٹے میں بند آدمی کی، ہال میں دیوار پر آویزاں قد آدم تصویر جیسی

ہے۔ بال۔ چہرہ۔ آنکھوں کا رنگ۔ قد سب بالکل ویسا ہی۔

آخر کار انجینئر اپنے تجربے میں کامیاب ہو گیا۔

جیتے جاگتے متحیرِ خاکی نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔  
 دو صدیوں سے محفوظ پڑا اُس کا پسندیدہ لباس کچھ زیادہ پرانا نہیں لگ رہا تھا۔  
 بہت شکریہ..... اب میں جاتا ہوں..... اُس نے انجینئر کی طرف دیکھا۔ اور مزید حیرت  
 زدہ رہ گیا۔

تم..... تم..... تم.....

انجینئر مسکراتا رہا.....

تم..... میری..... اولاد ہو..... تم..... تم.....

وہ خوشی سے چیخا۔

میں نہیں..... جانتا..... صدیوں پہلے کی بات میں کیا جانوں۔ انجینئر لا پرواہی سے بولا۔

صدیاں.....؟ خاکی بڑبڑایا۔

ہاں..... دو صدیاں گذر گئی ہیں تمہاری موت کو.....

دو سو سال..... اُف.....

وہ سر تھام کر دیوار سے ٹک گیا۔

مگر تم..... تو..... تم..... میری ہی نسل سے ہو..... میری اولاد کی..... اولاد کی..... اولاد

کی..... وہ مسکرایا اور تمہارے Apron پر لگے اس نیم پلیٹ پر میرا دوسرا نام بھی ہے..... تم.....

وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ انجینئر اُسے بغیر کسی تاثر کے دیکھتا رہا.....

آؤ..... ذرا حساب لگائیں کہ تم میری کون سی پیڑھی سے ہو..... میں..... تمہارا کون

ہوں.....

انجینئر کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی۔

کچھ لمحے اسی طرح گذر گئے۔

ٹھیک ہے..... میں جا رہا ہوں۔

وہ انجینئر کی طرف پلٹا۔

کہاں جاؤ گے..... انجینئر کی آواز ہو، ہو اسی کی طرح تھی۔

تمہاری آواز..... تم..... ہاں گھر جاؤں گا میں..... میں۔

کس جگہ.....؟

ترنم ریاض

اپنا پتہ جانتا ہوں میں..... میرا پتہ ہے..... دس ہزار درخت والے جنگل کے پاس بیٹھے پانی کے دریا کے کنارے دو منزلہ محل۔

اس نام کا کوئی مقام پایا جانا ممکن ہی نہیں..... تم بیٹھو..... میڈیا تمہارا انٹرویو لینے کو بیقرار ہے..... اور میرا بھی۔

نہیں..... میرے کپڑے پرانے لگ رہے ہیں..... مجھے نئے ملبوسات خریدنے ہیں۔  
کیسے خریدو گے.....؟

تم جانتے نہیں ہو..... میں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک.....  
تھے..... تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے، انجینئر نے اس کی بات کاٹی۔  
مطلب.....؟ خاکی کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔

کیا وہ دولت اتنی پیڑھیاں گذر جانے کے بعد تمہارے وارثوں نے ختم نہیں کر ڈالی ہوگی؟  
مگر میں نے تو وصیت.....

ایسی وصیت جو مر کر دوبارہ جی اٹھنے سے متعلق ہو..... کون مان سکتا تھا۔ دو صدی پیشتر.....  
ٹھیک ہے..... کوئی بات نہیں..... میری اسناد ہیں..... میرا تجربہ..... تو میرے پاس  
ہے..... میں تیز رفتار ہوائی جہاز بنانے کا ماہر ہوں.....

اُس کی ضرورت برسوں ہوئے ختم ہو گئی..... اب ہم Space Warp کے ذریعے ایک  
جگہ سے غائب ہو کر دوسرے مقام پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔

..... ارے.....؟ اچھا.....؟..... تو..... ٹھیک ہے..... میں محنت کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز

کروں گا.....

خاکی دروازے کے قریب جا کر دروازہ کھولنے والا دستہ گھمانے ہی لگا تھا کہ انجینئر نے  
لپک کر اُس کا ہاتھ پکڑ لیا۔

چلو..... ادھر بیٹھو..... بیٹھو..... گارڈس انجینئر تیز آواز میں پہرے داروں کو آواز لگاتا ہے۔  
آرام سے اس کرسی پر بیٹھے رہو..... تمہارے ساتھ لوگ باتیں کرنے آئیں گے..... تم سے  
کئی طرح کے سوال کریں گے..... تمہاری باتوں سے کوئی بے چینی ظاہر نہ ہو..... سمجھے؟

تم کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے۔ وہ چیخا۔

میں تمہارا خالق ہوں..... تمہارا مالک ہوں۔ تم ماضی کی کتاب کا ایک پھٹا ہوا ورق ہو۔ اب

اگر تمہاری کوئی شناخت ہے تو وہ مجھ سے ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے۔ مکمل کیا ہے تمہارے وجود کو۔ عالم میں دھوم مچ گئی ہے میرے اس کارنامے کی..... اور اب میں ایک ایسا تجربہ کروں گا جس سے رہتی دنیا تک، میرا نام لوگوں کی زبان پر رہے گا۔ اور اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ انجینئر خاموش ہو گیا۔

مجھے کیا کرنا ہوگا.....؟ وہ کانپتے ہوئے بولا۔

میں تمہاری شہرگ کاٹ کر اسے میڈیا کے سامنے اُسی وقت جوڑ کر تمہیں مرنے کے فوراً بعد زندہ کروں گا۔

بس ذرا تمہاری صحت اچھی ہو جائے تو.....

نہیں تم..... تم ایسا نہیں کر سکتے..... میں..... میں تم پر مقدمہ دائر کر دوں گا..... اور قانون تمہیں..... تمہیں۔

ہا..... ہا..... تم ہو ہی کون، ہڈیوں کا ایک لاوارث ڈھانچہ..... جو، اب..... اب جو بھی ہے میری اپنی ملکیت ہے..... میرے گھر کے پالتو جانوروں کی طرح..... اور تم تو..... تم تو ایلیمیل ایکٹ میں بھی نہیں آتے..... گارڈس..... اسے شیشے کے اس صندوق میں لٹا کر آکسیجن کی تلی لگا دو..... حفاظت سے..... صندوق کی چابی میرے کیبن میں رکھ دینا..... میں باہر ذرا میڈیا سے بات کر لوں.....

محافظ خاکی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اُسے ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ وہ اُٹھ بیٹھتا ہے۔ اور اپنے شب خوابی کے لباس کی ریشمی آستین سے ماتھے کا پسینہ پونچھتا ہے۔ اُلٹے ہاتھوں سے دونوں آنکھوں کو ملتا ہوا وہ بری طرح ہانپ رہا ہے۔ اب وہ پوری طرح بیدار ہو چکا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ فون لگا تارنج رہا ہے۔

”اوشٹ اپ.....“

وہ فون اٹھا کر بغیر کچھ سنے واپس پٹخ دیتا ہے۔ اور کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑانے کے بعد پلٹ کی بائیں جانب دیکھتا ہے۔

پلنگ کے برابر کی تپائی پر چاندی کی منعش کشتی میں اس کی صبح کے وقت پینے والی پسندیدہ شراب کی بھری ہوئی بوتل اور نیلے رنگ کے باریک کانچ کا نازک سا جام رکھا ہوا ہے۔ دیوار کے ساتھ لگی، لکڑی کی نہایت خوبصورت گل بوٹوں والی بڑی سی الماری میں کانچ لگے شفاف طاقتوں



کے اندر مختلف اقسام کی شراب، چھوٹی بڑی جسامت کی الگ الگ شکل کی بوتلوں میں قطار در قطار بچی ہے۔ کھڑکی کے ذرا سے سر کے ہوئے پردے کی آڑ سے چلی آئی صبح کی دھوپ ٹھیک بار کی بوتلوں پر ہی پڑ رہی ہے اور جھل جھل مل جھل مل کر رہے شیشوں نے کمرے میں ساتوں رنگ بکھیر دیئے ہیں۔

وہ کچھ سیکنڈ یہ منظر دیکھتا رہا۔ پھر اُس نے کشتی میں رکھی بوتل اٹھا کر پوری طاقت سے بار پر دے ماری تو سرخ رنگ کے دبیز کشمیری ریشمی قالین پر کانچ کے بے شمار ٹکڑے بکھر گئے اور کمرے میں ان گنت ننھے منے سورج جھلملانے لگے۔

چھ باوری ملازم بھاگے بھاگے اندر آئے۔

”سر.....؟“ وہ ہاتھ باندھے پریشان حال سے اُس کی پائنتی کی جانب کھڑے ہو گئے۔  
 ”جسٹ..... گیٹ..... آؤٹ۔“ وہ دانت پیس کر رُک رُک کر بولا تو سب باہر کی طرف لپکے۔ اور وہ مسہری سے اتر کر کھڑکی کے قریب آیا۔ پردہ سر کا کر اس نے باغیچے میں نظر دوڑائی۔ اس کی بیوی گود میں اخبار پھیلانے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے سب مرم کی میز پر بیضوی کشتی میں نرم گرم ٹی کوزی کے اندر سے چائے دانی کا چمکدار رو پہلا دستہ جھانک رہا تھا۔ برابر میں رکھی پیالی سے بھاپ اُٹھ رہی تھی۔ اُس کے شانوں پر پھیلے آدھے بھگے بال صبح کی نرم دھوپ میں رچی ہوا سے ہولے ہولے لہرا رہے تھے۔ وہ بسکٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے سامنے پھینک رہی تھی اور تین چار چڑیاں انھیں پھرتی سے چگتی ہوئی ظاہر اور غائب ہو رہی تھیں۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر دروازے کی طرف مُڑا۔

اُس کا چہتا ملازم جاتے ہوئے مُڑ مُڑ کر اُسے ہی دیکھ رہا تھا۔

”لان میں ایک اور کرسی لگا دو.....“

اور..... ایک کپ بھی لے جانا.....“

اُس نے مسکرا کر کہا۔

”یس سر..... یس سر.....“

وفادار ملازم کا چہرہ پھول کی طرح کھل اُٹھا۔



## بی بی

بی بی ڈائینگ ٹیبل کے کونے سے پیٹھ ٹکائے اور ایک ہتھیلی کرسی کی پشت کے اونچے حصے پر دھر کر اپنے بدن کو سہارا دیے کھڑی اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی۔ اُس کا سرو قفے وقفے سے ہلکے سے جھٹکے کھا کر ہل جاتا۔ ناک سیڑھنے کی آواز بھی رہ رہ کر سماعت سے ٹکراتی اور وہ اپنا خمیدہ سا تھر تھراتا ہوا ہاتھ ماتھے کے قریب لے جا کر بار بار اپنے خشک بالوں کو سمیٹ کر سر پر دھرے ململ کے دوپٹے کے نیچے اڑتی جولوہ بھر بعد ہی پھسل کر واپس ماتھے پر بکھر جاتے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور بدن لرز رہا تھا مگر وہ اپنے مسوڑھوں کو سختی سے بھینچ کر اپنی اس کیفیت کو قابو میں رکھنے کی مسلسل کوشش کیے جا رہی تھی۔ کمرے میں موجود سبھی لوگوں کی نگاہیں اُس پر جمی تھیں۔

”آخر اس عمر میں آپ کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟“ باسط نے بیزاری سے منہ پھیر کر کہا۔  
اور ہاتھ سے بال سنوارنے لگا۔

”جو بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ تو چلتا ہی ہے..... پھر اس طرح اندر گھس کر.....“ شیبانے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔

”جھانک کر دیکھنے کی کیا۔ ضرورت کیا ہوتی ہے آپ کو؟“ بہو جملہ مکمل کرتے ہوئے باورچی خانے کی طرف پلٹی تو جھڑیوں میں جنبش سی ہوئی اور پوپلے منہ پر کھیانی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ اس نے سر کچھ اور جھکا لیا اور ہاتھ ماتھے تک لے جا کر بالوں کو آنچل میں سمیٹنے لگی۔  
”بتائیے نا بی بی۔“ اس بار پوتے کی آواز ذرا اونچی تھی۔

”سارا موڈ خراب کر دیا آپ نے..... آج سوچا تھا کہ Exam ختم ہوئے ہیں دوستوں کے ساتھ کہیں گھوم آؤں۔ خوا مخواہ ممانے روک لیا کہ Lunch کر کے جاؤں..... اور..... اب لپچ ہے..... کہ.....“ باسط کی آواز کی جھنجھلاہٹ میں گلے کی آمیزش صاف عیاں تھی۔

”مجھے تو ٹیوشن جانا ہے بھینا۔ سکول میں سوچا تھا کہ فوراً کھانا کھا کر سو جاؤں گی تو شام تک Fresh ہو جاؤں گی..... مگر۔“ پوتی نے ناک کو انگلی سے سہلاتے ہوئے دادی کی طرف دیکھا تو دادی نے سر ذرا سا اٹھا کر دھندلی نظروں سے دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ پھر دروازے کی طرف نظر اٹھائی جہاں سے اس کی بہو کے سینڈل کی ایڑیاں فرش سے ٹکرا کر اونچی آواز پیدا کر رہی تھیں۔

”اب آپ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں..... چائے اپنے کمرے میں..... آرام کیجئے..... آپ نے تو کھا پی لیا ہے..... میری آج شام کی ڈیوٹی ہے..... اور اس Maid کو آج ہی جلدی جانا تھا..... مگر آپ سے یہ سب کہنے سے کیا حاصل۔“ بہو اندر داخل ہوتے ہوئے بولی اور باہر نکل گئی۔

”بیٹا تمہارے پاپا آتے ہوں گے.....“ وہ پھر اندر آئی اور بچوں کی طرف دیکھنے لگی۔

”تھرماں میں چائے رکھی ہے..... پتہ نہیں آج دیر کیوں ہو گئی ان کو..... ورنہ اب تک تو.....“ بہو نے بات ادھوری چھوڑ کر پھر بی بی کی طرف دیکھا۔ بی بی نے دو ایک بار پلکیں جھپکیں اور بہو کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں ایسی لگ رہی تھیں جیسے ان میں دو دھیانگ کا کوئی گھول ڈالا گیا ہو اور چشمے میں لگے دو شیشوں میں سے ایک کا لینس زیادہ محدب ہونے کی وجہ سے ایک آنکھ دوسری کی نسبت کوئی چار گنا بڑی نظر آ رہی تھی۔ اُس ایک آنکھ میں ڈر اور التجا بھرا کوئی ملا جلا جذبہ بڑپتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پتلی بے قراری ادھر ادھر تھرک رہی تھی۔ شاید دوسری آنکھ کی پتلی بھی اس کا ساتھ دے رہی ہو مگر اس کا کانچ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ نچلا حصہ آدھے چاند کی شکل میں تراشا گیا تھا۔ اور دونوں کو ملانے والا جوڑ پتلی کی سیدھ میں ہونے کی وجہ سے آنکھ کچھ واضح نہیں تھی۔ اُس نے منحنی سا ہاتھ اٹھا کر جلدی جلدی بال سمیٹ کر پلو کے نیچے کرنے کی کوشش کی۔

”اُس سے..... نہ..... نہ کہنا بیٹا.....“ بی بی نے دوسرے ہاتھ سے جو گھٹیا کے عارضے کی وجہ سے پرندے کے پنچے کی طرح سکڑا اور مُڑا ہوا تھا، ٹھہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

”اب..... اب میں..... کیا کروں.....“ بی بی نے سر جھکا لیا۔

”مجھ سے..... کچھ..... کچھ ہوتا تو..... ہے نہیں..... میں۔“ اُس نے دونوں ہاتھوں سے کرسی کی پشت کو دھکا دیا۔ کرسی میز کے اندر سے ذرا سا باہر کو سر کی تو وہ اُس پر ٹک گئی۔ زیادہ دیر کھڑا رہنے سے اُس کی سوکھی لکڑی سی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس کی نظریں بہو کی ہی طرف تھیں۔

”ابھی..... جاتی ہوں..... اندر..... میں..... تم..... تم کچھ نہ کہنا اُس سے..... وہ آئے گا تو..... ورنہ..... وہ تو..... بچپن میں بھی اگر..... کبھی ایسا ہو جاتا..... تو پورا دن..... کھانا چھوڑ دیتا تھا وہ..... اب..... میں کیا کروں..... مجھ سے..... تو ہوتا نہیں..... کچھ..... بالوں میں..... تیل ڈالے..... کنگھا کیئے..... زمانہ ہو گیا۔“ بی بی کی آنکھ کے دودھیا گھول میں کوئی سیماب سی شے تیرنے لگی تو اُس نے بار بار پلکیں جھپکیں اور دھیرے سے ناک پونچھی۔

”تو یہاں کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ کے بال سنوارے بار بار۔ سب اتنے مصروف ہیں کہ..... خیر وہ تو دوسری بات ہے۔ آپ پہلے ایسا کرتی ہی کیوں ہیں.....؟“

بہونے بی بی کو ایسے دیکھا کہ آنکھوں میں لائے گئے حقارت کے تاثرات بی بی کو صاف نظر آئیں۔

”دانت بھی..... تو..... نہیں..... ہیں میرے..... اب..... میں تو.....“

”اب اس عمر میں دانت لگوا کر آپ کو کرنا بھی کیا ہے؟ دودھ، ڈبل روٹی، کیلا..... اس میں ہے تو ساری غذائیت..... آپ کو اور کسی چیز سے کیا مطلب.....؟؟“ بہو بحث کرنے کے انداز میں بولی اور ساری کے فالز درست کرنے لگی۔

”اب..... ایسا کبھی نہ ہوگا بیٹا..... میں ادھر کارخ بھی نہ کروں گی..... میں تو صرف..... خوشبو کے لیے۔“

”خوشبو کے لیے..... خوشبو پھیل تو جاتی ہے سارے گھر میں..... آپ کے کمرے میں بھی..... پھر.....!“ بہونے تحکمانہ انداز میں سر جھٹکے سے نیچے سے اوپر کر کے کہا اور کانوں میں پڑتی ہوئی کال نیل کی آواز پر دروازہ کھولنے باہر آئی۔

”بند مت کرنا دروازہ..... چابی دینے آرہا ہے ڈرائیور۔“

سیف خوشدلی سے بیوی سے مخاطب ہوا۔

”نہیں مجھے بھی گاڑی میں ہی جانا ہوگا..... آفس کی گاڑی ہارن کر کے چلی گئی..... میں تو

عجیب مصیبت میں گھری ہوں..... کیسے جاتی..... چائے تھرمس میں ہے.....“

وہ چہرے پر بے چارگی سی طاری کرتے ہوئے بولی۔

”کیوں کیا ہوا.....؟“ سیف نے دروازے پر آئے ڈرائیور سے بیگ لے لیا۔ اور اُس

کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں تھمی چابی کی طرف دیکھا۔

”تم گاڑی میں بیٹھو..... میم صاحب کو جانا ہے۔“ ڈرائیور کے چہرے پر مایوسی کی ہلکی سی تہہ چھانے لگی تو وہ اثبات میں سر ہلانے لگا۔

”ٹھیک ہے صاحب.....“ وہ باہر کی طرف لپکا۔

بہونشست گاہ میں داخل ہوئی تو سیف بھی اُس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوا۔

”کیا ہوا.....“ اُس نے بیوی کی طرف رخ کر کے ماں کی طرف دیکھا اور صوفے پر بیٹھ

گیا۔

”میری تو قسمت میں ہی پریشانیاں ہیں..... آج..... معلوم ہے سالن میں سے بال نکل

آیا..... بچوں نے دیکھا.....“

”اُف.....“ سیف نے نہایت ناگواری سے آنکھیں پھینچ کر منہ دوسری طرف موڑا۔

”میں Maid پر بگڑی کہ سکارف باندھ کر کام نہیں کرتی۔ وہ بھی چپ سی ہو گئی..... ڈر ہے

کام نہ چھوڑ دے..... اب دوسری ڈھونڈنا..... اوگاڈ.....“

مگر بال آیا کیسے..... سالن میں.....؟“ سیف نے برا سا منہ بنا کر تھوک نہنگا۔

بی بی نے چشمے کے پیچھے سے سہمی ہوئی نظروں سے بیٹے اور بہو کو باری باری دیکھا..... اور

انہیں ایک دوسرے سے مخاطب دیکھ آہستہ سے کرسی سے اٹھی۔

”ارے آنا کہاں سے تھا..... تھوڑی دیر بعد Maid مجھے بالکنی میں لے گئی۔ سورج کی روشنی

میں دیکھا تو سفید رنگ کا تھا بال.....“

”سفید بال.....؟..... سفید بال تو.....“

بی بی دیوار کے سہارے کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔

”اور کیا..... اب آپ کی ماں آ آ کر ہر وقت ہانڈیوں میں جھانکے گی تو.....“

بی بی نے اس کے بعد کچھ نہ سنا..... وہ اپنے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ عجلت سے مسہری پر

لیٹ کر اُس نے جلدی سے دروازے کی طرف ایک نظر دیکھا اور آنکھیں میچ لیس۔ چشمہ اتارنا

اُسے یاد ہی نہ رہا تھا۔



## ہم تو ڈوبے ہیں صنم.....

”ہو سکتا ہے یہ میری آخری خواہش ہو..... تم سے..... کچھ..... میں آخری بار مانگ رہا ہوں شاید۔“ شاہد نے ناد یہ کی طرف ملتجیانہ نظروں سے دیکھ کر ٹھہر ٹھہر کر کہا۔

”مجھے..... ڈر لگ رہا ہے..... ایسا مت کہو.....“ ناد یہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔

”کس بات سے.....؟ میری خواہش سے..... یا میرے اندیشے سے۔“

شاہد مسلسل اُس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ناد یہ نے پلٹ کر اُس کے چہرے پر نظر دوڑا میں۔ شاہد کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ جیسے شک، طلب، التجا اور نہ جانے کیا کیا ایک ہی جگہ جمع ہوں۔

ناد یہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور گلوکوز کی تلی میں سے شاہد کے جسم میں داخل ہونے والے پانی کی رفتار دھیمی کر دی۔

”سردی لگ رہی تھی نا.....؟“ اُس نے آہستہ سے پوچھا۔

”ہاں..... تمہیں کیسے.....؟؟“ اُس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ نرس اندر داخل ہوئی۔

”وقت ختم ہو گیا ہے..... اب مریض کو آرام کرنے دیجئے۔“

آج شاہد کیسی باتیں کر رہا ہے..... گھر پر ثمرین بھی اکیلی ہے۔ ناد یہ سوچنے لگی۔

”بابا کیسے ہیں امی؟“ کل ناد یہ کے ہسپتال سے لوٹنے پر اُس کی گیارہ سالہ پتی ثمرین نے پوچھا تھا۔

”اب شاہد بہتر ہیں کچھ۔“

ناد یہ نے پرس مسہری کی طرف اچھال دیا تھا اور کرسی پر نیم دراز ہو گئی تھی۔

”پانی لاؤں امی؟“ ثمرین ماں کے قریب چلی گئی تو اُس نے ثمرین کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔

”نہیں بیٹا۔ تم بس میرے سینے سے لگ جاؤ۔“

نادیہ نے اُس کا سراپنی چھاتی سے لگالیا۔ تو اس نے اپنی دہلی پتلی باہیں اپنی امی کی کمر کے گرد ڈال دیں۔

”بابا اچھے ہو جائیں گے تو..... تو..... پھر پہلے کی طرح..... آپ سے لڑیں گے..... آپ کو ماریں گے.....“

ثمرین فرش پر بیٹھ گئی اور اپنا سر ماں کے زانو پر رکھ دیا۔

”نہیں بیٹا..... ایسا کچھ نہیں ہوگا.....“

”بابا بچیں گے نا.....؟“

”ہاں..... اللہ میاں سے دعا کرو..... وہ رحیم ہے۔ کار ساز ہے۔“ نادیہ کی آنکھیں بھرا آئیں۔

نادیہ نے شاید کو چاہا تھا۔ عیش و آرام ٹھکرا کر اس کی متوسط زندگی اپنائی تھی..... اُسے محبت کے علاوہ اور کچھ نہ چاہئے تھا..... مگر اُسے جلد ہی علم ہو گیا کہ شاید گھر گریہ ستی کا کچھ ایسا شوقین نہیں ہے۔ جانے کتنی دوست تھیں اس کی۔ راتوں کو تک غائب رہا کرتا وہ۔

گھر میں تناؤ تھا۔

نادیہ نے اُس سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ بات کرتا تو جواب دے دیتی۔

شاید اکثر غصے میں نظر آتا۔

کوئی چار ایک برس پہلے کی بات ہے۔

اُن دنوں نادیہ دوسری بار امید سے تھی۔

ثمرین اپنی ماں کے پیٹ پر کان دھرے ماں کے قریب لیٹی تھی۔

”بھئیہ کی شکل کیسی ہوگی امی؟“ وہ ماں کے ابھرے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔

”تمہارے جیسی..... پیاری پیاری سی۔“

”بابا جیسی تو نہیں ہوگی نا۔“ اُس کے لہجے میں ہلکی سی تشویش تھی۔

”ہو سکتا ہے..... تمہارے بابا کی شکل بھی تو اچھی ہے۔“ نادیہ سیلنگ کی طرف دیکھتی رہی۔

”مگر اگر وہ بابا کی طرح غصہ کرے گا..... تو..... تو؟“

ثمرین پریشان سی ہو کر بولی۔

”نہیں بیٹا..... وہ تو چھوٹا سا منا ہوگا..... وہ کیوں غصہ کرے گا..... اپنی ننھی سی باجی کو بہت

پیار کرے..... بہت عزت کرے گا تمہاری۔“  
نادیہ نے انگلی کے پوروں سے ثمرین کا رخسار چٹھوا۔

”امی؟“

”جی!“

”صرف بھائی ہی بہن کی عزت کرتا ہے..... یا..... اور کوئی..... بھی؟..... کیا بابا آپ کی عزت کرتے ہیں؟“

”ہاں..... شاید.....“

”پھر آپ کو بری بری باتیں کیوں کہتے ہیں.....؟“

”وہ..... شاید..... اُن کی عادت..... ہے۔“

”یہ تو گندی عادت ہے..... اُن کو دادی جان نے بتایا نہیں؟“

”کیا معلوم..... وہ تو بہت پہلے اللہ میاں کے پاس چلی گئی تھیں۔“

”ہم بھیا کو بہت اچھی باتیں سکھائیں گے۔“

”انشاء اللہ۔“

”اُسے بابا جیسا نہیں بننے دیں گے۔“ ثمرین نے آنکھیں موندھی ہی تھیں کہ اُس کی سماعت کے قریب ہی ایک دھماکہ ہوا۔

”کیا پٹی پڑھا رہی ہو بیٹی کو؟“ یہ آواز شاہد کی تھی۔

وہ دونوں مارے گھبراہٹ کے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔

ثمرین سہم کر ماں سے لگ گئی۔ نادیہ متعجب سی شاہد کو دیکھنے لگی۔

”کیا سکھا رہی ہو اسے؟“ شاہد پاس جا کر آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نادیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔

”میں پوچھتا ہوں کیا سکھا رہی تھیں اسے تم۔“ اُس نے نادیہ کے دونوں شانے پکڑ کر

جھنجھوڑے تو ثمرین جلدی سے مسہری سے اتر کر دیوار سے لگ گئی اور سہمی سی دونوں کو دیکھنے لگی۔

”امی۔“ شاید کانپتی ہوئی آواز میں اس نے پکارا بھی تھا۔

نادیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ایک جھٹکے سے شاہد کے ہاتھوں کو اپنے شانوں سے ہٹایا

اور مسہری سے اُتری۔ ابھی اُس نے پاؤں فرش پر رکھے ہی تھے کہ شاہد نے پوری طاقت سے ایک

زور کا تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ چیخ مار کر منہ کے بل مسہری پر گر پڑی۔ اُس کے گھٹنے مسہری کے



بان سے ہوتے ہوئے زمین سے لگ گئے۔ ثمرین ہچکیاں لے کر روتی ہوئی، باپ کی جانب خوفزدہ نظروں سے دیکھتی ماں کی طرف بڑھی تو شاہد کمرے سے باہر نکل گیا۔

”امی..... امی.....“ اُس نے ماں کا چہرہ اپنی طرف موڑا تو دیکھا کہ امی کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لپک کر غسل خانے سے تولیہ لے آئی اور ماں کی ناک اور چہرہ صاف کرنے لگی۔ ماں کے گال پر انگلیوں کے سرخ نشان آبلوں کی مانند ابھر آئے تھے۔

”ثمرین۔“ نادیدہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور زور سے کراہ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ تھام لیا اور بلک بلک کر روتی ہوئی فرش پر آ گئی۔ ثمرین بے بسی سے روتی ہوئی ماں کو دیکھتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے اُس کے آنسو پونچھتی رہی۔ ماں کی ناک سے خون بہنا بند ہو گیا تھا..... مگر یہ کیا؟..... ماں کے پیروں کے پاس اتنا خون.....؟

”امی، کیا ہوا..... پیر میں بھی چوٹ..... کیسے لگی ہے..... دکھائیے..... میں پتی کرتی ہوں۔“ ثمرین ماں کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اُس کی اشکبار آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اپنے جواب کا انتظار کرتی رہی مگر امی درد سے کراہتی رہی اور ہچکیاں لیتی رہی۔

ثمرین کچھ نہیں سمجھی تھی..... حیرت سے امی کے پچکے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر چپ چاپ سوچوں میں گم ہو جاتی..... ایک بار امی سے پوچھا تھا تو امی بہت غمزہ ہو گئی تھی..... دوبارہ اُس نے امی سے کبھی نہیں پوچھا۔

چھ ماہ کا حمل ضائع ہونے سے نادیدہ کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ دوبارہ ماں ہو جانے کی امید بھی جاتی رہی۔ پیٹ کے اندر Infection بھی ہو گیا تھا جس کے لیے اُسے مہینوں Antibiotics کھانا پڑے تھے۔ کوئی سال بعد وہ پوری طرح صحت یاب ہو گئی مگر پھر بھی جسم میں خون کی کمی قائم رہی۔

گھر کا ماحول آسب زدہ سا ہو گیا تھا۔

وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔

نادیدہ کے اس درجہ تکلیف اٹھانے کے باوجود بھی شاہد کا برتاؤ نہیں بدلاتا تھا۔ برسوں سے وہ مستقل طور پر ثمرین کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی۔ ادھر ہمیشہ سے اپنی صحت پر فخر کرنے والے شاہد کو اچانک بخار نے آیا۔ بخار بھی ایسا کہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں، پیٹ میں رہ رہ کر درد اٹھتا تھا۔ گولیاں وغیرہ آزمائی گئیں۔ فیملی ڈاکٹر کا نسخہ بھی کارگر نہ ہوا تو اُس نے خون کی جانچ کا مشورہ دیا۔ ان دنوں شاہد نسبتاً کم غصہ کرتا تھا۔ گھر میں تناؤ کچھ کم تو ہو گیا تھا مگر نادیدہ کو ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ

خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ جیسے وہ جان بوجھ کر چپ رہتا ہو۔ وہ کبھی کبھی ناد یہ کو بغور دیکھتا اور دیکھتا چلا جاتا۔

ناد یہ کسی فرض سے نہیں چوکتی، اس کی خدمت میں لگی رہتی۔ کبھی شور بہ تیار کر رہی ہے، کبھی پھلوں کا رس نکال رہی ہے۔ بار بار شمیرین کو شاہد کے پاس روانہ کرتی کہ اسے کچھ ضرورت تو نہیں ہے۔ اُس کے کمرے میں مسلسل Room Freshner چھڑکتی رہتی۔

اصل میں شاہد کو برسوں سے پائیریا کا عارضہ تھا۔ اُس کے مسوڑھوں سے خون رستا تھا۔ کبھی زیادہ کبھی کم۔ اُسے بار بار ٹکلی کرنا پڑتی تھی ورنہ اُس کے سانس سے کچھ زیادہ بد بو آنے لگتی۔ بستر پر پڑے رہنے سے سارے کمرے میں تعفن پھیلا رہتا تھا۔ جس سے ناد یہ کو ابکائیاں سی آتیں مگر وہ چپ چاپ سب برداشت کرتی۔ حالانکہ وہ اس تعفن کا خود کو کبھی بھی عادی نہیں کر پائی تھی اور اُسے برداشت کرنے کا وہ مجبور مرحلہ جس سے بچنا اُس کے لیے ناممکن ہو جاتا تھا، ہمیشہ سوہانِ رُوح ثابت ہوا تھا کہ رشتے کا یہ تقاضا ناد یہ کے احساسِ مظلومیت کو پاتال کی قید جیسا بے دست و پا معلوم ہوتا تھا۔ ادھر کچھ برسوں سے الگ کمرے میں رہنے سے اسے اس بد بو سے نجات حاصل ہوئی تھی مگر شاہد کی بیماری کے دنوں میں وہ نہایت مستعدی سے اس کی تیمارداری میں منہمک تھی۔ اسے اور کچھ نہیں سوچتا تھا۔

خون کی جانچ کے نتیجے کے روز ڈاکٹر نے ناد یہ کو فون کر کے تجربہ گاہ بلایا تھا۔ اور اکیلے آنے کی تاکید کی تھی۔

شاہد HIV Positive تھا۔ مگر وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوا اور دوسری جگہ سے خون کی جانچ کروائی گئی۔ نتیجہ وہی تھا۔

پھر اُس کا باقاعدہ علاج شروع ہو گیا۔ انجکشن، دوائیں، ہمدردی، خدمت، سب کچھ میسر تھا اُسے۔ مگر ان چیزوں سے اُسے سکون ملنا ناممکن تھا۔ وہ اب چڑچڑا بھی ہو گیا تھا۔ جب سے ناد یہ کے خون کی جانچ صحیح نکلی تھی، شاہد کا رویہ ایسا ہو گیا تھا جیسے اس کی بیماری کے لیے ناد یہ ہی ذمہ دار ہو۔

ملنے والوں کو معلوم ہوا تو کنارہ کش ہو گئے۔ شاہد اب کبھی گھر میں ہوا کرتا کبھی ہسپتال میں۔ ناد یہ ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔

کئی مہینوں سے لگاتار ہسپتال میں رہنے کے بعد آج مدت بعد ڈاکٹر نے اسے گھر لوٹنے کی اجازت دی تھی۔

”تم کیا تیمارداری کا ڈھونگ رچاتی ہو..... انتظار میں ہوگی کہ میں مروں اور تم جلد سے جلد

دوسری شادی کروں۔“ ایک دن نادیا کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیتے ہوئے شاہد نے کہا۔  
 ”مگر یاد رکھنا..... تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ سب جانتے ہیں کہ تم دوبارہ ماں نہیں بن  
 سکتی۔ بانجھ ہو تم بانجھ..... سمجھیں؟“ اُس نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور نادیا سے اُسے پل بھر دیکھتے  
 رہنے کے بعد کسی کام میں مشغول ہو گئی۔

”ہاں کوئی بوڑھا، لنگڑا لولہا ہو تو بات دوسری ہے..... کب کر رہی ہو شادی.....؟“ وہ  
 حلقوں میں دھنسی آنکھوں کو پھیلا کر بولا..... نادیا نے کوئی جواب نہ دیا۔  
 ”بولو.....“ وہ غصے سے چیخا۔

”کیا کہہ رہے ہو..... اپنے حواس کھو چکے ہو کیا۔“ اُس نے تڑپ کر کہا۔  
 ”سبھی عورتیں ایسا ہی کہتی ہیں..... مگر ادھر شوہر کی آنکھ بند ہوئی، ادھر وہ نیا خاوند تلاش  
 کرنے نکل کھڑی ہوئیں۔“  
 نادیا منہ پھیر کر چپکے چپکے رو دی۔

اُس روز وہ شاہد کو معائنے کے لیے ہسپتال لے گئی تو ڈاکٹروں نے اسے دوبارہ داخل کر لیا۔  
 جانے اُس روز ڈاکٹر نے نادیا سے کیا کہا کہ دوپہر میں کچھ دیر کے لیے جب وہ گھر آئی تو  
 ثمرین کو گلے سے لپٹائے کتنی ہی دیر وہ گم سم بیٹھی رہی۔

ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر، شاہد کو درد سے نجات کے لیے انجکشن لگا چکا تھا۔ شاہد بے ہوشی کے عالم  
 میں تھا۔ نادیا نے اس کا چہرہ گیلے تو لیے سے صاف کیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے بالوں میں کنگھا  
 کیا۔ آج سے پہلے نادیا کا چہرہ کبھی اتنا بجھا ہوا نہیں تھا۔ آج وہ پتھر کا متحرک بت معلوم ہو رہی تھی۔  
 شاہد ہوش میں آیا تو نادیا نے اُسے جوس کے گلاس کے ساتھ دوا کی نکی بھی دی۔

”زہر تو نہیں دے رہی ہو کہ تمہاری جان کا عذاب ختم ہو۔“ شاہد دوا کی طرف دیکھ کر طنزیہ  
 بولا۔ نادیا نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی منہ پھیرا..... چپ چپ سی اُسے دیکھتی رہی۔ شاہد کا چہرہ  
 آج سفید پڑ گیا تھا، چہرے کی تقریباً تمام ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔

”اس طرح گھور کیا رہی ہو؟..... کیا میں بد صورت لگ رہا ہوں..... یا نیم مردہ نظر آ رہا  
 ہوں۔“ وہ غصے سے بولا۔

”نہیں..... ایسا کچھ نہیں..... ایک گلاس اور دوں۔“ وہ دھیرے سے بولی۔

”نہیں۔“ وہ برجستہ بولا اور بغور اُسے دیکھتا رہا۔

دوسری صبح جب نادیا آئی تو وہ خاموش اُسے دیکھتا رہا۔

”میرے قریب آؤ.....“ اُس نے آہستہ سے کہا۔

نادیہ اُسے چونک کر دیکھنے لگی۔

”گھبراؤ نہیں..... میں کچھ نہیں کہہ رہا.....“ وہ کچھ نرمی سے بولا۔ نادیہ اسے حیرت سے

دیکھتی رہی۔

”میں تمہارا چہرہ چھونا چاہتا ہوں..... چھونے سے انفلکشن نہیں ہوتا۔“ نقاہت کے مارے

اُس نے سر پلنگ سے نکا دیا۔ اُس کا سانس بے ترتیب ہو رہا تھا آنکھیں مندھ رہی تھیں۔

”ہو سکتا ہے یہ میری آخری خواہش ہو..... تم سے میں..... آخری مرتبہ کچھ مانگ رہا ہوں

شاید۔“ شاید نے آنکھیں کھول کر نادیہ کی طرف ملتجیانہ دیکھ کر کہا۔

”مجھے ڈر لگ رہا ہے..... ایسا مت کہو..... نادیہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔

”کس بات سے.....؟ میری خواہش سے یا میرے اندیشے سے۔“ وہ مسلسل اس کے

چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نادیہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ شاید کے چہرے پر کچھ طلب،

کچھ التجا، کچھ حسرت، کچھ محرومی اور جانے کون کون سے جذبات ایک ساتھ نظر آ رہا تھے۔

نرس نے وقت ختم ہونے کا اعلان کیا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اور شاید کو دیکھتی

رہی۔ وہ اب ادھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نادیہ نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا تو

شاید کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی بائیں طرف کی پہلی داڑھ پر خون لگا ہوا تھا۔

نادیہ کے چہرے پر عجب محرومی بھری یا سیت چھائی ہوئی تھی۔

وہ آگے بڑھ کر پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گئی تو شاید دھیرے دھیرے اس کی طرف جھکا اور

اپنے دونوں کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اُس کے رخسار تھام کر اُس کے چہرے پر جھک گیا۔ نادیہ

اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی..... شاید نے اپنی پوری طاقت صرف کر کے اپنے ہاتھوں کی گرفت

اس کے چہرے پر مضبوط کر دی۔ وہ اُس کے لب کو دانت سے کاٹنے کی کوشش میں جب زور سے

دباتا چلا گیا تو نادیہ نے چیخ کر ایک جھٹکے سے خود کو اُس کی گرفت سے آزاد کرالیا۔

اُس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر اُس کا ہونٹ ایک ذرا سا بھی زخمی ہو جاتا تو..... تو

شاید کے مسوڑھوں کا..... خون.....

اُس نے زندگی میں پہلی بار شاید کی طرف حقارت سے دیکھ کر زمین پر تھوک دیا اور بھاگ

کھڑی ہوئی۔



## مجسمہ

عظمی چیخ سن کر پلٹی تو دیکھا کہ اُس کی سات سالہ بیٹی کا چہرہ سفید پڑ رہا ہے۔ بہت عرصے بعد آج صبح ہی اُس نے نوٹ کیا تھا کہ عتاب کے رخسار پہلی بار گہرے گلابی نظر آنے لگے تھے۔

”کیا ہوا بیٹیا؟“ عظمی مختصر سے پتھر یلے زینے پر ٹھہر گئی اور پلٹ کر عتاب کی طرف دیکھا تو عتاب بھاگ کر اُس کے گھٹنوں سے لپٹ گئی۔

”وہ..... وہ..... مجسمہ چلنے لگا ہے امی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آرہا ہے..... وہ..... وہ۔“

عتاب پر کچکی طاری تھی۔

”نہیں بیٹے..... آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔“ عظمی نے جھک کر اُس کے آنسو پونچھے۔

اُس کے ماتھے پر آ رہے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارا اور دوسرے ہاتھ سے اُسے لپٹائے رکھا۔ مگر اُس کا ہاتھ اُس کے رخسار کے قریب ہی ٹھہر گیا اور وہ خود کسی پتھر کے بُت کی طرح اُس منظر کو دیکھتی رہ گئی، جسے اُس کی عقل کسی صورت بھی قبول کرنے پر تیار نہ تھی۔

اُس دن بچے جھیل کی سیر کے بعد بجد اُداس تھے۔ عظمی انہیں کسی ایسے مقام پر لے جانا چاہتی تھی جہاں اُن کا جی بھی بہل جاتا اور اُن کے تجسس کی تسکین بھی ہو جاتی۔ عظمی خود کو اُن کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ مگر اُس کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔

”وہاں کی جھیلیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔“ عظمی نے انہیں سفر کرنے سے کئی دن پہلے سے جھیلوں اور وادیوں کی بہت سی باتیں بتائی تھیں۔

”بشکل لیک جیسی.....؟“ عتاب نے پوچھا تھا۔

”نہیں بیٹے..... یہ تو مصنوعی ہے..... سیاحوں کو attract کرنے کے لیے سرکار نے

بنوائی ہے۔“

”تو کیا وہاں کی ساری جھیلیں Natural ہی ہیں۔“ عظمیٰ کا دس سالہ بیٹا راحیل بولا۔  
 ”ہاں بیٹے۔ جھیلیں تو قدرت کی ہی بنائی ہوتی ہیں۔ اب چونکہ انسان جھیلیں خود بھی بنا سکتا ہے اس لیے اب بہت سی مصنوعی جھیلیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ مگر ہمارے وہاں کی جھیلیں دنیا کی حسین ترین جھیلوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اُن کا پانی اتنا شفاف ہوتا ہے جیسے..... جیسے.....“  
 ”جیسے منزل واٹر؟“ دو میں سے کسی نے کہا تھا۔

”ہاں بیٹا..... ایسا شفاف کہ بس..... کوئی دس سال پہلے آپ کے ابو کے ساتھ گئی تھی میں وہاں..... جھیل کی سیر کو..... شکارے میں بیٹھ کر۔ پانی اتنا صاف تھا کہ جھیل کی تہہ میں اُگی آبی گھاس صاف نظر آتی تھی۔ لمبی لمبی..... پانی کی سطح تک آتی ہوئی۔ ذرا سا جھانک تو ہری ہری گھاس میں روپہلی مچھلیاں ادھر ادھر پھرتی نظر آتیں۔ چھوٹی، بڑی بے شمار۔ آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ جھیل کے کناروں کے قریب جہاں پانی کی نسبت مٹی زیادہ ہوتی ہے وہاں گلابی رنگ کے نیلوفر یعنی..... کنول کے بڑے بڑے پھول کھلا کرتے ہیں..... اگست کے مہینے میں۔ اُن کے پتے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ عناب کے چھوٹے سے سر کا چھاتا بن سکتے ہیں۔“ عظمیٰ نے عناب کا سر ہاتھ میں تھام کر ہولے سے ہلا دیا۔ دونوں بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔

”پھر اُن مچھلیوں کے شکاری بھی نظر آتے ہیں۔ جانتے ہو کون؟“

”کون؟“

”نیل کٹھ..... اور کون..... نیلے، سرخ، نارنجی پروں والے۔ لمبی لمبی چونچوں والے۔ پانی کے بالکل قریب اُڑتے ہوئے اچانک گردن تک پانی میں ڈبکی مار کر جھٹ سے کسی مچھلی کو دبوچ کر پھڑ سے اُڑ جاتے۔“

”بیچاری..... مچھلی.....“ عناب نے اُداس سا ہو کر کہا۔

”یہ تو Food Chain ہے..... کوئی نہ کوئی Living Being کسی نہ کسی دوسرے Living Being کو کھاتا رہتا ہے۔“ راحیل نے عناب کو دیکھ کر سمجھانے کے انداز میں کہا تھا۔  
 عظمیٰ کی مسکراہٹ میں محبت جھلکنے لگی۔

”یہ تو ہم شہر کی جھیل کی بات کر رہے تھے۔ وہاں کے قصبوں میں اور بھی بہت سی مشہور جھیلیں ہیں جن کے حسن کا جواب ہی نہیں..... ایک تو دنیا کی شفاف ترین جھیلوں میں دوسرے نمبر پر آتی

”ہے۔“

”پہلی صاف جھیل Supreme Lake ہے نا امی؟“ راحیل نے سر ہلا کر کہا تھا۔

”ہاں بیٹا۔“

بچوں ہی کی طرح عظمیٰ خود بھی بے قرار تھی۔

کوئی دس برس ہو گئے تھے..... اُس نے اُن گلیوں کو نہیں دیکھا تھا جہاں وہ کھیلی تھی۔ وہ خوابوں میں خود کو اُن راستوں پر ٹہلتا دیکھتی جہاں سے گذر کر وہ سکول، کالج، یونیورسٹی گئی تھی۔ اُسے اس ہوا کی خوشبو یاد آیا کرتی جس کی ٹھنڈک اُس کے جسم و جاں کو تروتازہ رکھتی تھی۔

کیا دن تھے وہ.....

وہ ہاتھوں کی محراب سی بنا کہ منہ پر رکھ لیتی اور اپنے کمرے کی درمیانی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوئی منہ سے کک کک کک..... کک کک آوازیں نکالتی..... جانے کس درخت کی کون سی ٹہنی پر ننھے ننھے کیڑوں کو کھوجتا کوئی ہڈ ہڈ اُس کی آواز میں آواز ملا دیتا۔ کبھی وہ بولتی، کبھی ہڈ ہڈ بولتا۔

کھڑکی کے قریب ایک پُرانا پیڑ بھی تھا۔ جس پر سیاہی مائل سرخ شہتوت اُگا کرتے تھے۔ اُس کی شاخوں میں چڑیوں نے گھونسلے بنائے تھے۔ ان کی چہکار سے ہی اکثر وہ بیدار ہوا کرتی تھی۔

ایک دفع جب کرم کشی والوں نے ہر سال کی طرح، ریشم کے کیڑوں کے چارے کے لیے شہتوت کے درخت کی پتوں سے لدی ساری شاخیں اتار لی تو چڑیا کا ایک گھونسلہ جانے کیسے دو ٹہنیوں کے درمیان ٹکا رہا تھا۔ مسہری پر کھڑے ہو کر عظمیٰ کو سارا منظر صاف دکھائی دیا کرتا تھا۔ چڑیا اپنے بچوں کے حلق میں چونچ ڈال کر اور سر جھٹک جھٹک کر دانہ اُٹدیلیتی۔ اور بچے پنکھ پھڑ پھڑاتے لپچائی لپچائی سی چہکار چھیڑے رکھتے۔ عظمیٰ پہروں اُنہیں سنا کرتی، گھنٹوں دیکھا کرتی۔ چڑیا نے کیسے اڑنا سکھایا تھا اپنے بچوں کو..... قدم بہ قدم..... جیسے عظمیٰ نے راحیل اور عنتاب کو چلنا سکھایا تھا۔ جس طرح اس کی ماں نے اُسے سکھایا ہوگا۔

چڑیا ایک بار پھدک کر بچے کو دیکھتی تو وہ بھی ویسی ہی کوشش کرتا۔ مگر کبھی ایک پنکھ کھولنا بھول جاتا کبھی عدم توازن کی وجہ سے گر پڑتا۔ یا پھر بس۔ چڑیا کی طرف چونچ کیے رہ جاتا۔

چڑیا کے بچوں نے جب پہلی انفرادی اڑان بھری تھی تو اُس کے کمرے کے درمیان میں لٹک رہے چھوٹے سے فانوس پر آ بیٹھے تھے۔ وہاں کمروں میں سیلنگ فین کم ہی ہوا کرتے تھے بلکہ ہوا ہی نہیں کرتے تھے۔ ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔

وہ چوکھٹ پر دانہ بکھیر دیا کرتی تھی۔ بچے شاید اُس کی موجودگی سے کبھی خائف نہ تھے۔ فانوس کی تار کے ارد گرد سوکھی ہوئی چکنی مٹی سے دو ابا بیلوں نے سیلنگ سے لگا کر ایک گھونسلا بھی بنا رکھا تھا۔ خدا جانے یہ مخصوص مٹی کس مخصوص ندی کے کنارے سے لاتی تھیں یہ ابا بیلوں نے۔ ایک گھونسلا کے لیے ان گنت بار مٹی ڈھونا پڑتی اور مٹی بھی ایسی جیسے اُس میں گوند ملا دیا گیا ہو۔ بھری ہوئی چونچ کی ساری مٹی گھونسلا سے چپک جاتی اور ایک ذرہ بھی نیچے نہ گرتا۔ کبھی اتوار کو عظمیٰ جب دیر سے بیدار ہوتی تو سیلنگ کے قریب سے یا قوت جیسی چار آنکھیں چمکا کرتیں۔ چپ چاپ دیکھتی ہوئی۔ ابا بیلوں نے کبھی اُسے جگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر جب وہ اٹھ بیٹھتی اور کھڑکی کا پردہ سرکاتی تو وہ لطیف سی چہکار چھیڑ دیتیں۔ جیسے ایک ایک ماتر پر گایا جانے والا کوئی غیر یقینی نغمہ..... جن دنوں عظمیٰ اپنے اس کمرے میں اکیلی سونے لگی تھی تو ابا بیلوں کی موجودگی نے اکیلے ہونے کا احساس تک اُس کے پاس نہ آنے دیا تھا۔

سفید سینوں اور کالے کالے لمبے پنکھوں والی ابا بیلوں۔ جیسے خمیدہ کمر والی ضعیفاؤں نے سفید لباس پر بڑے بڑے سیاہ اور کوٹ پہن رکھے ہوں۔ کتنی یادیں کتنے سکھ و ابستہ تھے اُس جگہ کے ساتھ۔ دکھ بھی وابستہ ہوں شاید..... مگر اُسے یاد نہ تھے۔

”مگر ہم جائیں گے کب امی.....“ عتاب نے مچل کر کہا تھا تو راحیل کی آنکھوں میں سوالیہ سی چمک جگمگائی تھی۔

”آج آپ کے ابو ٹکٹ لے آئیں گے..... بس آپ اپنی اپنی پیکنگ مکمل رکھئے۔ کل یا پرسوں ہی نکلنا ہوگا..... گھنٹے بھر کی اڑان..... اور ہم اپنے شہر میں.....“

جب وہ شہر پہنچے تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ایر پورٹ سے نکل کر سڑک پر آئے تو سفیدے کے لمبے چھریرے درخت دیکھ کر عظمیٰ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔

”یہ سفیدے کے درخت ہیں بیٹا۔“



گاڑی کی چھلی نشست پر اپنے دائیں بائیں بیٹھے بچوں سے اُس نے کہا۔  
 ”اور وہ بید کے..... یعنی Willow۔“

فیروز نے ہاتھ سے سڑک کے کناروں سے ذرا دور باغوں کی طرف اشارہ کیا۔  
 ”ان کی ایک قسم Weeping Willows کہلاتی ہے جو زیادہ نمی والی زمین میں اچھی  
 طرح پختی ہے۔“

”Weeping کیوں لہو.....“

”وہ بیٹا اس لیے کہ اُن کی ساری شاخوں کا جھکاؤ زمین کی جانب ہوتا ہے۔ جیسے کسی پہاڑی  
 سے کوئی جھرتا بہ رہا ہو۔ ان کو بید مجنوں بھی کہتے ہیں۔“  
 ”برگد کی طرح؟ جس کی جڑیں اوپر سے نیچے لٹکتی رہتی ہیں۔“ راحیل نے کہا۔  
 ”ہاں۔ کچھ کچھ۔“

”لوگ کتنے گورے ہیں..... وہ دیکھئے امی۔“ راحیل نے سڑک کے کنارے کی طرف  
 اشارہ کیا۔ جہاں بس سٹاپ پر کچھ طلبا بس کے منتظر تھے۔  
 ”اور Red, Red بھی۔“ عتاب نے کہا۔

”آپ یہاں رہیں گے تو آپ بھی ایسے ہی سرخ و سفید ہو جائیں گے۔ یہاں کی ہوا تازہ  
 جو ہے..... پہاڑوں پر ایسی ہی تازگی نظر آیا کرتی ہے..... جب ہم یہاں سے گئے تھے تو راحیل  
 کے رخسار سیب ایسے سرخ تھے۔“ عظمیٰ نے اُس کے رخسار پر ہاتھ پھیرا۔  
 ”اور میرے امی.....“

”آپ تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں۔ Metro Polis اور گرم آب و ہوا میں رہ کر ہم سب ہی  
 سانولے سلونے ہو گئے.....“ عظمیٰ ہنس دی۔

چھٹیاں مہینے بھر کی تھیں۔ ہفتہ بھر رشتہ داروں سے ملاقاتوں میں گذر گیا۔  
 دوسرے ہفتے کوئی چھ روز ہڑتال رہی کہ کسی دکاندار کو کسی سرکاری محافظ نے محض اپنی اتا کی  
 تسکین کی خاطر گولیوں سے بھون دیا۔ اُس کے بعد شہر میں ادھر ادھر بم دھماکے ہونے لگے۔  
 ضروری کاموں کے لیے لوگ قدرت کے بھروسے نکل جاتے مگر گھومنے پھرنے کے خیال سے  
 کہیں جانا.....؟ بات کچھ بنتی نہ تھی۔

پھر یوں ہوا کہ اُن کی رہائش ہی کے باہر بارودی سرنگ میں دھماکا ہوا..... دھماکے والے بھاگ گئے۔ راہگیروں کو پکڑا گیا۔ گھروں کی تلاشیاں ہوتی رہیں۔

تین دن پہیہ جام رہا..... اور آخر ہفتہ بس سوچوں میں گذر گیا۔

واپسی میں دو دن رہ گئے۔ اب تو کہیں جانے کا پروگرام بنانا ہی تھا۔ بچے جھیل کی سیر کے لیے بیقرار تھے اور ان سے زیادہ عظمیٰ اور فیروز۔

جھیل تک کا راستہ کچھ زیادہ طویل نہ تھا۔ اُن دنوں اُس راستے میں پانچ چھ سرکاری پارک ہوا کرتے تھے۔ اب صرف ایک بچا تھا۔ باقیوں میں قطار در قطار نئے نئے کتبے کھڑے تھے۔ اکثر پر درج عمریں ۱۵ اور ۳۰ برس کے درمیان تھیں۔

وہ لوگ جب جھیل کے قریب پہنچے تو موسم نہایت خوشگوار تھا۔

جھیل کا باندھ کئی جگہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ کناروں کے پانی میں چھلے ہوئے بھٹے اور Wafers کے خول تیر رہے تھے۔ پانی گدلا تھا۔

”یہ تو گندی ہے امی.....“ عنتاب نے ماں کی طرف دیکھ کر بے یقینی کے سے تاثرات لیے

کہا۔

”یہ کنارہ ہے نا..... آگے آگے بالکل شفاف ملے گی جھیل۔“ عظمیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے جیسے اپنے آپ سے کہا۔ فیروز شکارے والے سے بات کر رہا تھا۔

”ہم شکارے میں بیٹھ کر وہاں تک جائیں گے..... وہ..... وہ دور جو چھوٹا سا جزیرہ ہے نا..... جس میں چنار کے چار درخت ہیں..... وہ وہاں..... وہاں جاتے ہوئے ہمیں راستے میں بے شمار ننھی ننھی مچھلیاں، ہری ہری آبی گھاس..... نیل کنٹھ اور سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔“ عظمیٰ نے ہاتھ سے دور اشارہ کر کے بچوں سے کہا۔

ہری بیلوں اور بڑے بڑے سرخ پھولوں والے پردوں اور نرم ربر کی کشادہ سیٹوں والا ایک شکارہ کنارے کے زینے سے لگان کا منتظر تھا..... شکارے کا نام لیک برڈ (Lake Bird) تھا۔ بچے گاؤتکیوں سے لگ کر بیٹھ گئے۔ عظمیٰ اور فیروز آگے والی نشست پر بیٹھے اپنے اطراف دیکھ رہے تھے..... کوئی دو ایک شکارے دور دور نظر آ رہے تھے۔

”رونق کتنی کم ہو گئی ہے۔“ عظمیٰ نے رونق کے غائب ہونے کی جگہ رونق کم کہا تو فیروز کے

ہونٹوں پر پھینکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔

کشتی کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ عظمتی کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔

کتنی یادیں وابستہ تھیں اس جھیل کے ساتھ..... وہ اپنے ابوآمی اور بہن بھائیوں کے ساتھ ایک بڑی سی گھر نما کشتی میں، عمدہ پوشاک پہنے، سامان خورد و نوش سے لیس جھیل کی سیر کو نکلی ہے۔ کناروں پر مغل باغات کی سیر بھی کی جائے گی..... ابو کتنی مصروفیت کے باوجود چھٹی کے روز سب کو سیر پر لے جاتے تھے۔

اب ابو بھی نہیں رہے..... میلے کا سماں ہوا کرتا تھا۔ مقامی لوگوں سے لدی کشتیاں، ملکی اور غیر ملکی سیاح..... کوئی موٹر بوٹ پر جھیل کے پانی میں زور و شور سے لہریں پیدا کرتا ہوا جا رہا ہے کوئی Water Skeeing کر رہا ہے۔ ہنی مون پر آئے جوڑے شکاروں کے پردے برابر کیے عہد و پیمان میں مصروف ہیں، کہیں پیرا کی ہو رہی ہے، کہیں کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے..... کسی پھولوں سے لدی کشتی کو کوئی گل رخ حسینہ کھیتی ہوئی پھول بیچ رہی ہے۔ ان پھولوں میں گل نیلوفر اپنے حسن و جسامت کی بنا پر سب پھولوں کا بادشاہ معلوم ہوتا ہے..... اس کے ساتھ گلاب، زنگس، گیندا، موگرا، چمیلی اور جانے کون کون سی قسم کے پھول ماحول کو معطر کیے ہوئے ہیں۔ کسی کشتی پر پھولوں اور سبزیوں کی بہار ہے۔ جھیل میں تیرتے باغیچوں میں اُگی سبزیاں اور ایک سبزی جو پانی میں اُگا کرتی ہے۔ نیلوفر کے پھول کا موسم ختم ہو جانے پر اُس کے درمیان کا حصہ جہاں ننھی ننھی پتیاں اُگی ہوتی ہیں، رفتہ رفتہ پروان چڑھتا ہے اور کمل ڈوڈہ کہلاتا ہے۔ جس میں نرم و نازک لذیذ گریاں ہوتی ہیں اور اسی نیلوفر کی ڈنڈی بڑی ہو کر، کمل ککڑی، بھیں یا ندور کہلاتی ہے۔ جو ایک مرغوب سبزی ہے۔ جھیل کے کناروں پر ہی ایک مخصوص قسم کی گھاس بھی اُگتی ہے جس کی شاخیں نہیں ہوتیں۔ اس کی چٹائیاں بُنی جاتی ہیں۔ ان چٹائیوں پر مٹی بچھا کر اسے قابل کاشت بنایا جاتا ہے۔ ان تیرتے ہوئے باغیچوں میں اُگی سبزیاں حیاتین سے پُر ہوتی ہیں۔ عظمتی نے سنا تھا کہ اس طرح کے تیرتے ہوئے باغ وادی کے علاوہ دُنیا میں صرف جنوبی امریکہ میں 'پیرو کی ٹیکا' جھیل میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ قدرت کے بنائے ہوئے جزیروں پر انسان نے لگائے ہیں، جانے کیسے تیرتے ہوں گے وہ جزیرے۔ اُن پر بھی سبزیاں اُگائی جاتی ہیں۔ مگر وادی کی جھیلوں، ڈل، ڈلرو وغیرہ پر تیرنے والے باغیچے انسان کے ہاتھوں کا کرشمہ ہیں۔ آج پھولوں پھولوں والی کوئی کشتی نظر سے نہیں گزی ابھی تک۔

عظمیٰ سوچتی.....

یہ ملاح کتنی ست رفتاری سے نیا کھے رہا ہے۔ جیسے اُداس ہو۔ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے کوشاں، پُر جوش ملاحوں کی کشتیوں میں بیٹھنا ایک الگ ہی لطف دیتا تھا۔ کہیں کیوں نظر نہیں آرہی تھیں آج یہ سب چیزیں۔؟..... کیوں.....؟ ہاں وہ جانتی تھی کیوں۔ مگر سمجھنے سے قاصر تھی۔ دور کنارے پر کہیں کنول کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ عظمیٰ حیرت سے دیکھنے لگی۔

یہ تو اگست میں کھلا کرتے تھے۔ جون میں ہی کیسے..... ہاں کرۂ ارض کی حرارت بڑھ جو گئی ہے..... اسی لیے..... اس دفع دو پہریں کچھ گرم بھی تھیں..... عظمیٰ کو کئی بار خیال آیا تھا کہ یہاں بھی گرمی سے نپٹنے کا کوئی انتظام کیا جانا چاہیے۔ نئے مکانوں میں اسی لیے اب سپلنگ میں پتکے لگائے جا رہے ہیں..... بھٹے، اخروٹ وغیرہ جو اکتوبر میں پکا کرتے تھے..... فروخت ہو رہے ہیں..... ساری دنیا ہی بدل رہی ہے..... عظمیٰ آسمان کو دیکھنے لگی۔

مگر جھیل تو نہیں بدلی..... اسے یکنخت خیال آیا تو وہ جھک کر پانی کو دیکھنے لگی۔ کشتی کنارے سے خاصی دور آ گئی تھی..... مگر پانی.....

عظمیٰ کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا اور ریزہ ریزہ بکھر گیا۔ وہ پانی کو دیکھتی چلی گئی۔ پانی مسلسل ویسا ہی نظر آ رہا تھا جیسا کناروں کے قریب تھا صرف اُس میں اس وقت اُسے چھلے ہوئے بھٹے اور ویفرس کی خالی تھیلیاں نظر نہیں آرہی تھیں۔

جھیل کا پانی پہلے سے اتنا مختلف تھا کہ اُسے محسوس ہوا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے..... کوئی ڈراونا خواب جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ اُس کے چاروں طرف میلا گدلا پانی تھا..... دور دور تک پھیلا ہوا..... جیسے پانی میں سیاہی جیسی کوئی چیز گھل گئی ہو۔ گلی سڑی گھاس کے تنکے پانی میں تیر رہے تھے۔ پانی کسی کم گاڑھے دلدل کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ محض انج بھر گہرائی کے بعد، پانی کے اندر کچھ واضح نہ تھا کہ کنارے پر بنے ہوٹلوں اور آبی گھروں کی آلودگی کا نکاس جھیل میں ہی ہوتا اور صفائی کا انتظام نہ کے برابر۔ کہیں کوئی مچھلی نہیں تھی..... نہ ہی کوئی نیل کٹھن۔ بچے اُس سے جانے کیا کیا سوال کر رہے تھے۔ فیروز انھیں تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور وہ شاید اپنے اندر کوئی بکھراؤ محسوس کر رہی تھی کہ خود کو سمیٹ کر کسی سے بات کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ کیا صدیوں پہلے کی طرح آج کوئی حکیم سو یہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ کیا پھر سے کوئی معرکہ سر نہیں

ہوسکتا۔ کتنا مشہور ہے کشمیر کی تاریخ میں سو یہ کارنامہ۔ صدیوں پہلے کا کارنامہ..... نویں صدی کے ایک راجہ اوتی ورمین کے راج میں ایک دانادر باری حکیم سو یہ ہوا کرتا تھا۔ جہلم جو ان دنوں ویتنا کہلاتا تھا، گرمی کے موسم میں اکثر و بیشتر طغیانی پر ہوتا کہ دھوپ کی تمازت سے پہاڑوں کی برف پگھل کر وادیوں کی طرف بہہ نکلتی تھی۔ اور کناروں پر بے گاؤں، شہر، سیلاب کی زد میں آجاتے تھے۔ خطے کے شمالی علاقوں میں ایک حصہ ہر برس جب سیلاب کا شکار ہونے لگا تو سو یہ نے رعایا سے محبت کرنے والے راجہ اوتی ورمین کے خزانے سے اشرفیاں لے کر دریا میں پھینکی جنہیں پانے کی خواہش میں لوگوں نے دریا کی تہہ سے مٹی نکال کر دریا کو گہرا اور کناروں کو اونچا کر دیا جس سے سیلاب کا خطرہ جاتا رہا..... لوگ سو یہ کے اس کارنامے کی وجہ سے اُسے حکیم سو یہ پکارنے لگے کہ اُس کی حکمت سے وہ ایک بہت بڑی مصیبت سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے تھے۔ اس مقام کا نام سو یہ پور رکھا گیا جو رفتہ رفتہ سو پور ہو گیا..... عظیمی افسردگی سے سوچتی رہی..... کیا آج کوئی ایسا حکیم..... کوئی حاکم..... کوئی ہمدرد..... کوئی.....

کشتی کو پلکا سا جھکا لگا تو اُس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ کشتی کنارے سے لگ چکی تھی۔ بچے بچھے بچھے سے تھے۔ فیروز خاموش..... اور وہ بے حد اُداس۔ فیروز کو کہیں جانا تھا۔ عظیمی کی نظر بچوں کے چہروں کی طرف اٹھ گئی۔

”عجائب گھر دیکھیں.....؟..... Musium? -“

پتہ نہیں اُس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جیسی کوئی شے کہاں سے آچکی۔

”ایک دم پرانے زمانے کی چیزیں..... جو آپ نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی.....“ اُس نے

تاثرات میں اشتیاق پیدا کیا۔

”جی امی.....“ راجیل نے آہستہ سے کہا۔

”ہم بھی دیکھیں گے.....“ عتاب ہلکے سے مسکرائی۔

میوزیم جہلم کے کنارے ایک روح پرور باغ سے لگا ہوا نہایت پرسکون معلوم ہو رہا تھا۔

پھانک کے قریب ریت کے تھیلوں میں محفوظ پہرے دار نے ان کی شناختی پرچیوں کا معائنہ کیا..... میوزیم میں داخل ہوتے ہی بچے ہشاش بشاش نظر آنے لگے۔

احاطے سے اندر داخل ہوئے تو ایک پرانے وقتوں کی توپ نے ان کا استقبال کیا۔ اُس

کے بعد مہاتما بدھ کا ایک قدیم مجسمہ نظر آیا۔ داہنی طرف چھوٹا سا زینہ اتر کر باغیچے کے کنارے

سے لگا ہوا ایک بہت بڑا پتھر تھا جو کوئی کتبہ معلوم ہوتا تھا۔ دوسری طرف بغیر سر کی ایک مورتی تھی جس کا جسم نہایت خوبصورتی سے تراشا گیا تھا۔

عمارت کے اندر جانے کا راستہ مختصر تھا اور پتھر کی پتلی لمبی سلوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر بنایا گیا تھا..... سلوں کے درمیان جا بجا ہری ہری گھاس اُگ آئی تھی۔

عمارت میں داخل ہوتے ہی اُن کی نظر سرسوتی کے ایک پر شکوہ مجتھے پر پڑی، جس کے قدموں کے پاس لکھی عبارت پر دوسری صدی کی کوئی تاریخ درج تھی۔ سرسوتی کا مجسمہ آنکھیں بند کیے پر اسرار سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ شیشے کے ایک بڑے شوکیس میں ایک اور مورتی تھی..... یہ مورتی درگا کی تھی جو ایک بہت بڑے دروازے میں جڑی ہوئی تھی۔ غالباً کسی مندر کا حصہ رہی ہوگی اور کھدائی میں دریافت ہوئی تھی۔ اُس کے گرد لگے دائرے میں ماتا درگا کے مختلف روپ لیے کئی چھوٹے چھوٹے مجتھے تھے..... اور یہ سب ایک ہی پتھر کو تراش کر کسی عظیم فن کار نے نہایت مہارت سے بنایا تھا۔

”یہ چھٹی صدی میں رائج تھا..... تانبے کا ہے۔“ مجھے مجھے سے گاند نے عجائب خانے کی سیر کو آئے اکلوتے سیاح کنبے کو بتایا۔ یہ سکہ مجتھے کے بالکل سامنے شیشے کی چھوٹی سی صندوقچی میں لگا تھا۔

دوسری طرف بھگوان مہادیر کا بہت بڑا مجسمہ جیسے کہ صدیوں سے مراقبے میں بیٹھا تھا۔ کونے میں کالی کی پر جلال مورتی تھی۔ اُس کا ترشول اُس کے پیروں کے پاس پڑے کسی ظالم کے سینے میں پیوست تھا۔

ہال کا آخری سرا ایک مستطیل کمرے کے ساتھ جوڑا گیا تھا..... جس میں چھوٹے سے دروازے سے گذر کر ہی داخل ہوا جاتا۔

اُس کمرے میں مختلف اوزار اور ہتھیار تھے۔ شیشے کی الماریوں میں بند۔ جن کے کونوں پر سن، حاکم کا نام وغیرہ درج تھا۔

راحیل اور عناب انھیں نہایت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔

چھ چھ فٹ لمبی بندوقیں..... ذرہ بکتر۔ کچھ ہاتھی دانت کے دستے والی تلواریں تھیں۔ مخصوص امراء و وزراء کی۔ کچھ پردھات میں چھلائی سے گل بوٹے بنے ہوئے تھے۔

قافلہ دوسرے ہال میں داخل ہوا..... وہاں کی اشیاء بالکل مختلف تھیں۔ مغلوں کے زمانے

کے غالیچے۔ پشمینے کے قالین..... شاہ تو س کی ایک بڑی سی چادر پر مہاراجہ رنبیر سنگھ کے وقت کے شہر کا ایک نقشہ۔ مکمل تفصیل سے بنا ہوا۔ جس میں جھیلیں، بستیاں، کوہ، دریا سب مختلف رنگوں کے ریشمی دھاگوں سے کاڑھے گئے تھے۔

مغلیہ، شاہی پوشاکیں، رومال وغیرہ۔ پیرماشی اور اخروٹ کی لکڑی سے بنی دستکاریاں مختلف دھاتوں کے برتن۔ ہاتھ دھلوانے والا تانے کا قلعی کیا ہوا بہت بڑا منقش کوزہ اور آفتاب۔

”اے کیسے استعمال کرتے ہوں گے امی؟“ راحیل نے پوچھا۔

”کئی کئی لوگ اٹھاتے تھے دونوں کو..... بیک وقت کم سے کم چھ چھ آدمی۔“ گانڈ نے اُسے بتایا۔

شیشے کے ڈھکن والی لمبی سی میز کے اندر مختلف دھاتوں کے ہاتھ سے بنے زیورات تھے۔ ان میں کچھ اب بھی رائج ہیں۔ عظمیٰ نے سوچا۔ جیسے کانوں کے بڑے بڑے بالے۔ اتنے بھاری جھمکے کہ ایک دوسرے سے ایک زنجیر کے ساتھ جوڑے گئے تھے۔ وہ زنجیر سر کے اوپر آنچل کے اندر رہتی اور کانوں پر بوجھ نہ پڑتا۔

دھات اور پتھروں سے بنی پازیبیں، مالائیں..... کچھ برتن۔ کچھ قدیم کتب کے قلمی نسخے..... مغل بادشاہ اورنگ زیب کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک۔ کچھ قدیم ریاستی معاہدے..... انٹی دلچسپ اور اہم اشیاء کو دیکھ کر عظمیٰ اور بچے کچھ کھلے سے مطمئن سے نظر آ رہے تھے۔ اور پُراستیاق ہر شے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔

اس کے بعد کے ہال کو ایک راہداری کے ذریعے دوسری طرف کے ہال کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ بچے اگلے ہال کی طرف جا چکے تھے۔

عظمیٰ جب وہاں پہنچی تو بچے نہایت انہماک سے وہاں نسب مجسموں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ مجسمے ریاست کے تینوں خطوں میں رہنے والے لوگوں کے مختلف ملبوسات میں ایستادہ ڈمی کی طرح بنائے گئے تھے۔ مگر قدیم لباس میں۔ بغیر زیورات کے۔ سادہ۔ سادہ سے۔

اپنے بچپن میں بھی عظمیٰ نے انھیں اسی جگہ پر ایسے ہی نسب دیکھا تھا۔ ان کے کپڑے اب بوسیدہ ہو چکے تھے۔ گو کہ نلکیوں کے ذریعہ تمام الماریوں تک پرزرونیوگیس (Perservative Gas) پہنچائی جاتی تھی مگر یہ مجسمے الماریوں میں نہیں رکھے گئے تھے۔

سامنے کا دروازہ ایک بڑے ہال میں وا ہوتا تھا۔ اس میں عنقا اور موجود، دونوں قسم کے بہت سے پرندوں اور جانوروں کی کھالیں حنوط کر کے اس مہارت سے اصلی شکل میں منتقل کی گئی

تھیں کہ نقل کا گماں تک نہ ہوتا تھا۔

شیر۔ چیتا۔ تیندوا۔ مارخور بکرا جس کے سینگ خمدار ہوتے ہیں اور جو بڑے شوق سے سانپ کھاتا ہے۔ اود بلاؤ۔ نیولا۔ بھالو وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ وادی میں پائے جانے والے پرندے، چیل۔ کوا۔ گدھ۔ کبوتر پن پٹھر جو مور سے مشابہہ ہوتا ہے کہ اُس کے سر پر تاج تو ہوتا ہے مگر دم نہایت مختصر۔ مختلف قسم کی بٹھنیں، راج ہنس، بگلے، طوطے، مینا، کستوری، کئی طرح کی بلبلیں اور دیگر اقسام کی چڑیاں۔

اسی ہال میں دوسری طرف اکبر بادشاہ کا چھوٹا سا آدھے دھڑ کا مجسمہ تھا۔ عظمیٰ کو یاد آیا کہ جب وہ بہت چھوٹی سے تھی تو اُس کے چچا نے بنایا تھا۔ چچا بہت لگن سے مجسمے بناتے تھے۔ انھوں نے اکبر کے تاج پر سونے کے گھول سے نقاشی کی تھی۔ پھر بازو کی تکلیف کی وجہ سے انھوں نے اپنا یہ مشغلہ چھوڑ دیا تھا۔ چچا نے اپنی ایک چہیتی بیوی کا مجسمہ بھی بنایا تھا۔ وہ ان کی دوسری بیوی تھی۔ وہ مجسمہ اب بھی ان کی آبائی حویلی کے کسی گوشے میں محفوظ ہے۔

یہاں کئی مجسمے چچا کے ہاتھوں کے بنے تھے۔ ادنی پھرن اور ٹوپی پہنے ھٹھ پیتا ہوا آدمی۔ سادار سے پیالی میں چائے انڈیل رہی تلے کی کڑھائی والے گریبان کا پھرن پہنے خاتون۔ ہل چلاتا ہوا کسان۔ دودھ بلوتی ہوئی گریستن وغیرہ، کانچ لگی الماریوں میں محفوظ تھے اور اب بھی ان کی چمک جوں کی توں قائم تھی۔ ویسی ہی جیسے عظمیٰ نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی۔ مگر ٹوٹے کانچ کی الماریوں کے اندر کی چیزوں میں کوئی جاذبیت باقی نہیں تھی۔ یعنی حال کی طرح ماضی بھی اُجڑ سکتا ہے کہ یہاں کی بھی دیکھ بھال ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی تھی۔ عظمیٰ نے ایک گہری سانس لی۔

گانڈ دوسرے ہال تک ساتھ آ کر لوٹ گیا تھا۔

وہ اداس اداس سی آگے بڑھتی رہی..... ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتی ہوئی جانے کیا کیا سوچتی ہوئی۔

ہال کے آخری سرے پر جہاں سے برآمدہ نظر آتا تھا، ایک قد آدم مجسمہ ایک پرانی چھوٹی سی میز پر رکھا ہوا تھا۔ جیسے کسی ایسی بیمار لڑکی کی مورت، جو کھڑی رہنے سے تھک کر ذرا سا میز پر بیٹھ گئی ہو۔ سوکھی لکڑی سے ہاتھ پاؤں..... گڈھوں میں دھنسی آنکھیں..... عظمیٰ نے یہ مجسمہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عظمیٰ سوچنے لگی۔ کس قدر عظیم فن پارہ..... کسی بلند درجہ فن کار کا بنایا ہوا مجسمہ..... وہاں



کی ادھیڑ عمر کنواریوں کا ہو بہو عکاس۔ عظمیٰ اس شاہکار کو انگشت بدنداں دیکھتی رہ گئی۔

واہ.....

جانے مجھے کی آنکھوں میں کیا بات تھی کہ دل میں درد سا بھر جاتا..... اس کی نظریں باہر برآمدے والے راستے پر گڑھی تھیں جیسے وہ کسی کی راہ تک رہا ہو۔

عظمیٰ عیش عیش کر اٹھی۔ اور بچوں کو بلاتی ہوئی عمارت سے باہر نکل آئی۔ راحیل اُس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔

عناب نے پکار کر کہا کہ آ رہی ہے.....

عجائب خانے کے کراہتے ہوئے سکوت میں اُس کی آواز گونج اٹھی..... اونگھتے ہوئے محافظ نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تھا۔

عظمیٰ آگے بڑھ گئی۔ ابھی اُس نے پہلے ہی زینے پر قدم رکھا تھا کہ اُسے عناب کی چیخ سنائی دی۔ عناب کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔

ادھیڑ عمر کنواری لڑکی کا لاغر مجسمہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا ہوا انہی کی طرف چلا آ رہا تھا۔  
عظمیٰ دم بخود اُسے دیکھتی رہ گئی۔



## بالکنی

”چلو..... چلو چلو..... راستہ دو..... ایک طرف..... ہاں.....“

دو سپاہی گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ اُن کے پیچھے ایک اعلیٰ افسر اور اُس کے عقب میں اور دو سپاہی تھے۔

”لیکن ہم نے کیا کیا ہے بھینا..... یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ہم تو خود پریشان ہیں حالات سے۔ ہمارے گھر میں کوئی لڑکا بھی نہیں ہے۔ چوکی میں سب جانتے ہیں۔ یہاں تو آج تک کوئی..... ہم یہاں ۱۵ برس سے رہ رہے ہیں۔“

ادھیڑ عمر عورت گھبرا کر بولی تو سپاہی رُک کر اپنے افسر کی طرف دیکھنے لگا۔

”سر..... یہی تھا نا.....؟ جس رپورٹ کا آپ ذکر کر رہے تھے..... اُس میں یہی گھر تھا

تا؟“

”نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ماں جی..... ہم بس ذرا اپنی ڈیوٹی پوری کر کے لوٹ جائیں گے۔“

افسر نے سپاہی کی بات نظر انداز کر کے عورت کو دیکھ کر دائیں بائیں دیکھا۔ جملے کا آخری حصہ ادا کرتے ہوئے اُس کے چہرے پر پریشان سے تاثرات چھا گئے۔

وہ مکان کے کشادہ صحن کے عین درمیان آ گیا اور بوسیدہ دیواروں کو بغور دیکھنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مشرقی دیوار کے بالکل قریب چلا گیا اور اُننگلی سے ایک اینٹ کو چھوا جو پلستر اُکھڑ جانے کی وجہ سے آدھی سے زیادہ نظر آ رہی تھی۔ اینٹ کی اوپری سطح بھر بھر اگئی تھی اور اُس کی اُننگلی کا پور سرخ ہو گیا تھا۔ اُس نے اپنی صاف شفاف وردی کے گریباں کے قریب جہاں بہت سے طمغے لٹک رہے تھے، اُننگلی کو ہلکے سے رگڑ کر صاف کیا اور پھر وردی پر لگے سرخ داغ پر بڑے سکون سے ہاتھ پھیر کر دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ٹھونس دیئے اور زینے کی طرف بڑھ

گیا۔

”تم یہیں رکو۔“ اُس نے سپاہیوں کو حکم دیا۔

”میرا یقین کرو بیٹا..... آج تک ہمارے یہاں سے نہ کوئی ایسا انسان پیدا ہوا..... نہ کبھی

آیا..... نہ زُکا..... ہم شریف لوگ ہیں میرے شوہر بجلی کے محکمے میں کام کرتے ہیں۔“

عورت اُس کے پیچھے پیچھے زینہ طے کرتی ہوئی سہی سہی سی کہہ رہی تھی۔ اُس کی نظریں

افسر کے پہلو سے لٹک رہی پستول پر ٹھہر ٹھہر جاتیں۔

”یہ..... یہ میری بیٹی کا کمرہ ہے۔“ افسر نے ایک دروازے پر دستک دی تو ایک لڑکی نے

دروازہ کھولا اور خوف زدہ سی ہو کر باوردی اجنبی کو دیکھنے لگی۔

”نہیں نہیں..... کوئی بات نہیں..... یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔“

ماں نے اپنی آواز میں اعتماد پیدا کرتے ہوئے کہا۔

”اس گھر کا ریکارڈ سارا محلہ جانتا ہے..... بیٹا..... اس مکان کی تو سارے محلے میں عزت

ہے..... ہم سے پہلے جو لوگ یہاں رہتے تھے۔ بہت ہر دل عزیز تھے۔ وہ میرے شوہر کے محکمے

میں ایک بہت بڑے افسر تھے مگر ہر ایک کے کام آنے والے۔ اُن سے ہم نے خریدا تھا یہ گھر.....

۱۵ برس پہلے۔“

”وہ لوگ..... اب کہاں..... ہیں۔“ افسر دھیرے سے بولا۔

”خدا جانے بیٹا..... صاحب خانہ کے انتقال کے بعد اُن کی بیگم نے یہ گھر بیچا تھا ہمیں.....

وہ پھر غالباً اپنے آبائی گاؤں چلی گئی تھیں۔“ عورت کی آواز میں خوف کا عنصر کچھ کم ہو گیا تھا۔

”اور بچے.....؟“ افسر نے دروازے کی چوکھٹ کے اوپری حصے پر کھدا ہوا کوئی لفظ پڑھنے

کی کوشش کی تو اُس کے ہونٹوں پر ایک بے کیف سی مسکراہٹ چھا گئی۔

”بڑا بیٹا کہیں باہر پولیس یا فوج کی بڑی ٹریننگ کرنے گیا تھا..... اور چھوٹا ماں کے ہی

ساتھ.....“

”یہاں سامنے کوئی رہتا.....؟“ افسر کمرے میں داخل ہو کر کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگا۔

”ہاں..... رہتے ہیں..... دو میاں بیوی..... بوڑھے ہو گئے ہیں..... ایک بیٹی ہے

غزالہ..... سسرال میں۔“

”ہاں..... اچھا..... ٹھیک..... ہے..... غزالہ.....“ وہ دھیرے سے بولا۔ اور کمرے سے

نکل کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے اندر سامنے کی دیوار میں ایک بڑا سا دروازہ لگا ہوا تھا۔ اُس نے لپک کر دروازہ کھول دیا تو اُس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔

”نہیں۔“ اُس کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات چھا گئے تھے۔ دروازہ ادھ کھلا چھوڑ کر وہ غیر ارادہ طور پر دو قدم پیچھے ہٹا تو عقب میں کھڑی لڑکی کے پاؤں پر اس کے جوتے کی ایڑھی پڑ گئی۔ لڑکی کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی، لڑکی سہم کر ماں سے لگ گئی۔

”کیا ہوا.....؟“ عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں جانے کس سے پوچھا۔

”یہ..... یہ الماری کہاں سے..... یہ الماری آپ نے..... کب بنائی..... یہ.....“

افسر نے جلدی سے پوچھنے کی کوشش میں کہا مگر الفاظ اُس کی زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔

”بہت دن ہوئے بیٹا..... تم..... تم اس کی تلاشی لے لو..... دیکھ لو۔“ عورت اب بری طرح گھبرا رہی تھی..... اُس نے جلدی سے الماری کے دونوں پٹ پورے وا کر دیئے تو افسر کی کانپتی ہوئی آواز زک زک کر اُس کے کانوں میں پڑی۔

”یہاں..... یہاں پر..... چھوٹی سی بالکنی تھی..... جو..... جو سامنے والے گھر کے برآمدے کی بالکل سیدھ میں بنی تھی..... اور..... اور میں بالکنی میں بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔“ افسر آس پاس دیکھتا ہوا کمرے کی دہلیز تک آ گیا۔

”غزالہ برآمدے میں ٹہل ٹہل کر پڑھتی تھی۔“

”یہ..... اوپر!“ اُس نے دروازے کی چوکھٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔

”یہاں یہ..... میں نے اپنا نام..... لکھا تھا..... پر کار سے..... بہت برس پہلے..... پھر مجھے گھر سے دور ہوٹل میں رہنا پڑا..... والد صاحب انتقال کر گئے..... گھر بدل گیا..... میرا..... مگر میرا بچپن..... میری آدھی عمر..... اس..... اس گھر میں۔“

افسر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔



## آہنگ

“Mama is that you?”

کال سینٹر کے آپریٹر نے اچانک کہا۔

“Yes my child”۔ آسہ کی آواز میں اُٹتی ہوئی محبت نے اُس کی آنکھیں نم کر دیں۔

گلا اتارندہ گیا کہ آواز نکلنا محال ہو گیا۔ وہ کئی لمحے روتی رہی۔ پھر اُس نے بات کرنے کی کوشش کی۔

“I traced you my child. Now you have to come home. You have to son. Your grandpa passed away waiting and searching for you.

تمہارے پاپا بھی ٹھیک نہیں ہیں۔

He feels very lonely. You have to come. Forgive him son, come home.

گھر آ جاؤ چاند۔“

آسہ ہچکیوں کے دوران بولتی گئی۔ اُسے اپنے کانوں پر اپنے دل پر، ساری دنیا پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اُسے خواب سا لگ رہا تھا یہ سب۔ کیا واقعی وہ اپنے بیٹے سے مخاطب تھی، جو کوئی چار برس پہلے اچانک گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ جس دن اُس کی تجویز گھر والوں نے ٹھکرا دی تھی۔ اُس کے اگلے دن سے اُسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔

“آخر اس میں برا کیا ہے ماما.....“

وہ بڑی سی نشست گاہ کے برآمدے میں کھلنے والے دروازے پر کھڑا تھا۔ اُس کے تازہ دھلے بال جاڑوں کی نرم دھوم میں چمک رہے تھے اور ہوا سے رہ رہ کر لہرا بھی اُٹھے تھے۔

“اندرو آ جاؤ..... ہوا لگ جائے گی..... گیلے ہیں بال تمہارے..... Come on in۔“

آسہ نے میز پر پھیلے اخباروں پر اپنا چشمہ رکھ دیا تھا اور بیٹے کی طرف دیکھنے لگی تھی جس نے

اپنے طویل قامت جسم پر گہرے نیلے رنگ کی جینز پہن رکھی تھی۔ اور اُس پر مختلف رنگوں والا چار خانوں کے ڈیزائن کا سویٹر۔ یہ خانے سرخ، نارنجی، ہرے اور نیلے تھے۔ اُس کے صحت مند چہرے اور وجیہہ شانوں والے بدن پر اُس کی عمر کے لحاظ سے یہ لباس بچ رہا تھا۔ سویٹر کے گول گلے کے اندر سے ذرا ذرا سا جھانک رہے سفید قمیض کے کالر کے ساتھ اُس کے سفید Sports Shoes اچھے لگ رہے تھے۔

”کیا سمجھا رہی ہیں انھیں..... ذرا حلیہ تو ملاحظہ کیجئے.....“

جمال احمد نے میز پر پھیلے دو اخباروں میں سے ایک اپنی طرف سرکایا اور ہاتھ لہرا کر باسٹ کے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ باسٹ نے جلدی سے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور دوسری طرف دیکھنے لگا کہ آسمان کے پس منظر نے وہاں کئی رنگ بکھیر دیئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ باسٹ نے سویٹر میں شامل سارے رنگوں سے اپنے بالوں کو بھی رنگ رکھا تھا۔

”مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں.....“ جمال احمد نے پہلا اخبار واپس میز پر رکھا اور دوسرا اٹھالیا۔

”ارے یہ ادھر دیجئے نا..... پڑھ چکے آپ اسے..... میں نے دیکھا بھی نہیں صبح سے.....“

آسیہ نے ہاتھ بڑھایا تو جمال احمد نے اخبار اُس کے ہاتھ میں دے دیا۔

”مگر مجھے پسند ہے پاپا..... یہ میری Life ہے آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ زندگی مجھے

گزارنی ہے..... آپ دیکھ لیجئے گا میں سارا کام کیسے Successfully نبھاؤں گا.....“ باسٹ کی اٹھارہ سالہ آنکھوں میں چمک سی لہرائی۔

”کام.....؟“ باپ نے یکلخت سر اٹھا کر اُسے غصے سے دیکھا..... (نہیں۔ دیکھنے کی کوشش

کی کہ اُن آنکھوں میں خواب ہی خواب تھے..... اور چہرے پر اپنی عمر کے لحاظ سے پھیلی معصومیت میں عزم بھی تھا۔ ہونٹوں پر ایک ہلکی سی بے قرار مسکراہٹ تھی اور آنکھوں کی سیاہ پتلیاں بے چینی سے اپنے والد کے چہرے پر بدلتے تاثرات کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ جس کی تاب نہ لا کر جمال احمد نے سر جھکا لیا۔)

”زمانہ بدل گیا ہے ڈیڈ..... آپ Please try to understand..... میں کوئی غلط

کام نہیں کر رہا۔“ باسٹ دروازے سے اندر کی طرف دو قدم چلا۔

”اگر یہ تمہارے لیے غلط کام نہیں تو..... پھر..... پھر غلط کیا.....“

جمال احمد سر جھکائے بولے اور جملہ مکمل نہیں کیا کہ اُن کے والد چودھری کمال احمد بیٹھک

میں داخل ہوئے۔ وہ صوفے پر بیٹھنے لگے تو جمال نے اٹھ کر سارے اخبار اُن کے قریب رکھ

دیئے۔ انھوں نے ایک اخبار ہاتھ میں اٹھایا اور سب کو باری باری دیکھا۔

”کیا وہی بحث جاری ہے پچھلے دو دن سے..... اب تک؟“ وہ بولے۔

”جی..... اب یہ اس بارے میں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں.....“ جمال احمد نے صوفے پر پڑا اپنا پشمینے کا دو شالہ والد کے گھٹنوں پر پھیلا دیا تو باسط نے جلدی سے جوتے اتار کر قالین سے لگے پاندان پہ رکھے اور اندر داخل ہو کر اپنے دادا کے شانوں پر پھیلا شالہ درست کرنے لگا۔

”جیتے رہئے..... یہ کیا خد پکڑی آپ نے بیٹا..... یہ کیسے ممکن ہوگا.....“

”کانی پیس گے لو؟“ آسیہ بیگم نے آہستہ سے پوچھا۔

”ہاں بیٹی..... بنوادو.....“ انہوں نے ایک نظر بہو کی طرف دیکھا پھر اپنے بیٹے سے مخاطب

ہوئے۔

”آپ نے شاید ٹھیک سے سمجھایا نہیں ہمارے بچے کو..... یہ ہمارے لختِ جگر ہیں..... اتنے بڑے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں جو ابھی بھی اس دور میں بھی۔ اُس کے کرم سے کئی لوگوں کی کفالت کا ذمہ دار ہے۔ ایسے غیرت دار گھرانوں پر پورے سماج کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے..... اگر اپنے..... اپنے بچے ہی.....“

”دا جان..... دا جان آپ سنئے تو..... ایسا کچھ بھی نہیں ہے..... میں تو..... یہ کہہ.....“ باسط جب اپنے دادا کو مخاطب کرتا تو دادا کا لفظ اتنی جلدی ادا کرتا کہ دادا جان کے بجائے دا جان سُنائی پڑتا۔ دادا کا دل اس صدا پر محبت سے تھلکنے لگتا۔

”کیوں نہیں ہے..... اب ایسا ویسا اور کیا ہوتا ہے۔“ جمال احمد نے باسط کی بات کاٹ کر کہا۔

”کسی اچھے خاندان سے تمہاری بہن کا رشتہ نہیں آئے گا۔ لوگ ہم کو..... ہم کو جانے کس کس نام سے بلائیں گے.....“ جمال احمد نے اپنی بات کی تائید کے لیے جھٹکے سے سر بیوی کی طرف موڑا مگر آسیہ کے چہرے پر کوئی شدید ردِ عمل نہ دیکھ کر سر جھکا لیا۔ اور پھر سر اٹھا کر ریشمی پردے کی آڑ سے جھانک رہے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگے۔

پرسکون باغیچے کے درمیان سے گزرتے کنکریٹ والے راستے کے ایک طرف بڑے سے دبیز خوش رنگ قالین کو دھوپ میں پھیلا یا گیا تھا۔ دوسری طرف ہرے سنگ مرمر کی گول میز کے گرد بید کی کرسیاں رکھی تھیں۔ راستے پر لمبی لمبی دو گاڑیوں میں سے ایک کو ڈرائیور تیج پال بڑی پھرتی سے چمکار ہا تھا۔ جب چودھری صاحب کی آواز یلخت اونچی ہو کر کھڑکی کے شیشے کے اُس پار چلی آتی، وہ چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھتا۔ وہ بہت چھوٹا سا تھا جب سے یہ آوازیں سنتا آ رہا تھا۔ جب اُس کا باپ دھرم پال بڑے چودھری صاحب کی گاڑی چلایا کرتا تھا۔ ہنوارے

سے کچھ سال پہلے سے کئی سال بعد تک۔ تیج پال نے اسی گھر کی گاڑیوں پر ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ جب بڑے چودھری پچھلی سیٹ پر دو چھوٹے چکوری تکیے رکھ کر لمبے سفر کیا کرتے تھے۔ دلی سے لاہور، سیالکوٹ وغیرہ۔ پھر تقسیم کے بعد انہوں نے اس طرف ہی رہنا پسند کیا۔ حالانکہ اُن کا کاروبار راول پنڈی میں بھی پھیلا تھا۔ جو صدر ایوب نے راجدھانی کے طور پر چننا تھا مگر بعد میں غالباً نوآباد کاروباری طبقے میں مقبولیت حاصل نہ کر پانے کے سبب صدر نے راول پنڈی سے کچھ فاصلے پر نئی راجدھانی اسلام آباد بسائی۔ چودھری صاحب کا اُس خطے سے فون یا خط وغیرہ کے ذریعے رابطہ رہا کرتا تھا جو باسط کی نسل تک آتے آتے تقریباً ختم ہو گیا۔ ادھر کی منقولہ وغیر منقولہ جائداد میں کچھ ترقی بھی ہو رہی تھی مگر وہ زیادہ ترقی کے خواہاں نہ ہو کر قانع قسم کے انسان واقع ہوئے تھے۔ کہ رکھ رکھاؤ بھی پہلے سا تھا اور اطمینان بھی ویسا ہی..... باسط اس بات پر اکثر سوچا کرتا تھا جسے وہ اعلیٰ تعلیم دلوانے کے خواہاں تھے۔ مگر اُس کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ اُسے وقفے وقفے سے Fashion Designing اور Modelling کے دورے پڑے تھے جو بڑی سختی سے دبا دیئے گئے تھے۔

اب مگر اُس نے Hair Dresser بننے کی ضد پکڑ لی تھی اور یہ بھی پوری ہوتی نظر نہیں آتی تھی کہ گھر والے اُسے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ذاتی کاروبار سے وابستہ کر دینا چاہتے تھے۔

”تو پھر..... ڈیڈ..... آپ دیں گے مجھے اس کورس کے لیے فیس؟“

”نہیں بالکل نہیں..... ہمت کیسے کرتے ہو تم یہ پوچھنے کی..... احمق..... حجام بننا چاہتے ہو

تم..... دفع ہو جاؤ۔ میری نظروں سے.....“

جمال احمد نے آواز اونچی کر کے کہا تھا۔

اور باسط دفع ہو گیا تھا۔ کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ اور اُس کے جانے سے گھر کی ساری خوشیاں

بھی جیسے رخصت ہو گئیں کہ سب غلیل رہنے لگے تھے۔

باہر کی کسی کمپنی نے ایک نئی دوا ایجاد کی تھی جس سے کئی بیماریوں کا بیک وقت علاج ہو سکتا تھا۔ آسیہ نے جمال احمد کے دل کے عارضے اور ذیابیطس کی دوا کے سلسلے میں فون کیا تھا۔ Mom کا لفظ سنتے ہی آسیہ نے اپنے بیٹے کی آواز پہچان لی تھی۔ اُس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں اڑکا چاہتا تھا۔ مگر اُس نے خود کو منہنی انداز میں سمجھایا کہ یہ اُس کے بیٹے کی آواز کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ تو کسی اور کی آواز ہے۔ اور دوسری بار ہیلو سن کر اُسے ایسا ہی محسوس ہوا تھا کہ یہ کسی اور کی آواز ہے۔ مگر جب اُس نے دوبارہ پوچھا تھا کہ کیا یہ اُس کی ماں بول رہی ہے تو ہٹ پٹا اٹھی تھی۔



"Grand Pa?" وہ سوالیہ انداز میں دھیرے سے بولا تھا۔

"ہاں۔ تمہارے دادا جان نہیں رہے بیٹا۔"

"کب آؤ گے گھر..... اب آ جاؤ..... اپنا کاروبار سنبھال لو..... ہم نے تمہاری جدائی کے ان چار برس میں چار دہائیاں جی لی ہیں میرے لعل..... اب ہم تھک گئے ہیں..... تم آ جاؤ..... کوئی ایسے روٹھتا ہے..... تم جو چاہے کام کرو..... میں منالوں گی تمہارے ڈیڈ کو..... آ جاؤ..... Please بیٹا....." آئیہ سسکیاں لیتی رہی۔ وہ اُس کی سسکیاں سنتا رہا۔ اُس کے ہاتھ Key Board پر ٹھہرے رہے۔ مانیٹر پر فون نمبر کے ساتھ گھر کا پتہ درج تھا وہ پتھر کے بت سامانیٹر کو دیکھتا رہا۔

"کب آؤ گے بیٹا.....؟" آئیہ کی گلوگیر آواز نے اُسے چونکا دیا۔ اُس کی آنکھوں سے

آنسو چھلک پڑے۔

"Mom?" وہ دھیرے سے بولا۔

"Yes my baby" آئیہ کھٹکھار کر بولی۔

"I don't need dad's money ..... I need your love.....  
I need nothing else....."

وہ ہچکیاں لینے لگا۔

"I need you only." وہ بمشکل بول رہا تھا۔

"Don't ask me to come home. You come and stay with me..... will you ..... mom?..... please mama".

"but why?" یہ تمہارا گھر ہے میرے بچے۔ تمہاری جائداد ہے..... تم وارث ہو اس

گھر کے..... تمہاری بہن اپنے گھر میں آباد ہے..... یہ تمہارا ہے سب.....

"You give it to her..... and come to me."

"اچھا تم گھر تو آ جاؤ..... یہاں ہی بات کر لیں گے..... تم آؤ تو صحیح....."

"Mama first you come to me. Can you mom? Don't say no please!"

"اچھا میرے بچے..... آؤنگی میں ہی پہلے۔"

اُس نے آئیہ کو پتہ لکھوایا۔

آسیہ نے گاڑی نکلوائی۔

راتے بھر اُس کے آنسو بہتے رہے۔

میرا بچہ..... اب تو ایک بار بھی امی نہیں کہتا۔ جانے کیسا لگتا ہوگا اب..... کب وہ اُسے سینے سے لگائے گی۔

بتائے ہوئے پتے پر آسیہ بیگم نے بے قراری سے کال نیل بجائی تو ایک درمیانہ قد نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اُس کے بال بھورے تھے اور چہرے پر داڑھی تھی۔ چشمے کے پیچھے اُس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی ہلکی بھوری نظر آرہی تھیں۔

”باسط سے ملنا ہے.....“ Does Basit live here.....“ آسیہ لرزتی آواز میں بولی۔  
لڑکا بغور آسیہ کو دیکھ رہا تھا۔

"I want to see my son Basit. Does he live here? He gave me this address."

آسیہ نے ہاتھ میں پکڑی پرچی اُس کی طرف بڑھائی۔ نوجوان نے چشمہ اتارا اور پرچی کو ایک نظر دیکھا۔ آسیہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سو جی ہوئی تھیں..... اور ابھی بھی آنسو بھرے تھے۔ بلکہ بہہ نکلے تھے.....

"What happened?"

آسیہ نے جلدی سے پوچھا۔ آنسو بہہ کر لڑکے کی داڑھی میں گم ہو گئے۔

"Mom-" وہ دھیرے سے بولا۔

"تو کیا..... تو کیا..... تم..... تم؟" آسیہ کا سر چکرانے لگا تو اُس نے بڑھ کر آسیہ کو تھام لیا۔

"I am not your son..... but..... but..... you are my mother. My mother died last year, whose voice was exactly like yours. I do't know how I--- how I called you mom, but you.... you are my mom. are'nt you....?"

وہ آسیہ کو سہارا دے کر کمرے میں لے آیا اور اُسے صوفے پر بیٹھا کر خود فریش پر بیٹھ گیا اور سر اُس کے گھٹنوں پر رکھ کر ہچکیاں لیتا رہا۔

"Yes.... I ....am." آسیہ نے اُس کے سر پر دونوں ہاتھ رکھ دیئے اور بلک بلک کر رو

پڑی۔



## چوری

”ارے ارے..... ارے رکو..... ارے..... او بھائی..... ارے کوئی پکڑو..... وہ..... چور  
چور..... میں بھوکا مر جاؤں گا..... ارے کوئی دوڑو..... ارے.....“

دُ بلا پتلا نو عمر حسن چلتے چلتے پلٹا اور مخالف سمت کی طرف دوڑنے لگا۔ بازار شروع ہونے سے پہلے آنے والے اس موڑ پر جہاں چوراہا تھا، کئی دن سے چور سرگرم تھے۔ موڑ سے کوئی سو قدم پیچھے بینک تھا۔ بینک والی سڑک چوڑی تھی اور ہر وقت مصروف بھی۔ کچھ آگے چل کر چوراہے کی بائیں جانب بازار شروع ہو جاتا۔ بازار کے اطراف چونکہ بستی تھی، اس لیے ہر وقت بھیڑ رہتی۔ کئی کشادہ گلیوں پر مشتمل اس بازار میں انڈے سے لے کر گاڑیوں کے پرزوں تک ہر شے دستیاب تھی۔ ان کشادہ گلیوں کو بہت سی چھوٹی چھوٹی گلیاں، آپس میں ملاتی تھیں۔

دو دن پہلے بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا تھا۔ ایک آدمی بینک سے کچھ روپے لے کر نکلا تھا۔ رومال میں لپیٹ کر روپے اُس نے تھیلی میں رکھے تھے اور تھیلی کو لپیٹ کر مستطیل بنڈل بنا کر ہاتھ میں پکڑے چل رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے صابن کی دو بڑی بڑی نکلیاں ہوں۔ مگر کوئی شخص شاید اُس کا پیچھا کر رہا تھا کہ موڑ پر مڑتے ہی اُس نے لفافہ جھپٹا اور جانے کس گلی میں غائب ہو گیا۔ وہ چیختا رہا، لوگ ادھر ادھر دوڑے بھی مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔

اُس کے دوسرے دن بھی بینک والے موڑ پر ہی ایک آدمی کا بیگ چھینا گیا۔ اور کوئی پکڑا نہ گیا۔

آج جب حسن اسی موڑ سے اندر بازار کی طرف مڑا تو کچھ قدم چلنے کے بعد ہی کوئی بھاگتا ہوا آیا اور اُس کے ہاتھ میں بڑی نفاست سے تھمی چوکور شکل میں لپٹی ہوئی چیز کو چھین کر بھاگا۔ مگر پیچھے سے سکوڑ پر ایک سردار جی آر ہے تھے، حسن کو یوں بھوکا مر جانے کی دہائی دیتے

سُن کر بجلی کی پھرتی سے پلٹے اور چور کو گردن سے پکڑ لیا۔ حسن نے دوڑ کر اُس کے ہاتھ سے تھیلی چھین لی تو پاس کے بزرگ دکان دار نے پکار کر شاہاشی دی۔

”یہ ہوئی نابات۔ ایسے بہادر ہوں تو یہ اُچکے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے..... ذرا گن تو لو اپنی رقم..... پھر اس کو پولیس کے حوالے کریں گے۔“  
حسن حیرت سے اُن کا منہ دیکھتا رہ گیا۔  
”کون سی رقم لالہ جی.....“

”ارے یہی یار..... کیا معلوم اب تک ہی اس نے اڑالی ہو..... اور خالی تھیلی تمہارے حوضے آئی ہو.....“ سردار جی نے حسن کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔  
”یہ..... یہ تو..... یہ تو روٹی ہے میری۔ میری بیوی بڑے پیار سے پیک کرتی ہے اے۔“ وہ سُر مہ لگی آنکھیں جھپکا کر مسکرایا اور شرما کر آگے بڑھ گیا۔



## یمبرزل

اس انجام کا خدشہ سب کو تھا مگر اس کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ ماں اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی۔ باپ اسے قبول نہیں کر پارہا تھا۔ یا درایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اورانیقہ.....

”نکی باجی..... یہ الجھیرا مجھے ضرور فیل کرے گا.....“ یوسف نے پھرن کے اندر سے آگ بھری کانگری باہر نکال کر سبز گل بوٹوں والے سرخ قالین کے عین درمیان رکھ دی۔

”ہم سے تو یہ نہ ہوگا..... نہ ہم پاس ہوں گے۔“ وہ لانی لانی انگلیوں سے آڑھی مانگ کے دونوں اطراف کنگھا کرنے لگا اور گردن اچکا کر دیوار میں لگے بڑے سے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے گنگھانے لگا۔

”چوپ..... چوپ.....“ نکی کی خاص کوشش کے بعد بھاری بنائی ہوئی آواز گونجی۔

”چپ چپ بیٹھے رہو..... کانگری اٹھا کر کنارے نہیں رکھ سکتے تم یوسف، کسی کی ٹھوکر لگ گئی..... تو.....؟“

”نکی باجی۔ یوسف بھائی تو خوا مخواہ کانگری گود میں اٹھائے پھرتے ہیں..... اب ایسی سردی تو ہے نہیں۔ ابو نے اس کمرے میں اسی لیے بخاری نہیں لگائی کہ ہم سب چُست رہیں گے اور پڑھنے میں مصروف رہیں گے..... خوب سارے کپڑے پہن کر کہاں لگتی ہے سردی..... کانگری پھرن کے اندر ٹھونس کر جمائیاں لیتے رہتے ہیں..... جب دیکھو..... خاک پڑھیں گے.....؟“

یاور نے کتاب پر جھک کر اٹھا کر نکی کے چہرے پر اپنی طرف سے بڑی اہم بات کہہ کر ردِ عمل جانچنے کی کوشش کی۔ اور ایک نظر آئینے میں یوسف کے عکس کو دیکھ کر نتھننے سکیڑے پھر ابرو اوپر کو کھینچنے اور دانت نکوس کر بغیر آواز ہنسا اور کتاب پر ایسی عجلت سے جھکا جیسے بہت ضروری سبق ادھورا

چھوڑنا پڑا ہو۔

”آپ سے کس نے رائے مانگی تھی.....“ نکلی نے آواز میں بھرا ہوا رعب ذرا کم کر کے

کہا۔

”آپ اپنا کام کیجئے.....“ وہ بولی۔

”ادھر لاؤ کتاب یوسف..... ابھی تو سمجھایا تھا یہ سوال تم کو.....“

نکلی نے لمبا سار جسٹر اور کتاب اپنی طرف سرکائے تو یوسف فرش پر کہنیوں کے بل لیٹ گیا

اور جسٹر پر نظریں گاڑھ دیں۔

”اوپر اٹھو یوسف..... سونے کی تیاری مت کرو نا..... میرا بھی کل پیپر ہے..... پلیز.....“

نکلی فوراً دہلی پتلی سی باریک آواز والی لڑکی بن گئی۔ اور یوسف جیسے کہ ہوش میں آ گیا۔

”اوہ..... Sorry نکلی باجی..... ایک بار اور کوشش کرتا ہوں.....“

یوسف نے جسٹر اور کتاب اپنی طرف سرکائے۔ کچھ لمحے نکلی کی طرف دیکھتا رہا۔ گلابی جلد

والا کتابی چہرہ۔ لمبی سی آنکھوں پر چھوٹا سا بغیر فریم کا چشمہ۔ رخسار پر کان کے پیچھے سے آنے

والے بالوں کی ایک پتلی سی لٹ۔ اور کان میں چھوٹی سی سنہری بالی۔ دوسری بالی اُس زاویے سے

نظر نہیں آتی تھی۔ باقی بال سر کے پیچھے کی طرف موٹے سے سیاہ ہیر بینڈ میں پھنسے تھے۔ دودھ

ایسی سفید گردن پر دو ایک لاجوردی نیس۔ اور گردن کے ساتھ لگا سیاہ رنگ کے سویڈ کے موٹے

سے کپڑے پر بغیر کڈھائی کے کالر والے پھرن کا بند زپ۔ کلائی تک آتی ہوئی آستین میں سے

جھانکتے نازک ہاتھ میں قلم۔ سامنے کئی کتابیں اور کاپیاں بکھری ہوئیں۔

”کیا سوچ رہے ہو اب..... تم۔“ نکلی نے اُسے کچھ پل لگاتار دیکھ کر پوچھا۔

”نہیں..... کچھ نہیں نکلی باجی.....“ وہ جلدی سے بولا اور کتاب پر جھک گیا۔ نکلی نے دیوار

سے ٹیک لگا دی اور تلوے فرش پر رکھ کر موڑے ہوئے گھٹنوں پر کتاب پھیلا دی۔

تینوں سر کتابوں پر جھک گئے۔

نکلی یاور کی بڑی خالہ تبسم بیگم کی اکلوتی اولاد تھی۔ یاور کی ماں تنویر بیگم کی لاڈلی بھانجی، جو کچھ

دن اپنی خالہ کے یہاں رہنے آئی تھی۔ بلکہ اس کی موجودگی میں اُس کا خالہ زاد بھائی یاور بھی

پڑھنے کے معاملے میں ذرا سنجیدہ ہو جایا کرتا تھا۔ وہ جماعت ششم کا طالب علم تھا۔ نکلی گیارہویں

درجے کی طالبہ تھی۔ کچھ مہینوں پہلے تنویر بیگم اپنے جیٹھ کے بیٹے یوسف کو بھی اپنے یہاں لے آئی

تھیں کہ وہ کچھ شرارتی واقع ہوا تھا اور تنویر چچی سے بہ نسبت اپنے والدین کے زیادہ مانوس تھا۔  
 ”نکی باجی آپ خود تو پڑھ نہیں رہیں.....“ یوسف نے سر ذرا اونچا کر کے نکی کی نوٹ بک  
 دیکھنے کی کوشش کی۔

”شاعری کر رہی ہوں گی نکی باجی۔“ یاور نے بغیر سرائٹھائے کہا۔  
 ”تم لوگ میرے استاد ہو یا میں تمہاری۔ چپ چاپ اپنا کام کرو..... ورنہ ایک ایک  
 تھپڑ.....“

”آج تو آپ یوسف بھائی کے ایک تھپڑ جڑ.....“  
 ”چپ بے ایک تھپڑ کے بچے..... نکی باجی صرف دھمکاتی ہیں..... ماریں گی تھوڑے  
 ہی.....“

”اب جس نے بات کی نا..... تو ساری دھمکیاں سچ ہو جائیں گی۔ سمجھے تم لوگ..... اتنا اچھا  
 شعر ہوا ہے..... مگر تم لوگ سوچنے کی مہلت دو تو نا.....“

”تو سنا دیجئے نا نکی باجی..... پلیز..... ورنہ یوسف بھائی بڑے خالو سے کہہ دیں گے.....“  
 یاور اپنا چھوٹا سا گورا ہاتھ ہونٹوں پہ رکھ کر ہنسا۔ نکی نے اس کی طرف نتھنہ پھٹلا کر اور  
 آنکھیں سیڑ کر دیکھا پھر دانت بھنچے۔ شہادت کی انگلی ناک پر رکھی اور آواز بھاری کر کے کھنکھارا  
 کی۔

”خاموش.....“ اُس نے سر جھٹک کر کہا اور تینوں کھکھلا کر ہنس پڑے۔

نکی نے تازہ ترین شعر سنایا اور یاور نے ہاتھ لہرا لہرا کر داد دی:

چھوڑ جانے سے پہلے، تھوڑا

ہے مجھے بھی بتانا کہاں چھوڑنا

”واہ نکی باجی۔ یہ اُسی غزل کا شعر ہے نا..... جو آپ نے کل سنائی تھی.....“

”ہاں اُسی کا..... اور سنائی نہیں پڑھی، کہا جاتا ہے۔“ نکی نے یاور کو سمجھایا۔ یوسف نے نکی

کی آنکھوں میں دیکھا۔

”ہاں.....“

اس سے پہلے، پڑے یہ جہاں چھوڑنا

وقت کی ریت پر کچھ نشاں چھوڑنا“

اور ترنم سے شعر پڑھا۔

”تم سمجھدار ہو..... ورنہ لوگ تو شعر کا تماشا بنا دیتے ہیں۔“

نکی نے ترچھی نظر سے یوسف کو دیکھا اور یاور کا گال تپتپا کر کہا۔

”اللہ..... اتنی سنجیدگی سے داد دی.....“ یوسف نے چہرے پر خفگی کے آثار طاری کرنے کی

کوشش کی۔

یاور اور یوسف دونوں چچازاد بھائی تھے اس لیے صورتوں میں مشابہت ممکن تھی مگر ان دونوں کے چہرے کافی حد تک ایک سے تھے۔ سیاہ گھنگھریا لے بال، سرخ و سفید رنگت، متناسب دانت اور نیلی نیلی پتلیاں۔ دو چیزیں البتہ الگ تھیں کہ یوسف کا قد یاور سے کوئی دو فٹ زیادہ تھا بلکہ وہ تو نکی سے بھی فٹ بھر لمبا تھا اور دوسرے اُس کی مونچھیں اُگ آئی تھیں اور کہیں کہیں داڑھی بھی۔

اُس دن شہر کے سب سے بڑے چوک میں بم پھٹا تھا۔ کچھ فوجی جوان زخمی ہوئے تھے۔ کچھ عمارتیں جلی تھیں۔ ہر روز اسی طرح کا کچھ نہ کچھ ہوا کرتا تھا۔ سکون کی لے پر بہتے وقت میں کچھ ایسا انتشار اٹھا کہ آٹھوں پہر اُتھل پھل ہو گئے۔

یوسف نکی کو گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ اُس کے گھر کو منڈنے والے موڑ پر دھواں اڑتا دکھائی دیا۔ لوگ بے تحاشا ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ چوڑی سڑک کی دوسری جانب بستی تھی اور اس طرف قبرستان۔ دور سے بکتر بند گاڑیوں کی آوازیں آرہی تھیں۔ لوگ تیزی سے سڑک پر سے غائب ہو رہے تھے۔ گولیوں کی آوازیں ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔

بھاگتے ہوئے لوگوں میں سے ایک معلوم نہیں کیسے گر گیا۔ اُس کے پیچھے سے آرہی فوجی گاڑی میں سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ یوسف نے ایک لمحے کے کسی حصے میں دیکھا کہ گرے ہوئے آدمی کے بالکل قریب کونداسا لپکا تھا اور گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ پھر سڑک پر گرا آدمی کوئی فٹ بھرا اچھلا اور دوبارہ سڑک پر آ رہا۔ یوسف سڑک کے کنارے کی طرف بھاگا۔

اُس نے مضبوطی سے نکی کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔

یہ سب نکی نے بھی دیکھا تھا۔

سڑک کا کنارہ ختم ہوتے ہی ڈھلان شروع ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں چند قدم اور نیچے کو بھاگے اور منڈیر کے ساتھ لگ گئے۔ نکی نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہچکیاں اس کے سینے میں گھٹ



ترنم ریاض

رہی تھیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی۔ یوسف نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اُسے اپنے ساتھ زمین پر بٹھا دیا۔

کئی منٹوں تک وہ دونوں ہانپتے رہے۔ پھر ماحول پر سکوت طاری ہو گیا۔  
نکی نے آنکھیں بند کر لیں اور سر پیچھے کوڑکا دیا۔ رفتہ رفتہ ان کی سانسیں معمول پر آ گئیں۔  
یوسف نے دیکھا کہ سامنے وسیع و عریض قبرستان کے احاطے میں کچھ قبریں ہیں اور بے شمار زنگس کے پھول کھلے ہیں۔

”نکی باجی..... آپ کی رنگت بالکل یمبرزل جیسی ہے۔ یمبرزل کے پھولوں جیسی ہے۔ اگر آپ کا نام یمبرزل ہوتا تو بہت اچھا لگتا۔ جسے یہ لفظ سمجھ میں نہ آتا وہ آپ کو زنگس بلا سکتا تھا..... ہے نا.....؟“ یوسف ساکت بیٹھا سامنے دیکھتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ نکی نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور بائیں جانب گردن موڑ کر اُسے حیرت اور اداسی سے دیکھا۔  
”تمہیں موت کے سناٹے میں زندگی کی باتیں کیسے سوجھتی ہیں یوسف؟“ وہ بے بس سی ہو کر بولی۔

”کتنے قریب تو ہیں دونوں..... زندگی اور موت..... دیکھا نہیں آپ نے.....“  
اُس نے آہستہ سے کہا۔ منڈیر کی اُس طرف سڑک پر کوئی آہٹ ہوئی تو یوسف نے سر زرا سا اوپر اچکا کر دیکھا..... سڑک پر گرا آدمی اٹھ گیا تھا اور لنگڑا اتا ہوا دوسری طرف جا رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوسرا کندھا تھام رکھا تھا۔  
”وہ دیکھئے..... وہ دیکھئے نکی باجی..... میں نے سچ کہا تھا نا.....“ یوسف بولا تو نکی نے جھانک کر دیکھا۔

”اللہ..... تیرا شکر..... تو پھر وہ..... یہ..... وہ گولی؟“ وہ اپنے گلے کے قریب ہاتھ رکھ کر بولی۔

”اس کے بازو میں لگی ہوگی..... شانے میں.....“ وہ بولا۔

دونوں منڈیر سے لگے بیٹھے رہے۔

”نکی باجی..... ایسا نہیں لگتا جیسے موت کا سکون سے کوئی گہرا رشتہ ہو۔ جیسے موت ہی سکون کا دوسرا نام ہو..... زندگی، موت اور سکون..... سب کا مفہوم ایک ہو گیا ہو..... اس وقت ایسا نہیں لگ رہا۔“ اُس نے نکی کی طرف گردن موڑ کر کہا۔

”ہاں..... شاید.....“ نکلی نے کچھ توقف سے کہا اور سامنے دیکھتی رہی۔  
 ”نکی باجی.....“ اس نے کہیں دور سے پکارا حالانکہ وہ دونوں ساتھ لگے بیٹھے تھے۔  
 ”ہوں.....“ وہ بغیر لب واکے بولی۔

”اگر اس وقت کوئی ہم پر بندوق تان دے تو.....؟“

”تو.....؟ کیا؟“ اُس نے گردن موڑ کر یوسف کے چہرے کو دیکھا۔

”تو ہمیں جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہئے کیا۔؟“ یوسف نے پرسکون لہجے میں کہا۔  
 کئی لمحے خاموشی میں گزر گئے۔

”..... نہیں.....“ کچھ دیر بعد نکلی نے اُسی لہجے میں جواب دیا اور کچھ اور پل اُس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ پھر ایک لمبی سانس بھر کر سر پیچھے ٹکا دیا۔ دونوں کے ہونٹوں پر ایک ابدی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔

جب آگے پیچھے نتیجہ آیا تو نکلی چوری چھپے شعر کہنے کے باوجود بہت اچھے نمبر لائی۔ یاور کے بھی اچھے نمبر تھے۔ یوسف بس پاس ہو گیا۔

”اچھی طرح تو حل کر لیتے تھے تم سارے سوالات پھر حساب میں کم Marks کیوں آئے..... اسی لیے ڈویژن اچھی نہیں آئی۔ اب تمہیں تمہاری پسند کے مضامین نہیں ملیں گے۔  
 اب پڑھنا..... سمجھے۔“ نکلی نے اُس کا کان دھیرے سے پکڑا اور چھوڑ دیا۔ مطالعے کا کمرہ دوبارہ آباد ہو گیا تھا۔

”Maths کے پرچے کے دوران آپ کی بہت یاد آئی نکلی باجی..... وہ آخری پرچہ تھا..... آپ اُس سے پچھلی شام کو گھر جا چکی تھیں تو میں..... میں.....“ اُس نے سر جھکا لیا۔ اُلٹے ہاتھ پرٹپ سے ایک آنسو گرا۔

تین چار سال سے لگاتار چلتا آ رہا تھا اس سال بھی زوروں پر تھا۔ ہر خطہ زمیں کی طرح اس وادی نے بھی اپنے حصے کے اتار چڑھاؤ جھیلے تھے۔

چاہے ہزاروں برس راج کرنے والے ہندورا جاؤں کے دور میں یا طلوع اسلام کے بعد ایک ہی خاندان کے سلاطین کشمیر کی سینکڑوں برس کی حکومت میں، یا پھر سلطان زین العابدین

ترنم ریاض

کے بعد خانہ جنگیوں سے نجات دلانے والے چک بادشاہوں کے دور میں، ہر بدلتے منظر نامے نے تاریخ کے پنوں پر سرخ حاشیے کھینچے۔ مگر اس بار ایک عجیب سی بے چینی تھی جو کسی طرح قرار نہیں پارہی تھی..... اور زندگی پھر بھی رواں تھی۔

”اس بار سب محنت کریں گے..... خود میرا بارہویں کا Exam ہے..... اور وہ بھی سائنس..... ماماں سنتی ہی نہیں میری بات..... مجھے بھی محنت کرنا ہے بہت.....“

نگی نے ناک سیٹ کر گردن ٹیڑھی کر کے کہا۔

”آپ ڈاکٹر بنیں گی..... نگلی باجی.....؟ یوسف دھیمی آواز میں بولا۔

”اور کیا..... سب ہی پیچھے پڑے ہیں میرے..... میں تو آرٹس پڑھنا چاہتی ہوں..... چاہتی تھی.....“

”اور؟..... میں..... کیا کروں گا نگلی باجی.....؟“ اُس کی آواز میں افسردگی سی تھی۔

اُس نے بال پوائنٹ کا پچھلا حصہ دانتوں میں دبا رکھا تھا اور جھکے ہوئے سر اور اٹھی ہوئی نظروں سے نگلی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔

”تم کچھ اچھے مارکس لاتے تو تمہارا ایڈمیشن کامرس میں تو ہو ہی جاتا..... اب بھی اگر تم محنت کرو اور اگلے سال بارہویں میں اچھے نمبرات لے آؤ تو کالج میں تم کامرس لے سکتے ہو۔ پھر MBA وغیرہ کر کے تمہارا کریئر.....“

”میں ویسے بھی لٹو کا سارا کاروبار سنبھالنے والا ہوں.....“ وہ جیسے بے خیالی میں بولا۔

”مگر Qualified ہو کر سنبھالو گے تو پڑھے لکھے کہلاؤ گے..... سب کی نظروں میں..... تم محنت کرنا.....“

نگلی اُس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر قلم اُس کے منہ سے نکال کر اُس کے ہاتھ میں دے دیا۔

”ورنہ پھر..... جانے نگلی باجی کہاں ہوں..... اور آپ کہاں ہوں۔“

یاورنے پریشان سے لہجے میں دونوں کو باری باری دیکھ کر کہا..... دونوں اسے خاموش دیکھتے رہ گئے۔ وہ دوبارہ اپنی نوٹ بک پر جھک گیا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ یوں ہی گزر گئے۔ پھر نگلی سر جھکا کر اپنی کتاب کو دیکھنے لگی۔

”میں محنت کروں گا.....نگی باجی.....“

یوسف نے خالی خالی سی آواز میں کہا۔

”یوسف بھائی بول تو ایسے رہے ہیں جیسے کہہ رہے ہوں میں محنت کیسے کروں نگی

باجی.....میرے پاس اچھے کاموں کے لیے وقت ہی کہاں ہے۔“

باہر شور مچانی ہوئی ہوا چلنے لگی۔ برآمدے کی طرف کھلنے والے بھورے رنگ کے دروازے

پر ٹیپسٹری کا سفید اور بھوری بیلوں والا پردہ پھول کر گپا ہو گیا۔

”کیوں نہیں کریں گے.....محنت.....“ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔

”اور کیا۔ جانے ہر وقت کیا سوچتے رہتے ہیں.....جانتی ہیں نگی باجی.....پچھلے سال Exam

کے دنوں میں بغیر پڑھے پاس ہوئے ہیں یہ.....آپ تو سونے چلی جاتی تھیں.....یہ میرے

ساتھ یہیں پڑھتے تھے نا۔ پڑھتے کیا تھے بس.....یوں ہی.....ایک دن آدھی رات تک آپ کا

Side Pose بنانے کی ناکام کوشش کرتے رہے.....نہیں بنا پائے تو کاغذ پھاڑ کر تھوڑا سا

روئے۔ اُس کے بعد کتاب ہاتھ میں لی۔ اُسے غور سے دیکھنا شروع ہی کیا تھا کہ.....سو گئے.....

باہا.....ہی ہی ہی.....“

اس دوران نگی چپ چاپ نوٹ بک کی ورق پلٹتی رہی۔ اُس نے دفعتاً بالکنی کی طرف

دیکھا۔

”آج برف گرے گی.....یا اور.....یہ دونوں تکیے دروازے کے ساتھ لگا دو.....اُف کتنی

زوروں کی ہوا چل رہی ہے۔“

”پردہ پھولتا ہے تو الہ دین کا جن لگتا ہے۔ ہے نا.....یوسف بھائی۔“

اُس رات جھیل ڈل میں واقع دو جزیروں میں سے ایک جزیرے کے بیچ ایستادہ چار

چناروں کے درمیان دیودار کی لکڑی کے خوبصورت ریسٹوراں میں کسی نے آگ لگا دی تھی۔

سڑک کے اُس پار سرکاری ٹڈل سکول کی عمارت بھی جل رہی تھی۔

”کرفیو لگا رہا تو کہیں ہمارے Exams اب Postpone ہی نہ ہو جائیں۔“ یوسف

نے کتاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔

”یوسف بھائی، آپ کی آواز سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ کو تشویش ہو رہی ہے یا

آپ اُمید کر رہے ہیں.....“ یاور نے بغیر سراو پر کیے کہا۔ یوسف ہلکے سے مسکرا دیا تھا اور نکی کچھ اونچی آواز میں ہنسی تو اس کی یوسف کے زائے سے نظر آنے والے کان کی بالی جھل مل کرتی ہلنے لگی۔ پھر اُس نے سر جھکا لیا۔

”ایسے تو وقت ضائع ہوگا.....“ نکی نے کہا اور کچھ فکر مند سی نظر آنے لگی۔  
 ”کچھ دن اور پڑھ لیس گے نا.....“ یوسف نے آہستہ سے کہا۔

باہر ایک زور کا دھماکہ ہوا اور اوپر ٹین کی چھت کے نیچے، پتے ہوئے فرش پر مشرق کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے دو شیشے چھناک سے ٹوٹ کر گرے۔ نیچے کمرے میں تینوں طالب علموں نے بیک وقت اوپر سیلنگ کی طرف دیکھا۔ لکڑی کے یکساں جسامت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے جوڑ کر بنائے گئے بے شمار دائروں والی ہشت پہلو ختم بند سیلنگ پر بھورے رنگ کا وارنش ہلکا سا چمک رہا تھا۔

”چھت پر شیشہ ٹوٹا ہے کوئی.....“ یاور سیلنگ کی طرف دیکھتا رہا۔

”کسی نے کھڑکی کھلی رکھ چھوڑی ہوگی.....“ اس نے یوسف کی طرف دیکھا۔

”بتادوں کیا..... یوسف بھائی..... نکی باجی کو.....“ یاور نے کہا تو یوسف کے چہرے کا رنگ

پل بھر کو بدلا۔ اور پھر اُس نے واپس اپنے چہرے پر نارمل سے تاثرات لاتے ہوئے کھڑکی کے شیشے سے باہر نظر جمادیں۔ جہاں سفیدے کے درختوں کی چوٹیاں نظر آرہی تھیں، جنہوں نے ہریالی جھٹک کر برف اوڑھ لی تھی۔

”درخت ایسے نہیں نظر آ رہے جیسے مردے کفن اوڑھ کر کھڑے ہو گئے ہوں۔“ یوسف نے

تہقہہ لگایا۔

”بات کیوں ٹال رہے ہیں یوسف بھائی..... چھت کی پچھلی کھڑکی کے پاس ابھی بھی کرسی

پڑی ہے..... جس پر بیٹھ کر جناب چاند کو دیکھ دیکھ کر..... سگریٹ.....“ یاور نے نکی کی طرف دیکھا۔

”سگریٹ.....“ نکی کانپ سی گئی۔ یوسف نے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا اور ہاتھ میں پین

لیے کتاب کے چھپے ہوئے حصے کے اطراف سکیج بنا تا رہا۔ کناروں کے قریب ابھی کافی جگہ بچی ہوئی تھی جہاں وہ مزید کچھ چیزیں بنا سکتا تھا۔

”پرا بلم کیا ہے تمہاری..... یوسف.....؟“ نکلی نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ اُس کے لہجے میں غصے سے زیادہ حیرت اور بیچارگی عیاں تھی۔

”اگر آپ مجھ سے چھوٹی ہوئیں نکلی باجی تو کیا ڈانٹتیں مجھ کو.....؟ یہ بھی تو ایک پرا بلم ہے۔ میں اگر آپ سے بڑا ہوتا تو میرا Future پہلے طے ہو جاتا..... اور..... اور.....“ یوسف کی بات ادھوری رہ گئی کہ نئے آئے ملازم نے ہتھیلی سے زور زور سے کواڑ کھٹکھٹایا۔

”بی بی جی کھانے کے لیے بلاتا.....“ وہ بڑی بشاشت سے ٹوٹی پھوٹی اردو بولا۔

”تو کیا ہوتا مستقبل کا پتہ چل جانے سے.....“ نکلی نے گردن خم کی۔

”اصل میں نکلی باجی، ان کو لگ رہا ہے کہ آپ آگے آگے بھاگ رہی ہیں اور یہ پیچھے

بھاگتے ہوئے گر کر اٹھ رہے ہیں..... آپ Distinction لا رہی ہیں اور یہ بمشکل پاس ہو پاتے ہیں..... خدا نخواستہ کہیں فیل ہو گئے..... تو..... پھر.....“

”تو پھر..... اور چھوٹا ہو جاؤں گا آپ سے..... میں..... میں..... میرا دل..... ہی نہیں

لگتا..... پڑھنے میں.....“

”اب زیادہ فلسفہ مت جھاڑو..... پچھلے سال 10th تک تو اوّل آتے تھے..... اصل میں

مجھے ہی پڑھانا نہیں آتا..... میں اب تم لوگوں کو..... آج کے بعد.....“ یاور نے جھٹ سے کتاب بند کی۔

”نہیں نہیں نکلی باجی..... یوسف بھائی کی غلطی کی سزا مجھے کیوں..... میں تو نہایت شریف

آدمی ہوں..... محنتی بچہ ہوں..... اچھا بچہ.....“

”بالکل، بالکل اُس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔“ یوسف نے ہاتھ بڑھا کر اس کا پہلو

گدگدایا تو انگریزی کے لیے اٹھی ہوئی باہیں گرا کر وہ زور سے ہنسا۔

امتحان ختم ہوئے تو نکلی نے بے شمار صفحے سیاہ کر دیئے۔

کالی کالی یہ تقدیر نیلی نیلی وہ آنکھیں

یا

خواب میرے ہیں کتنے ہر جانی

تیری آنکھوں میں جا کے رہنے لگے

وغیرہ قسم کے..... اور نہ جانے اور کیا کیا۔

اُس دن سورج کی کرنیں چمکیلے آسمان سے ہوتی ہوئی باغیچے میں گر رہی تھیں۔ ٹین کی، ڈھلوان ساخت کی چھت سے برف پگھل پگھل کر بوندیں بن چکی رہی۔ ہوا کچھ تیز چلنے لگتی تو یہ بوندیں زمین پر گرنے سے پہلے جم جم جاتیں اور فقط کوئی مہین سا قطرہ گرتا، باقی پانی کی مخروطی نلیوں کی صورت رہ جاتیں۔

اونچی دیوار کے باہر سرکاری مکانوں کی قطاروں کے درمیان بنے چھوٹے سے راستے پر بچے سائیکل چلا رہے تھے۔ آج کر فیو نہیں تھا۔ نکلی دھوپ میں بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی۔ اُس کی ماں تبسم بیگم بھی آئی ہوئی تھیں اور تنویر خالہ کے ساتھ بیٹھی ساگ چن رہی تھیں۔ گیٹ پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔

”ڈرائیور آ گیا..... بازار ہو آئیں ذرا..... ابھی تین گھنٹے کر فیو نہیں لگے گا۔“

تنویر بیگم گیٹ کی طرف پلٹ کر بولیں۔ جہاں ڈرائیور نہیں یوسف ہاتھ میں چابی لیے اندر داخل ہوا۔

”ارے..... میرے بچے..... اٹھارہ کا تو ہو جا پہلے.....“ تنویر بیگم کے چہرے پر پریشانی تھی۔

”اتنی اچھی تو چلاتا ہوں پچی..... پھر میں نے تو کالونی کے اندر ہی ڈرائیو کیا نا.....“ وہ مودبانہ بولا۔

”اللہ اپنی حفاظت میں رکھے..... تمہیں.....“ وہ دوبارہ ساگ چننے لگیں۔

”پھر میں اٹھارہ سے کم لگتا ہوں کیا.....“ اُس نے نکلی کے قریب جا کر اخبار اٹھاتے ہوئے تنویر بیگم کے پاس بیٹھ کر کہا۔

”نہیں..... ماشاء اللہ وہ بات نہیں بیٹا..... مگر پھر بھی تمہیں.....“ تنویر بیگم نے اُس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔

”جو بات غلط ہے..... وہ غلط ہے۔ ٹھیک کہتی ہیں تنویر.....“ نکلی کی ماں نے ساگ کے بڑے سے ہرے ہرے پتے پر سے ہرے رنگ کا چھوٹا سا رنگنے والا کیڑا اٹھا کر باغیچے کی سوکھی گھاس والی

بھگی زمین پر پھینکا۔ دیوار پر سے ایک مینا نیچے اڑ آئی اور کیڑے کو چنگ کر پھراو پر کی طرف اڑ گئی۔

”اُوئی..... ماں.....“ نکلی نے جھر جھری سی لے کر ماں کا چہرہ دیکھا۔

”مطلب.....؟“ تبسم بیگم کی تیوری چڑھ گئی۔

”ڈرتی ہو.....؟..... کیڑوں سے.....؟“ تبسم بیگم نے حیرت، حقارت اور تشویش کو نہایت کمال سے اپنے لہجے میں شامل کر لیا تھا۔ ان کے نتھنے پھول گئے تھے۔

”تم Frog کو Disect کرتی ہو Lab میں.....؟“ انہوں نے آنکھیں پھیلا کر منہ ادھ کھلا چھوڑ دیا۔

”کل کو Human Body کو کیسے Disect کرو گی تم..... بولو.....؟“

انہوں نے سر پکڑ لیا۔

”میری اُمیدوں پر پانی پھیر دو گی..... میرا ادھورا خواب پورا نہیں کرے گی یہ لڑکی..... یہ ڈر پوک لڑکی..... مجھے پہلے ہی خدشہ تھا اس کی طرف سے.....“ انہوں نے تنور بیگم کی طرف دیکھ کر آواز میں دُکھ بھر کر کہا اور جلدی جلدی پلکیں جھپکنا شروع کیں، گویا آنسو پی رہی ہوں۔ پھر سر کو مزید جھکا کر ساگ سینے لگیں۔ سب انہیں خاموش دیکھتے رہے۔

”نہیں..... ماما..... جو آپ کہیں گی..... میں وہی کروں گی۔“ نکی روہانسی ہو کر بولی۔ یوسف نے اخبار کا صفحہ پلٹا۔

اگلے برس جس دن برفانی طوفان نے بہت سے درختوں اور کئی مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اُس دن تک اور بہت سی تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔

امتحانوں کے نتائج آچکے تھے۔ یاوراچھے نمبروں سے پاس ہو کر نئی جماعت میں آدھا برس گزار چکا تھا۔ یوسف فیل ہو گیا تھا اور اُس کے گھر والے اُس سے نالاں تھے۔ نکی ماما کی نگرانی میں Enterence کی تیاریوں میں مصروف تھی۔

پڑھنے کے کمرے میں یوسف اور یاورا رہ گئے تھے۔

”نکی باجی کو یہاں بیٹھ کر کتنا اچھا لگتا ہوگا۔“ یاورا نکی کی جگہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔

”تم اپنی جگہ بیٹھو نا..... بڑوں کی جگہ نہیں بیٹھتے..... اگر اس وقت نکی باجی آگئیں تو کیا سوچیں گی کہ میری جگہ بیٹھ گیا ہے یاورا..... شاید نہیں چاہتا کہ میں کبھی آ کر پھر اس جگہ بیٹھوں۔“ یوسف نے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا تو یاورا اُچھل کر اپنی نشست پر پہنچ گیا جیسے



اُس کی نکلی باجی آہی گئی ہوں۔

”ارے باپ رے..... Sorry یوسف بھائی.....“

یوسف لمبے سے رجسٹر پر جھک گیا۔

نکی کے بائیں کان کی بالی جھل مل کرنے لگی۔

بالوں کی لٹ نے آدھا رخسار چھپا لیا۔

نکی دانتوں میں قلم دبائے، پھولوں والے ہیئر بینڈ میں بال سمیٹ رہی ہے۔

رجسٹر کے تین صفحات پر حساب کا ایک ہی سوال حل کیا گیا ہے۔ ایک سیاہ روشنائی سے.....

نکی کے ہاتھوں۔ دوسرے دو صفحات پر یہ ہی سوال یوسف نے حل کرنے کی کوشش کی ہے جس پر نکی

نے سرخ قلم سے تصحیح کی ہے۔ صفحے کے کنارے پہ دو آنکھیں بنی ہیں۔ ابھی ابھی یوسف نے پنسل

سے بنائی ہیں۔ کالی کالی پتلیوں والی دو آنکھیں۔

نیلی آنکھوں میں پانی تیر رہا ہے..... اگر پلک جھپک دی گئی تو..... آنسو چہرے پر اُگی

چھوٹی چھوٹی داڑھی میں سے ہوتا ہوا گردن پر بہہ نکلے گا..... اور کہیں یاوردیکھ لے تو..... اُس

کادل اُداس ہو جائے گا۔

لیکن یاورد نے یوسف بھائی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے۔

مختصر سی غلام گردش میں یاورد کی باتوں کی آواز گونجی تو زینے پر نکی کے تیز تیز اٹھتے ہوئے

قدموں کی آواز اور کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ وہ باوردچی خانے سے نکل کر آتی ہوئی ماں

سے ٹکراتے ٹکراتے پچی۔

”Sorry Maama“

”ابھی چوٹ لگ جاتی تو؟ کل آخری پرچے کے دن تم.....“

”تو Rest کر لیتی ماما..... میری ساری Preparaton تو ہو چکی ہے آج تو میں کئی

گھنٹے کی نیند بھی Afford کر سکتی ہوں..... یہ جناب کدھر سے راستہ بھول گئے.....“ وہ مسکراتی

ہوئی بولتی چلی گئی۔

”اللہ نے میری سن لی..... خالہ.....“ یاورد نے تبسم بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ نکی کی طرف دیکھ رہی

تھیں۔ ابروؤں کے درمیان ایک لکیر کھینچی تھی۔ تبسم بیگم اس کی طرف پلٹیں تو وہ نکی باجی کو دیکھنے لگا۔

”اسلام و علیکم نکی باجی..... آنکھوں کے گرد کے گڈھے بتا رہے ہیں کہ خوب پڑھائیاں ہو رہی ہیں..... بلکہ ہو چکی ہیں..... کچھ اپنا یہ چھوٹا سا بھائی بھی یاد ہے..... کل میرا Maths کا Exam ہے.....“ وہ فکر مند نظر آنے لگا۔

”صرف ایک گھنٹہ چاہئے آپ کا نکی باجی..... آپ اپنی books لے چلئے..... وہیں Revise کر لیجئے گا.....“ وہ تبسم بیگم کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔

”خالہ آج نکی باجی کو بھیج دیں میرے ساتھ..... قسم سے بالکل کچھ نہیں آتا مجھے..... فیل ہو جاؤں گا خالہ..... رہی سہی عزت خاک میں مل جائے گی۔“

”چپ..... بد معاش کہیں کا..... تو تو ماشاء اللہ خود قابل لڑکا ہے۔ اس کا تو بیٹا Last.....“

”خالہ آپ یقین کریں یہ آٹھویں درجے کا Maths اس قدر مشکل ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر نکی باجی بے چاری جیسے قید بامشقت کاٹ رہی ہیں۔ ان کی بھی کچھ Outing ہو جائے گی..... امی نے تاکید کی تھی خالہ..... کہ نکی باجی کو کچھ روز کے لیے ساتھ لے آؤں..... امی نے انھیں خواب میں دیکھا تھا..... یاد کر کے تڑپ رہیں تھیں..... آپ کو میرے سر کی قسم خالہ.....“

یاد رہے تبسم بیگم کا ہاتھ جھٹ اپنے سر پر رکھ لیا۔

تنویر بیگم نے نکی کو گلے سے لگایا تو وہ ان کی باہوں میں جیسے غائب سی ہو گئی۔

”میری بچی..... میری جان..... یہ کیا مصیبت ہے یہ Enterence۔ اُف منھی سی جان.....“

نکی اُن کے سینے سے لگی رہی۔ تنویر خالہ کے پیچھے کوئی چھ قدم کے فاصلے پر ادھ کھلے دروازے کی دہلیز میں کھڑے یوسف کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ خالہ کے کندھے کے اوپر سے ہو کر نکی کی نگاہیں جب اس سے ملیں تو وہ کمرے کے اندر چلا گیا۔ پھر دبیز سرخ قالین پر دو قلابازیاں کھائیں اور نکی کی نشست کے تکیے کا غلاف درست کرنے لگا۔

اُس رات ساتویں کے چاند کی پھیکی چاندنی میں ٹین کی چھت والا مکان ہلکی ہلکی چمک بکھیرتا پُرسکون سوراہا تھا۔

صرف پڑھنے کا کمرہ روشن تھا۔

یاور پڑھتے پڑھتے حساب کی کاپی پر خسار رکھ کر سو گیا۔

”صرف دس منٹ تک آرام کر سکتے ہو..... تم؟ نکلی نے اُس کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ اُس

نے دھیرے سے آنکھیں نیم واکیں اور پھر موند لیں۔

”پھر دو آخری سوال..... اور چھٹی..... تمہاری تیاری مکمل ہے.....“ وہ بولی۔ یاور نیند کے

جھونکوں کے درمیان ایک پل کو ہلکے سے مسکرایا اور دوسرے پل کمرے میں اُس کے چھوٹے

چھوٹے خراٹے گونجنے لگے۔

وہ دونوں اسے چپ چاپ دیکھتے رہے ان کے چہروں پر بھی ایک پرسکون سی مسکراہٹ

پھیلی ہوئی تھی۔

”اب..... کیا کرو گے..... یوسف.....“ نکلی کا چہرہ اُداس ہو گیا۔

”اب کیا ہوگا..... نکلی باجی..... اب کیا ہو سکتا ہے..... آپ..... آپ.....“ دور کہیں مشین

گن نے لگا تار کئی گولیاں برسائیں۔

باغیچے میں ایستادہ سفیدے کے درختوں میں کڑے یہاں وہاں اڑ کر کائیں کائیں کرنے

لگے۔ کچھ دیر بعد ماحول پر دوبارہ سکوت چھا گیا۔

”میں اور پیچھے رہ گیا نکلی باجی..... ہم ساتھ نہیں چل سکیں گے نا..... اب..... اور کوئی راستہ

نہیں نا..... اب اور کچھ نہیں ہو سکتا نا..... ہے نا..... نکلی باجی.....“

یوسف کی آواز کا کرب واضح ہو گیا تھا۔ نکلی نے سر بہت زیادہ جھکا لیا تھا۔ وہ سوئے ہوئے

یاور کے بالوں میں انگلیاں پروتی رہی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ بہہ کر اُس کے حلق کے

قریب دوپٹے میں جذب ہوتے گئے۔

”آپ کچھ نہ بولیں گی نکلی باجی..... میں جانتا ہوں.....“ اُس کی تھکی ہوئی آواز میں شکوہ ہی

شکوہ تھا۔

”مگر میں بھی..... نہیں رہوں گا..... نکلی باجی.....“ اُس کی آواز کا ایک تیز ہو گئی۔

”..... چلا جاؤں گا..... میں.....“ آواز پھر مدہم ہو گئی تھی۔ نکلی نے سر اٹھا کر اس کے چہرے

کی طرف دیکھا۔ پریشان پریشان سے چہرے پر ویران ویران سی آنکھیں۔ چھوٹی چھوٹی

مونچھیں۔ داڑھی کچھ گھنی ہو گئی تھی۔ اتنی کہ سرخ و سفید چہرے پر ایک سیاہ حاشیہ بنا کر اسے مزید خوش

شکل بنا رہی تھی۔

آنسو بہہ نکلے تھے۔

”چلا جاؤں گا..... دور..... آپ سے..... اتنا دور کہ..... کہ.....“ اُس نے دبی دبی سی ہنسی لی۔ نکی نے بے اختیار اپنے گلے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے اُس کا دم گھٹنے لگا ہو۔  
 ”نہیں۔“ وہ آواز کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔  
 ”نکی باجی میں۔۔۔ ملٹنٹ بن جاؤں گا..... دنیا چھوڑ دوں گا۔“  
 ”نہیں..... پاگل ہو گئے ہو کیا..... یہ سب کیا کہہ رہے ہو۔“ نکی تڑپ کر بولی اور اُس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔

”تم تنویر خالہ سے..... اگر بات کرو..... تو..... وہ ہم دونوں کو کتنا عزیز رکھتی ہیں۔“ نکی نے دوپٹے سے آنکھیں خشک کیں۔ اور ٹھہر ٹھہر کر کہا۔  
 ”اماں کو سمجھا سکتی ہیں..... ہیں نا؟“  
 ”..... ہاں..... شاید..... شاید.....“، بجھی بجھی آنکھوں میں امید کی قندیل سی روشن ہوئی۔

جس دن نکی کی ماں نکی کی کامیابی کی خوشیاں منا رہی تھی۔ اُس دن نکی پتھر کی طرح خاموش ہو گئی تھی۔

اسی دن یوسف نے تنویر خالہ سے بات کی تھی۔ اور تنویر خالہ کچھ لمحوں تک کچھ بھی نہ بولی تھیں۔ یوسف کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی تھیں کہ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہا۔ مگر اُس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی کہ تنویر بیگم خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگیں۔ لیکن پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر مسکرائیں۔

”وہ تو تمہاری بڑی بہن ہے بیٹا..... مذاق کرتے ہو اپنی چچی سے۔؟ وہ بھی ایک بے جوڑ سی بات کے لیے۔ اُس کی ماں۔ میری زبان سے کہیں ایسا نہ لے۔ تو مجھے زندگی بھر معاف نہ کرے۔ جانتے ہو تم ان کا مزاج.....“ انھوں نے چولہے پر چڑھی نمک والی چائے سے بھرے تانبے کے گول پیندے والے پتیلے میں ذرا سا جھانکا۔ اور چائے کا رنگ جانچنے کے لیے تانبے کے لمبے دستے والا کفگیر، پتیلے میں گھمانے کے بعد اس میں چائے بھر بھر کر واپس ڈالتی رہیں۔ جالی والے دستے کے اندر پڑی کنکریاں، اوپر نیچے ہونے سے چھن چھن بجنے لگیں۔ کفگیر پتیلی کے

ترنم ریاض

کناروں پر ٹکا کر تبسم بیگم ریفریجر بجریٹر کی طرف دودھ لینے کو بڑھیں۔ اس دوران انہوں نے یوسف کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔

”جانتی ہوں میرا بیٹا مجھے ایسے امتحان میں کبھی نہیں ڈالے گا۔“ انہوں نے دودھ کے ساتھ چائے کی پیالیوں میں ڈالنے کے لیے بالائی کی کٹوری نکالی اور یوسف کی طرف نگاہ ڈالی۔ وہ دیوار سے لگا انھیں ہی دیکھ رہا تھا۔

”بیٹھو میں چائے لارہی ہوں.....“ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ اور ملازم کو دسترخوان بچھانے کے لیے آواز لگائی جو گھر کے پچھواڑے باڑی میں پتہ گو بھی کے لمبے پتے توڑ توڑ کر رات کے کھانے میں بننے والے کسی سالن کے لیے بید کی ٹوکری میں جمع کر رہا تھا۔  
تنویر بیگم جب ملازم کو آواز لگا کر کھڑکی سے پلٹیں تو دیکھا کہ یوسف جا چکا ہے۔

کہتے ہیں وہ رات قیامت کی رات تھی۔ اندرون شہر، ہر گھر میں چھاپے پڑے تھے۔  
خطا اور ادھما کے کر کے غائب ہو گئے تھے اور بے گناہوں کو غالباً غلط مخبری کی وجہ سے دھڑا دھڑ پکڑ کر کسی نامعلوم منزل کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔  
ہوسٹل سے چھٹیوں میں گھر لوٹے دو بھائیوں کو ان کے والدین کے سامنے دہشت گردی کے الزام میں گولیاں مار دی گئی تھیں۔ غصے یا غلط فہمی یا کسی اور انجانی وجہ سے۔  
رہ رہ کر انسانی چیخیں کانوں میں پڑتیں تھیں۔ اُس رات شہر میں شاید ہی کوئی سویا تھا کہ موت کے آنے کے ڈر کے ساتھ ساتھ عزت کے جانے کا خوف بھی تھا۔  
تنویر بیگم کے وہاں سے نکل کر یوسف اسی سڑک پر چل رہا تھا جہاں چوراہے کا ایک راستہ جھیل کی طرف جاتا تھا۔ ایک پہاڑی کی طرف۔ ایک شہر کے اندر والے علاقے کی طرف اور ایک نگی کے گھر کی طرف۔

اس سڑک سے گذرتے ہوئے اُس کی رفتار غیر ارادی طور پر دھیمی ہو گئی۔  
بے اختیار نگاہیں داہنی جانب ڈھلان کی طرف اٹھ گئیں۔ بغیر گونجے ایک آواز سماعت تک آ گئی۔

تمہیں موت کے سناٹے میں زندگی کی باتیں کیسے سوچتی ہیں یوسف۔

آج سے زندگی کی بات نہیں کروں گا نگی باجی.....

کاش اُس دن کوئی بندوق تان دیتا..... ہم پر..... کتنی پرسکون..... کتنی حیات بخش موت ہوتی..... میں یوں..... زندگی سے بھاگ..... نہ رہا ہوتا..... مگر اب مجھے بھاگنا چاہیے یہاں سے..... مجھے..... بھاگنا..... چاہیے..... نکلی باجی..... میں دور جا رہا ہوں آپ سے..... بہت دور نکلی باجی..... بہت دور.....

اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے..... ڈھلان کے اس طرف کنارے پر اُگی گھا س سوکھ کر بے رنگ ہو گئی تھی۔

وہ بھاری بھاری قدم اٹھاتا ہوا طویل سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ راستے میں کہیں کہیں دوکانیں تھیں جو بند ہو رہی تھی۔

ابھی تو اندھیرا بھی نہیں ہوا..... تو پھر..... دکانیں کیوں بند.....

ہوا کریں۔ اُسے کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ اس نے کچھ اور قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ سائرن کی تیز آواز کانوں سے نکل آئی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا بس یوں ہی بے خیالی میں شاید۔ سڑک ویران تھی اور تمام دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ سائرن کے بعد لاؤڈ سپیکر پر کوئی اعلان ہوا۔ آواز دور سے آرہی تھی۔ وہ چلتا رہا۔ یہاں تک کہ سڑک ایک موڑ پر مڑ گئی۔ کچھ فاصلے سے بکتر بند گاڑیاں آتی دکھائی دیں۔ وہ ویسے ہی چلا جا رہا تھا۔

میں..... جا رہا..... ہوں..... نکلی باجی..... میں۔

دفعتا موڑ پر بائیں جانب کو بستی کے اندر جاتی ہوئی کچی سڑک پر کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر گلی میں کھینچ لیا۔

”کہاں جا رہے ہو..... کر فیو میں..... پاگل ہو کیا.....؟“ ایک داڑھی والا نوجوان تھا۔ اُس کے ساتھ تقریباً یوسف کی عمر کا ایک لڑکا تھا جس نے دونوں ہاتھوں میں گیندیں سی تھام رکھی تھیں۔ داڑھی والے نوجوان کے پاس ایک تھیلا تھا۔ جس میں کچھ سامان تھا۔ اُس نے وہ تھیلا اُسی زینے پر رکھا تھا جہاں اُس نے یوسف کو کھینچ کر بٹھا دیا تھا۔ زینہ کسی مکان کے پچھواڑے سے ملحقہ تھا جو ایک تنگ گلی میں کھلتا تھا۔ اس سے پہلے کہ یوسف کچھ کہنے کے لیے زبان کھولتا، اس نے دیکھا کہ موڑ کے قریب پہنچنے سے بہت پہلے، اس کا ہم عمر لڑکا گاڑیوں کی طرف دوڑا اور دو گاڑیوں کو اپنی گیندوں کا نشانہ بنا کر ایک اور گلی کی طرف بھاگا..... داڑھی والے نوجوان نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے۔ فلک شگاف دھماکہ ہوا۔

”إنا لله وإنا إليه راجعون۔“ نوجوان زیر لب بولا۔

”کک..... کک..... کیا ہوا؟“ یوسف بری طرح گھبرا گیا تھا۔

”شاہباز شہید ہو گیا..... وطن پر..... قربان ہوا..... دین پر قربان ہوا.....“

نوجوان نے بارعب سی آواز میں کہا۔ اور آسمان کی طرف اُڑ رہے سیاہ دبیز دھوئیں کو دیکھنے لگا۔

”آقا۔“ شاہباز اسی لمحہ گلی میں نمودار ہوا تھا۔

”تم..... تم..... شہید نہیں ہوئے.....؟“ وہ تعجب اور تاسف سے بولا۔

”نہیں..... آقا.....“ شاہباز نے سر جھکا دیا۔

”کیوں بد نصیب.....“ اس نے داہنا ہاتھ ہوا میں اوپر سے نیچے کولہرایا۔

”باقی کی Convoy بہت دور تھی..... میں کس پر کودتا.....“ وہ آہستہ سے بولا۔

”آہ بد بخت..... کیا اسی دن کے لیے ہم نے تمہیں شاہباز کا خطاب دیا تھا۔ جب تک

گاڑیاں سامنے آئیں خود دوڑ کر قریب چلے جاتے..... اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ فدا ہونے کے

لیے دستی بم ایسے با اثر نہ ہوں گے۔ دوسرے ہوتے تو ہم خود ریموٹ سے کنٹرول کرتے..... اور

اب تک تم جنت میں ہوتے اور ان کا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ تمہارے بعد جب تمہارے والدین

انتقال کرتے تو وہ بھی جنت میں جاتے۔ کم سے کم اتنا تو سوچتے۔ وہیں ڈٹ جاتے گاڑیاں تو آ ہی

جاتیں۔ دیکھو اس کے بعد کانوائی نے رخ موڑ دیا۔“ نوجوان نے ٹھنڈی آہ بھری۔

”اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو کیا اس کے والدین جنت میں جاتے ہیں؟“ یوسف نے نوجوان

کو خاموش ہوتے دیکھ کر فوراً سوال کیا۔

”ہاں..... بالکل..... ایسا ہی ہوتا ہے.....“ نوجوان نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔

”مگر میں نے تو ایسا کہیں نہیں پڑھا۔ حافظ کی ماں جنت میں جاتی ہے۔ وہ بھی اگر اُس نے

خود اپنی اولاد کو حفظ کلام اللہ کرایا ہو..... ورنہ میں نے کسی حدیث میں یہ نہیں پڑھا کہ.....“ یوسف

نے تجسس سے کہا۔

”نادان ہو تم..... جہاد کے راستے میں.....“ وہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر خاصی گھمبیر

آواز میں کچھ کہتے کہتے رُکا۔

”یہاں کریک ڈاؤن ہوگا۔ بھاگو۔ جلدی.....“ اُس کی آواز دفعتاً خوف سے بھر گئی۔

شاہباز پھرن کے اندر پہنی ہوئی واسکٹ کی جیبوں میں بھرے بم نکال نکال کر زینے پر رکھے تھیلے

میں ڈال رہا تھا۔

”رہنے دو..... بعد میں نکال لینا..... پکڑے جائیں گے ورنہ.....“ نوجوان جلدی سے اٹھتے ہوئے بولا۔

”راستے میں..... کہیں پھٹ گیا آقا..... تو؟“

”تم اتنے خوش نصیب کہاں ہو.....“ نوجوان نے اُسے نظر بھر کر دیکھا۔

”آقا میرا..... میرا مطلب تھا اگر غلط جگہ کہیں پھٹ گیا..... تو..... تو..... خدا نخواستہ آپ کو..... کہیں آپ۔“ وہ ہکلا یا۔

”اگر آپ اجازت دیں تو..... تھیلا میں سنبھال لوں۔“ یوسف نے مضبوط لہجے میں کہا۔  
نوجوان مسکرا دیا۔

”مبارک۔ صد مبارک۔“ اُس نے یوسف کو بغور دیکھا اور گلی کے اندر مڑ گیا۔  
کہتے ہیں وہ رات قیامت کی رات تھی۔

وادی کے حالات ابتر ہوتے گئے۔ کس نے اس سکون پر شب خوں مارا۔ کوئی اپنے گھر میں تو ایسا نہیں کرتا۔ کوئی باہر کا ہوگا۔ مگر باہر کے بھی سب لوگ تو ایسی سوچ نہیں رکھ سکتے۔ کچھ منہنی سوچ والے افراد نادانی، غرور اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہوں گے کہ صدیوں سے ایسا ہوتا آیا ہے اور کبھی بھی، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔

اس خطے کے ساتھ سولہویں صدی سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ چندر گپت مور یہ اور پھر اشوک کے مہان ہندوستان کو افغانستان اور نیپال کی آخری سرحدوں تک وسیع کرنے والی عظیم الشان سلطنت مغلیہ کے شہنشاہوں نے بھی ایسا ہی کیا، جب شاعرہ معروف و مقبول اور ہردل عزیز ملکہ کشمیر زون، یعنی چودھویں کا چاند ملقب حبہ خاتون کے شاعر بادشاہ یوسف شاہ چک کو اکبر اعظم نے دھوکے سے قید کر لیا تھا۔ شاہ غریب الوطنی میں اپنی ملکہ سے دور انتقال کر گیا۔ وطن کی مٹی بھی اسے نصیب نہ ہوئی..... اور ملکہ روتے روتے دیوانی ہو گئی۔ ہجر کے نغموں سے بیاضیں سیاہ کر دیں۔ اور آخر کار اپنے یوسف کو پکارتے پکارتے حبہ خاتون نے بھی اس دنیا کو خیر باد کہہ دیا۔ وادی میں اُس کے نغمے گونجتے رہے۔

وادی میں اُس کے نغمے گونجتے رہے۔  
لیونے صترہ جانا لو



اور گونجتے رہیں گے۔

پھر افغانستان سے افغان آئے۔

شامتِ اعمال سے افغان حاکم ہو گئے

آئے وہ اور طالع بیدار اپنے سو گئے

کسی شاعر نے احتجاجاً شعر کہا تھا۔ پھر پنجاب سے سکھ، کیا کیا ٹیکس لگائے گئے تھے۔ اُن کے دور میں۔ اور پھر سات سمندر پار سے انگریزوں نے آ کر وادی جموں کے ڈوگروں کو فروخت کر دی۔ ایک 'native' کو دوسرے 'native' کا آقا بنا دیا۔ وہ بھی ایک تکلیف دہ دور تھا۔ کشمیریوں کو تو مطلق العنان مہاراجہ سے آزادی چاہئے تھی..... سب نے جی بھر کے ظلم ڈھائے.....

نکی نے کتابوں میں یہ سب پڑھا تھا۔

کشمیری..... محکوم ہی رہے..... صدیوں.....

اب کہیں آدھی صدی بھر پہلے جمہوریت آئی..... تو..... کچھ سکون کے بعد پھر یہ بے سکون

شب و روز۔ کیوں ہو رہا ہے یہ سب۔ کیوں.....

جانے کیوں آج اُسے بالکل ہی نیند نہیں آرہی تھی۔ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی وہ آج۔ کبھی کبھی اچانک گھبرا اٹھتی تھی۔ نہیں اچانک نہیں۔ جب کہیں سے کسی دھماکے کی آواز آتی۔ اور آواز تھی کہ بار بار آ جاتی۔

ادھر رات تھی کہ طویل ہوئی جاتی تھی۔ اگر صبح ہو جاتی تو وہ تنویر خالہ کے وہاں فون کر کے خیریت معلوم کرتی ان کی..... سب کی..... سب کی خیریت۔ اسے رہ رہ کر جانے کیسی محرومی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سے خالی پن کا۔ ایک جان لیو اس فکر کا۔ کون سی فکر تھی یہ۔ اُسے ٹھیک سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ یاد سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ یا شاید..... اگر یوسف سے کوئی بات..... کوئی بات ہو پاتی..... اگر..... یاد سے بھی کوئی رابطہ نہ ہوا تھا کل سے..... شاید یوسف نے تنویر خالہ سے کوئی بات کی ہو۔ کوئی پر امید بات ہوتی تو اب تک.....

صبح تنویر بیگم کو معلوم ہوا کہ یوسف کل رات اپنے گھر نہیں گیا تو اُن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اُنہوں نے دو ایک جگہ اور فون کرنے کے بعد نکی کے یہاں فون کیا تھا کہ شاید کسی کو معلوم ہو..... تو نکی کا سر زور سے چکرایا تھا.....

چلا جاؤں گا نکی باجی..... دور چلا جاؤں گا..... اتنا دور ہو جاؤں گا کہ..... آپ..... یوسف

نے دبی دبی ہچکی لی تھی۔  
نکی بے ہوش ہو چکی تھی۔

کئی روز ہو گئے تھے۔ یوسف کی کوئی خبر نہ تھی۔ اُس کے والد کو دل کا دورہ پڑ چکا تھا۔ اُس کی فریبہ اندام ماں کا وزن آدھا ہو گیا تھا۔ اور اس کی تنویر چچی اپنی بھابی سے نظر نہ ملاتی تھی۔ اور یوسف کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی۔

نکی پتھر کی مورت سی طبعی کالج جایا کرتی۔

جب دن مہینوں میں بدلے اور تین مہینے ہو گئے تب ایک دن یا اور کو اپنے سکول کے باہر یوسف کھڑا نظر آیا۔ وہ دوڑ کر اُس سے لپٹ گیا۔

”کہاں چلے گئے تھے یوسف بھائی.....“ وہ رو پڑا۔ یوسف کی آنکھیں بھرا آئیں۔

”کیوں چلے گئے تھے یوسف بھائی..... اب تو نہیں جائیں گے نا۔ سب کو دکھی کر دیا آپ

نے..... ہم سب مر جائیں گے آپ کے بغیر۔ مت جائے گا اب کبھی بھی۔“

وہ یوسف کی درمیانی پسلی تک آتا تھا۔ اس کے سینے کے ساتھ سر نکائے کمر میں باہیں ڈالے بولتا رہا۔ اور یوسف جو اُسے جانے کیا کیا کہنے آیا تھا، ایک ہاتھ سے اُسے لپٹائے اور دوسرے سے اس کا سر سہلاتا رہا۔

”میں گھر سے ہی آ رہا ہوں۔ صبح آیا تھا..... سب خیریت ہے نا..... اُدھر۔“

”ہاں..... اُدھر..... بڑی خالہ کے وہاں نا؟“ اُس نے یوسف کی آنکھوں سے مشابہہ

آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر اُسے دیکھا، تو یوسف نے اثبات میں سر ہلایا۔

”نکی باجی بالکل ادھ موئی سی ہو گئی ہیں۔ ان کا Face پیلا ہو گیا ہے..... وہ تو کسی سے

بات ہی نہیں کرتیں اب تو.....“

مسہری پر اوندھی، اپنی بیاض پر جھکی نکی کو خیر ہی نہ ہوئی کہ کب یا اور آ کر اُس کے پلنگ کے قریب قالین پر بیٹھ گیا۔

رستہ بھول گئیں خوشیاں ڈھونڈوں جا کر کس رستے

یاور نے ایک صفحے پر نظر ڈالی۔ بے چاری نکلی باجی.....  
تیری دو آنکھوں کی راحت جو گئی  
زندگی میری مصیبت ہو گئی

”نکی باجی.....“

نیلی نیلی دو آنکھیں پلنگ کے بان پر ناک نکائے اُسے دیکھ رہی تھیں۔

”کیسی ہیں نکی باجی؟“ یاور نے چہرہ اوپر کیا۔

پل بھر کو نکی کا دل جیسے حلق میں اُچھل آیا تھا۔ سال بھر پہلے تک یوسف ایسا ہی لگا کرتا تھا۔

اُس نے گلے کے قریب ہاتھ رکھ کر گویا زخمی طائر سے پھڑکتے دل کو سنبھالا۔

”کیسا ہے میرا پیارا سا چھوٹا سا دوست۔ میرا بھتیجا؟“ اُس نے خوش دلی کا مظاہرہ کرنے کی

کوشش کی اور یاور کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔

”بہت خوش ہوں نکی باجی..... میں.....“ خوشی اُس کی معصوم سی آواز سے چھلکی پڑتی تھی۔ نکی

بیقرار آنکھوں سے اس کے چہرے کے تاثرات میں اپنے سوالات کا جواب مانگنے لگی تو اُس نے

کتابوں کے بیگ میں رکھے پینسل باکس میں سے ایک پرچی نکال کر نکی کے حوالے کی۔

وہ دونوں پہاڑی کے دامن میں کئی بارہ دریوں پر مشتمل باغ کے بالائی باغیچے کے کونے میں  
بیٹھے تھے۔ صدیوں پہلے مغل شہزادے داراشکوہ نے ستاروں کی گردش جاننے کے لیے جھیل ڈل  
کے کنارے کوہِ زبرون پر یہ مشاہدہ گاہ بنوائی تھی کہ اُسے علم نجوم سے خاصا شغف تھا۔ باغ کا نام  
پری محل رکھا گیا تھا۔

بے شمار پھولوں سے سجے ان باغیچوں سے جھیل کا منظر نہایت دل فریب معلوم ہوتا تھا۔ جھیل  
کے کنارے واقع مغل باغات کی سیر کرنے والوں کی تعداد شام کو بڑھ جایا کرتی تھی، لیکن ادھر اب  
ایسا شاذ و نادر ہی ہوا کرتا۔ نیچے کنارے پر رنگ برنگی چھوٹی کشتیوں کی قطاریں سونی تھیں۔ یہ  
کشتیاں شکارے کہلاتی تھیں اور وادی کے اچھے دنوں میں سیاحت کی مصروف ترین آماجگاہ  
ہوتیں۔ بڑے بڑے گل بوٹوں والی نشست گاہوں اور خوش رنگ ریشمی پردوں والی ان کشتیوں کو  
کنارے باندھ، ناخدا جانے کہاں چلے گئے تھے۔ حالانکہ بہار شباب پر تھی۔ دور بیچ جھیل کے ایک  
چھوٹی سی بغیر چھت کی کشتی جس کی لکڑی کا سارا رنگ پانی نے پی لیا تھا، دوسرے کنارے کی طرف

آہستہ خرامی سے رواں تھی۔

”کہاں تھے..... تم؟“ نکلی نے اسے کئی لمحوں تک بغور دیکھا۔ وہ ایک دم بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اُس نے داڑھی بڑھا رکھی تھی۔ گھٹنوں سے نیچے تک لمبے کرتے کے اوپری کھلے بٹن میں سے سینے میں اُگے سیاہ بال جھانک رہے تھے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور گھنگھریا لے بال پہلے کی ہی طرح داہنے ابرو تک آتے تھے، جن کے پیچھے نیلی نیلی آنکھیں جیسے دو جہاں کی فکر میں غلطاں تھیں۔

”تم میرے ساتھ چلو گی ابقہ.....؟“ یوسف کی آنکھیں یکا یک جیسے باغی ہو گئیں تھیں۔ اُس کے طرزِ مخاطب پر نکلی چونکی نہیں تھی۔

”کہاں.....؟“ چھوٹے سے پھانک کے قریب لگے سونف کے پودے ہوا کے جھونکے سے لہرائے۔ ایک درباسی مہک پھیل گئی۔

”یہ ہی ایک راستہ ہے..... ورنہ..... کوئی آپ کو کیوں مجھے سوچنے گا..... ہاں نہیں کریں گی نکلی باجی تو..... تو خدا کی قسم..... خدا کی قسم.....“

وہ پل بھر میں پہلے کی طرح اداس اور مجبور سا ہو گیا۔ آنسو بھر آئے۔

”نہیں یوسف..... نہیں.....“ اس کی ایک آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ نکلی اُسے دیکھتی رہی۔

”ایسا مت کرو..... ایسا نہ کہو..... یہ کیسے ممکن ہوگا..... یہ کیونکر ہوگا.....؟“

”کیوں نہیں ہوگا نکلی باجی.....“ اُس نے نکلی کا ہاتھ پکڑ کر چھوڑ دیا۔

لمبی سفید دم والی ایک سیاہ چڑیا سامنے زرد گلابوں کی کیاری پر آ بیٹھی اور منقار آسمان کی جانب اٹھا کر زور سے چہچہائی۔ یوسف نے نظر دوڑا کر چڑیا کی طرف دیکھا۔ نکلی نے بھی چونک کر ادھر دیکھا تھا۔ دونوں مسکرا دیئے۔

”ہم ایسے ہی ہمیشہ ساتھ ہنس سکتے ہیں نکلی باجی..... مان جائیے نا..... میں آپ کی تعلیم ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ خود بھی کوئی اچھا کام کروں گا..... اب بھی وقت ہے نکلی باجی..... میرے دوستوں نے سب انتظام کر رکھا ہے..... ہم نکاح کر لیں گے۔ پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا..... ورنہ بعد میں کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا..... ابھی بھی ہاں کر دیجئے نکلی باجی.....“

نکلی اپنے گھٹنوں کو باہوں کے حلقے میں لیے بیٹھی اپنے پاؤں دیکھتی رہی۔

ترنم ریاض

”میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اپنا سب کچھ تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا..... ہمارا چھوٹا سا..... گھر ہوگا..... تم ہمیشہ مسکراتی رہو گی..... کوئی تمہاری ماں کی طرح تم پر بندشیں نہیں ڈالے گا.....“

وہ خاموش ہو گیا۔ اور سر جھکا کر نکی کے پیروں کو دیکھتا رہا۔ پرندے چہچہاتے رہے۔ سونف کی خوشبو ہواؤں میں گھلتی رہی۔ نکی چپکے چپکے روتی رہی۔ دو ایک آنسو اُس کے پاؤں پر گرے۔ یوسف نے انہیں ہاتھ سے پونچھ لیا۔

”کیا ہوا..... نکی باجی.....“ وہ تھکی ہوئی سی آواز میں بولا۔

”میں..... جانتا تھا..... آپ میرا ساتھ..... میرا ساتھ..... نہیں دیں گی.....“ اُس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ آواز کی لرزش قابو میں رکھ کر بولتا ہوا موٹر سائیکل تک آ گیا۔

سامنے جھیل میں سورج نے غوطہ لگایا اور ڈوب گیا۔ آسمان کا وہ کنارہ اُس وقت تک دیکھتے انکارے سا سرخ رہا جب تک موٹر سائیکل نیچے سڑک کے موڑ تک آ گئی کہ یوسف سامنے دیکھ رہا تھا اور نکی کی نظروں کے سامنے سڑک ختم ہونے تک آسمان ویسا ہی سلگتا سلگتا سا رہا۔ کبھی کبھی منظر دھندلا جاتا مگر آنسو ٹپک جاتے تو سب صاف نظر آنے لگتا۔

نکی کے گھر کو مڑنے والی گلی کے موڑ پر یوسف نے لپ سڑک موٹر سائیکل روک دی اور دونوں پاؤں زمین پر ٹکائے موٹر سائیکل پر ہی بیٹھا رہا۔

”آنکھوں سے..... اوجھل مت ہونا..... یوسف.....“ نکی کی آواز کانپتی رہی۔ ہچکیاں گھٹتی

رہیں۔

”اپنے فیصلے پر آپ تمام عمر پچھتائیں گی نکی باجی۔“ اس کی آنکھوں میں موت کی سی سرد مہری تھی۔ اُس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ نکی نے ہنڈل پکڑے ہوئے اُس کے ہاتھ پر دونوں ہاتھ رکھ دیئے۔ اس کی آنکھوں کو خوفزدہ سی نظروں سے دیکھتے ہوئے اُس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت اُس کے ہاتھ پر مضبوط کر دی۔

”ایسا مت کرنا۔“

وہ سراپا التجا بن گئی۔

یوسف اسے کچھ لمحوں تک چپ چاپ دیکھتا رہا۔ اُس کے ہونٹوں پر ایک رنجیدہ سی مسکراہٹ پھیل گئی..... اور موٹر سائیکل آگے بڑھ گئی۔ نکی موڑ پر پتھر کی مورت سی کھڑی اُسے دور

ہوتا دیکھتی رہی۔ ”ما دلائے میا نہ یوسوفو لو“  
 پکارتی ہوں میں تجھ کو مرے یوسف آ جا سستی بیٹا ایک سفر عنہ اس کے لبوں پر آسنا  
 رخساروں پر دو تازہ آنسو ڈھلک آئے۔ دو آنکھیں سڑک کے موڑ پر رکھ کر وہ گھر کی جانب  
 مڑ گئی۔

اُن دنوں حالات اور بکھر گئے تھے۔ وادی اور اُداس ہو گئی تھی۔ گھروں میں افراد کم ہو گئے  
 تھے۔ دل رنجیدہ رہا کرتے تھے۔ گھروں سے کام کی خاطر نکلنے والوں کے شام کو لوٹنے تک گھر میں  
 رہنے والے وسوسوں میں گھرے رہتے۔

سال بھر ہونے کو آیا تھا۔ یوسف کی کوئی خبر نہ تھی۔ اُس کی ماں کا دل کبھی اداس ہو جاتا اور  
 کبھی پُر امید۔ یہ دل اُسے دن میں کئی کئی بار مارتا اور زندہ کرتا تھا۔  
 اُس کے باپ کو دل کا دوسرا دورہ پڑ چکا تھا۔

جس دن پڑوس کے کسی لڑکے کی پہچان کے ایک آدمی نے بتایا کہ یوسف زندہ ہے مگر  
 دور سرحد کے اُس پار..... اُس دن اُس کی ماں سارا دن صرف روتی رہی تھی۔

’میرا بیٹا زندہ ہے..... مگر موت کی ٹریننگ لے رہا ہے۔‘  
 جانے کتنی دفع اُس نے یہ جملہ اپنے آپ سے دہرایا تھا۔ مگر دل کے مریض شوہر کے  
 سامنے صرف آپس بھر کر رہ جاتی۔

’ہم سے دور ہی سہی..... زندہ تو ہے..... کبھی نہ کبھی لوٹ آئے گا ہمارے پاس..... آخر  
 ہمارا بچہ ہے..... ہمارا خون ہے.....‘ وہ شوہر کو تسلی دیا کرتی۔

خزاں کی آمد نے چناروں میں آگ لگا رکھی تھی۔

نگی کے گھر کے پچھواڑے باہری دیوار کے اُس پار کجڑوں کی کھیتیاں تھیں جن میں کئی طرح  
 کی سبزیاں لہلہایا کرتی تھیں، مگر ان دنوں وہاں صرف کڑم کالمبی ڈنڈیوں والا ساگ اُگا ہوا تھا  
 جس کے بڑے بڑے پتے چنار کے درخت کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے اکتوبر کے چاند کی بھیگی  
 ہوئی چاندنی میں نکھرے نکھرے سے نظر آ رہے تھے۔

چاندنی کو اپنی مسہری کے کنارے تک آتا دیکھ نگی اٹھ کر کھڑکی تک چلی آئی۔ کچھ لمحے وہاں

ترنم ریاض

کھڑی رہ کر واپس بستر پر لیٹ گئی۔ وہ آج بھی سو نہیں پارہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ تاریکی میں آنکھیں کھولے چھت کو نکلتی باندھے دیکھتی رہی۔ آنسو اس کے کانوں میں جمع ہوتے رہے۔ اس کی اکثر راتیں آدھی سے بھی زیادہ بے خواب گزر جاتیں۔

پاس کی تپائی پر پڑے فون کی گھنٹی بجی۔ لمبی دوری سے بجنے والی لمبی گھنٹی۔ نکی نے لپک کر ریوڑ اٹھایا کہ گھر میں کسی کی نیند نہ خراب ہو۔

کون ہوگا اتنی رات گئے.....

”نکی باجی.....“ اس کی باریک سی ہیلو کے جواب میں آواز آئی۔ دل سینے میں ایسے دھڑکا جیسے مردہ بدن میں کسی نے اسی لمحے روح پھونک دی ہو..... اس کا ہاتھ بے اختیار حلق پر چلا گیا۔

”یوسف.....“ اس کی آواز کانپی۔ ”کہاں ہو یوسف؟“ وہ رو پڑی۔

”مجھے جیتے جی مار کر تم..... تم کہاں چھپ گئے یوسف..... کب آؤ گے..... کہاں سے بول.....“ وہ ہچکیاں لینے لگی۔

”میں مرا نہیں نکی باجی..... زخمی ہو کر نامراد پڑا رہا..... مرنا چاہتا ہوں..... اس وقت سمندر پار ہوں.....“

”تم آ جاؤ یوسف..... میں بھی نیم مردہ ہوں..... ساتھ میرے دو نوں۔“

”میرا وہاں آنا..... ناممکن ہے..... میرے پاس پاسپورٹ کہاں ہے وہاں کا۔ جہاں کے پاسپورٹ سے یہاں آیا ہوں..... وہ بھی مجھے کہاں چھوڑیں گے.....“

”کیوں کیا تم نے ایسا یوسف..... تم مجھے کس قصور کی سزا دے رہے ہو..... اپنے والدین کو کیوں دکھ دے رہے ہو..... لوٹ آؤ یوسف.....“

”نہیں نکی باجی..... برف باری کے وقت آنے میں پکڑا نہ گیا تو روپوش تو رہنا پڑے گا..... سب کی زندگی خطرے میں کیسے ڈال دوں..... یہ ممکن ہی نہیں ہوگا۔“

”آ کر Surrender کر لو یوسف..... یہ غلط راستہ کیوں کر چن لیا تم.....“

”چپ..... یہ لفظ دوبارہ کبھی مت دہرائے گا..... یہیں پر ختم کر دیا جاؤں گا..... شہادت کا موقع نہیں ملے گا مجھے..... آپ نہیں جانتیں.....“

”یہ کوئی شہادت ہے یوسف..... تم تو اتنے ذہین تھے..... اتنے سمجھدار تھے..... یہ تمہیں کیا

ہو گیا..... ہے..... تم.....“

”بس کیجئے نکلی باجی..... ہمیشہ آپ مجھے اپنے Student کی طرح اپنی مرضی کی باتیں سمجھاتی آرہی ہیں..... اب میں.....“

”میری مرضی..... میری..... مرضی..... میری کون سی مرضی رہی ہے..... کیسی مرضی.....“  
آنکھوں میں نئے نئے آنسو بھر آنے سے اُس کی ناک بند سی ہو گئی تو آواز بھیگ گئی۔

”sorry نکلی باجی..... دل نہیں دکھانا چاہتا تھا آپ کا..... معاف کر دیجئے مجھے..... معاف کر دیجئے.....“ اُس کی آواز بھی رندھ گئی۔ اور فون بند ہو گیا۔

نکی نے فون کان سے ہٹا کر رخسار سے لگایا۔

کتنے عرصے کے بعد اس نے یوسف کی آواز سنی تھی۔

فون رکھ کر وہ کھڑکی کے قریب آگئی چوکھٹ پر ہاتھ دھر کر چاند کو دیکھتی رہی اور پھر کہیں کہیں دور دور نظر آتے تاروں کو۔

شاید فون کٹ گیا ہو..... اور پھر گھنٹی بج جائے..... اس انتظار میں وہ رات بھر نہیں سوئی۔ سحر تک بھی نہیں۔

کچھ مہینے اور گذر گئے۔ نکلی اُس کے فون کا انتظار کرتی رہی۔ گھر کے راستے میں آنے والے قبرستان میں نرگس کے پودے کئی بارز میں سے اونچے ہوئے، پھولے اور مرجھائے۔ فون نہیں آیا۔ راتوں کو برہا کے گیت لکھ لکھ کر اُس نے بیاضیں بھر دیں۔

ہر روز کالج سے لوٹتے وقت قبرستان کے قریب سے گذرتے ہوئے اُس کی رفتارست ہو جایا کرتی۔ نظریں اس طرف اٹھ جاتیں۔

ایک دن اُس نے دیکھا کہ قبرستان کی دیوار کے چھوٹے سے دروازے کی جگہ بڑا سا پھانک لگایا گیا ہے۔

’انا لله وانا اليه راجعون‘۔

پھانک کی ہری محراب پر سیاہ رنگ کی عبارت نے اس کی نظریں جکڑ لیں۔ کچھ لمحے وہ عبارت کو دیکھتی رہی۔ پھر اُس کے قدم پھانک کے درمیان لگے چھوٹے سے کواڑ کی طرف اٹھ گئے۔ وہ ڈھلان اتر کر منڈیر سے جا لگی۔ سامنے دور تک پھیلے ہوئے قبرستان میں بے شمار قبروں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ جگہ جگہ نئے کتبے کھڑے تھے۔ اُس کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ زمین پر



بیٹھ گئی اور آنکھیں زور سے بھیجنے لیں۔

اگر اس وقت..... کوئی ہم پر بندوق تان دے..... تو کیا ہمیں بھاگنا چاہیے نکی باجی.....

کسی نے دھیرے سے کہا۔

بند آنکھوں سے نکل کر آنسو نکی کے رخساروں پر پھسل گئے۔

نہیں..... نہیں یوسف..... تم مجھ سے دور بھاگ گئے..... میں..... میں کہاں بھاگ سکتی

ہوں..... میں کہاں جا سکتی ہو..... میں کہاں جاؤں..... یوسف.....

نکی چپکے چپکے سسکنے لگی۔ خوب رو لینے کے بعد جب جی کچھ ہلکا ہوا تو اُس نے آنکھیں کھول

دیں۔ نرگس کے پھولوں میں ایستادہ کتبوں پر نام اور تاریخ پیدائش کے ساتھ تاریخ انتقال درج تھے۔

نصیر احمد ملک : تاریخ پیدائش : ۹ ستمبر ۱۹۷۰ء

وفات : ۶ فروری ۱۹۹۲ء

محمد راشد میر : تاریخ پیدائش : ۵ جون ۱۹۷۲ء

وفات : یکم جولائی ۱۹۹۳ء

وہ دہشت زدہ سی منڈیر سے لگی بیٹھی دُور دیوار تک پھیلے کتبے پڑھتی رہی۔ اُس کے چہرے پر

کرب اتر آیا۔ ہونٹ دانتوں میں بھیجنے سسکیاں لیتے ہوئے اُس نے منہ دوسری جانب موڑا تو

ایک بالکل تازہ تربت پر سیاہ سنگ مرمر سے تراشی لوح مزار نئی نئی بہار کی نکھری ہوئی ٹھنڈی دھوپ

میں چمک رہی تھی۔ قبرستان کے کناروں پر لگے بید کے درخت اُس پر بار بار سایہ کیے دیتے تھے۔

یوسف احمد خان : پیدائش : ۱۱ مارچ ۱۹۷۳ء

وفات : ۲ جون ۱۹۹۳ء

”نہیں.....“ اُس کا ہاتھ بے اختیار اُس کے ہونٹوں پر چلا گیا۔ دوسرا ہاتھ اُس نے اپنے

حلق پر رکھ دیا..... دبی دبی سی چیخ اُس کے سینے میں گھٹ کر رہ گئی۔ ہچکیاں لے لے کر روتے

ہوئے اُس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اُس کا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ گلے کو اُس نے انگلیوں سے

ایسے تھام رکھا تھا جیسے اُس کی جان اُسی راستے نکل بھاگنے والی ہو۔

یہ نہیں ہوگا..... میرے ساتھ..... میرے اللہ..... یہ نہیں ہوگا..... اُس نے تڑپ کر آسمان

کی جانب نگاہیں اٹھائیں اور سر پیچھے منڈیر پر اُگی ہری ہری نم گھاس سے نکا دیا۔ نیلا نیلا آسمان

بے داغ نظر آ رہا تھا۔ آنسو اُس کی آنکھوں سے بہہ بہہ کر چہرہ بھگوتے رہے۔ دیوار سے ملحقہ مسجد میں بجلی نہ ہونے کے باعث بغیر لاؤڈ سپیکر کی پروردی اذان گونجا کی۔

بید کی ٹہنیوں میں لوٹ آنے والی چڑیوں نے جب چہک چہک کر آسمان سر پر اٹھالیا تو انکی نے اپنی سرخ سرخ آنکھوں پر دوپٹہ رکھ کر تھکے ہوئے پوٹوں سے لگے آنسو جذب کر لیے۔ اور کھڑا ہونے سے پہلے ایک نظر پھر بائیں جانب دیکھا۔ ایک بار پھر اس کا ہاتھ اس کے گلے کے قریب چلا گیا۔

وہاں کوئی تازہ قبر تھی نہ کتبہ۔

اُس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اور اُسے سخت پیاس لگ رہی تھی۔

پھر..... مہینے سالوں میں بدلنے لگے ایک دن کسی نے یوسف کی والدہ کو فون کر کے بتایا کہ آج شب کے ایک بچے یوسف اُن سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ رابطہ قائم کرے گا۔

”ہمارا بیٹا زندہ ہے سلامت ہے.....“ اُس کی ماں نے یہ خوش خبری گھر میں سب کو فرداً فرداً سنائی۔ اُس دن وہ سارا وقت لوریاں گاتی رہی، اور رہ رہ کر اُس کی آنکھیں بھیکتی رہیں۔

کمپیوٹر کے مانیٹر پر اُس کے بیٹے کی تصویر ابھری تو وہ پہچان ہی نہ پائی۔ اُس نے سر منڈوا رکھا تھا۔ داڑھی گریبان تک بڑھی ہوئی تھی۔ آنکھیں نیم واسی تھیں اور جب اُس نے والدین کو مخاطب کیا تو اُس کی آواز بھی تھکی تھکی سی معلوم ہوتی تھی۔

”آ جاؤ..... چاند..... گھر آ جاؤ.....“ ماں نے مانیٹر پر نظر آ رہے اُس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور رو پڑی۔

”تمہاری ماں..... مر جائے گی بیٹا.....“ باپ کی آواز کانپ رہی تھی۔

”ابو آئی بیمار ہیں یوسف..... تمہارے بغیر گھربالکل تباہ ہو گیا ہے..... تمہارے بغیر کسی کا جی نہیں لگتا.....“ بہن سسکیاں لینے لگی۔

”اس طرح کی باتوں سے میرا ایمان کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں آپ لوگ..... بس دعا کریں کہ میں جام شہادت نوش کروں..... اور آپ سب کے لیے جنت کے دروازے وا کروں.....“

اُس کی آواز میں عزم جھلک رہا تھا مگر چہرے پر غم کے سائے سے لہرا جاتے۔

قرنم ریاض

”کسی طرح کچھ دن کے لیے آ جاؤ..... یہ سب صحیح نہیں میرے لعل..... میں تمہیں سمجھا دوں گی۔ کچھ دن کے لیے آ جاؤ..... تمہیں سینے سے لگانے کے لیے میرا..... میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے.....“ ماں روتی رہی۔

”میرے جنازے کو کندھا دینے..... کندھا دینے ہی آ جا..... میرے بچے.....“ باپ بے بسی

سے بولا۔

”اب حنت میں ملاقات ہونے کی دعا مانگئے ابو..... امی بزدلوں والی باتیں مت کیجئے.....“

یوسف کی آواز میں یاسیت شامل ہو گئی۔

”یہ کیا کہہ رہے ہو..... کس نے بھٹکا دیا تم کو..... میرے بیٹے..... ہمارے پاس کبھی جی بھر

کے بیٹھتے..... بات کرتے ہمارے ساتھ..... تو ہم تمہیں سمجھاتے تو۔“

”اُف ابو..... پھر وہی نصیحتیں..... پھر آپ..... میری بات کبھی سمجھیں گے۔ کبھی آپ

ابو..... کبھی نہیں..... اچھا کچھ دن بعد پھر Contact کروں گا میں.....“ اُس کے چہرے پر

کرب اُتر آیا تھا۔ مانٹیر کا Screen کورا ہو گیا۔

کاش وہ ایک جھلک دیکھ پاتی۔ یاور سے ویڈیو کانفرنسنگ کی بات سن کر نکلی کے دل میں

حسرت جاگی اور سو گئی۔

کچھ دن بعد یہ بات بھی پرانی ہو گئی اور ہوتی چلی گئی۔ یوسف کی کوئی خبر نہ آئی۔ ایک برس

اور بیت گیا۔

یاور نے آ کر نکلی کو بتایا کہ یوسف کے والد اب زیادہ بیمار رہنے لگے ہیں۔ اور کچھ بہتر ہوتے

ہی یوسف کی ماں انھیں حج پر لے جائے گی۔

یوسف کے والدین فریضہ حج ادا کرنے کے بعد کسی دوسرے شہر چلے گئے اور کوئی دو ماہ بعد

لوٹے۔

انھیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ برسوں کی عمر جی کر لوٹے ہوں۔ نہایت ضعیف

اور..... بیمار..... اور دوسرے ہی دن، دل کا تیسرا دورہ پڑنے سے یوسف کے والد انتقال کر گئے۔

یوسف کی ماں کے آنسو نہیں بہے تھے۔

وہ اب اکثر اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔  
 اُس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا تھا۔  
 اب وہ ٹیلیفون کی گھنٹی پر چونکتی بھی نہیں تھی۔

بہت پہلے جب یوسف زخمی ہوا تھا تو اُس کی ناک سے کئی دن خون بہتا رہا تھا۔ وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کسی دھماکے کے دوران کہیں سے کوئی چیز اُس کے ابرو پر آ گئی تھی۔ جب سے ہی اُس کے سر میں شدید درد رہتا تھا۔ ساتھی اُس کے سر پر کس کے مچھا باندھ دیتے۔ درد دور کرنے کی گولیاں بے شمار کھانا پڑتیں۔ پہلے پہل درد اٹھنے کے درمیانی وقفے طویل ہوا کرتے جو رفتہ رفتہ مختصر ہونے لگے اور اب یہ عالم تھا کہ آدھ پون گھنٹے کے وقفے سے درد اٹھتا اور چھ، آٹھ گھنٹے رہا کرتا۔  
 حج کے دوران یوسف نے اپنے والدین سے رابطہ قائم کیا تھا۔

دوسرے شہر میں ملاقات طے ہوئی۔ اور برسوں بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو بیحد کمزور لگ رہا تھا۔ مگر والدین کو دیکھ کر مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔

دوسرے دن سمندر کے اوپر بہت سے بادل ادھر سے ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ جیسے بادلوں کا پہاڑ راستہ بھٹک گیا ہو۔ جزیرے پر تعمیر ہوٹل کی کثیر منزلہ عمارت کے کسی اوپری سویٹ کی بالکنی میں وہ تینوں بیٹھے تھے۔ یوسف کو ہفتے بھر بعد ٹھکانے پر لوٹ جانا تھا۔ والدین کا دیرا بھی ختم ہونے والا تھا۔

اُس دن یوسف کے والد بے حد پرسکون لگ رہے تھے۔ ان کی نظریں بیٹے کے چہرے سے ہٹتی نہیں تھیں۔ انھیں یقین ہو چلا تھا کہ بیٹا اُن کی بات مان لے گا اور وہ اُسے واپس لے آئے گا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے کیونکہ اس نے ماں باپ کی کسی بات کے جواب میں کوئی ضد نہیں کی تھی۔ خاموش سنتا رہا تھا۔

یہ باتیں یوسف کی بہن نے یاور کو بتائیں تھیں..... مگر بہت دن بعد۔

جب خود اُسے اُس کی ماں نے بتایا تھا.....

بہت دن بعد۔ جب اُس کی ماں کے سپاٹ چہرے پر کچھ تاثرات ابھرنے لگے تھے.....  
 بہت دن بعد۔ جب اُس کی ماں رونے اور بات کرنے لگی تھی۔

اُس دن ماں کی گود میں سر رکھے بادلوں کو دیکھتے ہوئے اُس کے سر میں درد اٹھاتا تھا۔ جو کسی طرح کم ہونے میں نہ آیا اور پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوتا چلا گیا۔

ایکسرے سے نظر آیا کہ اُس کے دماغ کی باہری جانب کے سیال مادے میں بائیں آنکھ کے بالکل سیدھ میں کوئی انج بھر لہی اور آدھ انج نصف قطر کی کوئی چیز پڑی ہے۔ M.R.I سے پتہ چلا کہ وہ ایک گولی ہے جو بہت پہلے آنکھ کے اندرونی کونے سے گھس کر نہ جانے کس طرح بغیر آنکھ کی پتلی سے لگے، سر میں بیٹھ گئی تھی۔ اب سرجری کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔

آپریشن کر کے گولی نکال دی گئی..... مگر یوسف کو ہوش نہ آیا۔

کچھ دن 'کوما' میں رہ کر یوسف موت سے ہم آغوش ہو گیا۔

دیارِ غیر میں اُسے سپردِ خاک کر کے اُس کے والدین لوٹ آئے تھے۔

نکی کے گھر کے راستے میں پڑنے والے قبرستان میں کسی نئی میت کے لیے اب کوئی جگہ نہیں بچی ہے۔ اُس کی دیواریں خستہ ہو کر کئی جگہ سے ٹوٹ گئی ہیں..... یہاں تک کہ بہار کی آمد پر سڑک پر چلتے وقت بغیر منڈیر تک جائے۔ زگس کے پھول آسانی سے نظر آ جاتے ہیں.....

وہاں سے گذرتے وقت نکی کی رفتار خود بخود دھیمی پڑ جاتی ہے۔ اُس کی نظریں بید کے درختوں سے ہوتی ہوئی قبرستان کے سارے احاطے میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ گو کہ یوسف کی تربت ادھر نہیں ہے..... پھر بھی.....



## شہر

پلاسٹک کی میز پر چڑھ کر سونو نے نعمت خانے کی الماری کا چھوٹا سا کواڑوا کیا تو اندر قسم قسم کے بسکٹ، نمک پارے، شکر پارے اور جانے کیا کیا نعمتیں رکھیں تھیں۔ پل بھر کو وہ ننھے سے دل پر کچو کے لگاتا ہوا غم بھول کر مسکرا دیا۔ اور نائٹ سوٹ کی لمبی آستین سے سوکھے ہوئے آنسوؤں بھرے رخسار پر ایک اور تازہ بہا ہوا آنسو پونچھ کر اس نے بسکٹ کا ڈبہ ہاتھ میں لے لیا اور اپنے پانچ سالہ وجود کا بوجھ سنبھالتا میز سے نیچے اتر آیا۔ اسے بھوک بھی بہت لگی تھی۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اس کی چھوٹی سی اڑھائی برس کی بہن ثوبیہ بھی صبح سے بھوک لگی تھی۔ سارا دن وہ مسہری پر لیٹی اپنی می کو پکار پکار کر تھک گئی تھی۔ اور بہت زیادہ روتے رہنے کے باعث نڈھال سی ہو کر اس نے اپنا گھنگھریا لے بالوں والا ننھا سا سر اپنی امی کے پھیلے ہوئے بازو پر رکھ چھوڑا تھا..... دن بھر شاید وہ سوتی رہی تھی اور کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔

اس شہر میں آئے انھیں صرف ایک ہفتہ ہوا تھا۔

امان کو بہت عرصے سے اس شہر میں اپنی تبدیلی کروانے کی خواہش تھی لیکن اس میں بس ایک ہی پریشانی تھی کہ رہائش کا انتظام نہایت مشکل کام تھا۔ اُس کے قصبے کے انوار صاحب بھی اس کمپنی میں کام کرتے تھے مگر وہ ہیڈ آفس سے وابستہ تھے اور شہر میں رہائش پذیر تھے۔ رہائش بھی کمپنی کی طرف سے ملی ہوئی تھی کیونکہ وہ پچیس برس سے اسی دفتر میں تھے۔ اُس کے بعد آنے والے ملازمین میں سے بہت کم کو فلیٹ میسر آیا تھا۔ غیر شادی شدہ لوگ تو ایک کمرے والی رہائش میں دو، یا تین تین کے حساب سے ہوٹل کی طرح کمرہ بانٹ لیتے تھے مگر فیملی والے ارکان کے لیے یہ مسئلہ سب سے پیچیدہ تھا۔

امان اپنے قصبے میں کمپنی کا براؤنچ میجر تھا۔ انوار صاحب ہر تین ماہ کے بعد اپنی کمپنی کا کوئی کام نکال کر اپنے آبائی گھر آتے۔ بزرگ والدین سے ملاقات بھی ہو جاتی اور کمپنی کا کام بھی نمٹا لیتے۔

ترنم ریاض

اس بار انوار صاحب اپنے ساتھ امان کے لیے کچھ سونے بھی لے آئے تھے۔ بڑے شہر میں رہنے کے۔ بچوں کو بڑے بڑے سکولوں میں تعلیم دلوانے کے اور ہیڈ آفس میں رہ کر ترقی کے نئے راستے واہونے کے۔

وہ ریٹائرمنٹ لے رہے تھے اور امان کے لیے ٹرانسفر کی بات بھی کر آئے تھے۔ امان اگر بروقت نہ پہنچتا تو اُسے اور کچھ برس انتظار کرنا پڑتا اور فیملی فلیٹ اُسے جب ہی ملتا جب فیملی ساتھ ہوتی ورنہ اُسے بیچلر رومز میں رہنا تھا۔ انوار صاحب نے فلیٹ کی چابی ابھی دفتر میں جمع نہیں کرائی تھی۔ وہ یہ کام امان کی موجودگی میں کرانا چاہتے تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اُن کی عزت کرتے تھے، انہیں یقین تھا کہ وہ اُن کی بات مان لیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا آنے کی کوشش کرتا، وہ کسی کی علمیت سے پیشتر امان کے حق میں فیصلہ چاہتے تھے۔

امان نے دو دن کے اندر ساری تیاریاں مکمل کر لیں اور مع بابرا اور بچوں کے شہر روانہ ہو گیا۔ انوار صاحب کا فلیٹ ۱۴ منزلہ عمارت کا سب سے اوپری فلیٹ تھا۔ عمارت کی ہر منزل پر تین تین فلیٹ تھے مگر سب سے اوپر والی منزل میں یہی ایک فلیٹ تھا۔ کیونکہ ایک طرف ڈش انٹینا تھا اور دوسری طرف پانی کی ٹینکیاں۔ درمیان میں یہ ایک فلیٹ بن پایا تھا۔ اس کے اوپر بڑا سا کشادہ ٹیرس تھا جس میں تقریبات وغیرہ ہوا کرتیں۔ وہاں سے یہ منظر دیکھنے پر سارا شہر دلہن کے ستارے لگے آنچل کی طرح نظر آتا۔

اس سے نیچے کے تین فلیٹس میں سے دو آباد تھے اور ایک پر کچھ تنازعہ چل رہا تھا۔ ایک فلیٹ کے مکین کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور ایک میں امان کی ہی کمپنی میں کام کرنے والے وکرم بھسین رہتے تھے۔

بابرا کو فلیٹ اور امان کو شہر بہت پسند آیا۔ فلیٹ کشادہ تھا۔ تین خوابگاہوں، ڈرائنگ روم اور باورچی خانے پر مشتمل۔ ہر کمرے کے ساتھ ملحقہ غسل خانہ، اور لباس بدلنے کے لیے چھوٹا سا احاطہ۔ اونچی چھتیں، بڑی بڑی کھڑکیاں، لمبے لمبے دروازے۔ تین دن میں فلیٹ سج گیا۔ ضرورت کا سب سامان آگیا سوائے ٹیلیفون کے۔ ٹیلیفون کی فیس پچھلے تین ماہ سے ادا نہیں ہوئی تھی اور ان مہربانیوں کے بدلے امان کو انوار صاحب کے لیے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ ورنہ خواجہ انوار صاحب کی گریجویٹ وغیرہ متاثر ہوتی۔ بلکہ امان کو تو کئی مہینے کا بجلی کا بل بھی بھرنا پڑا تھا جب چاکر بجلی کی سپلائی بحال ہوئی۔ ٹیلیفون کا بل ادا کرنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ امان نے پہلے دن آفس جوائن کرنے کے بعد دوبارہ آفس کا رخ تک نہیں کیا تھا کہ بغیر بجلی کے اس شہر میں ایک دن کے لیے بھی

رہنا مشکل تھا اور سارا وقت اُسے ادھر ادھر بھٹکنا پڑا تھا۔

کوئی پانچویں دن امان دفتر گیا کہ بھسین صاحب کے فلیٹ میں اُس کے لیے فون آیا تھا۔ اُسے سائٹ پر جانا تھا اور واپسی دوسرے دن کی تھی۔ وہاں کچھ ایسا کام پڑ گیا کہ امان دوسرے دن نہ آسکا۔

صبح دروازے کی گھنٹی بجی تھی تو سونو کی آنکھ اُسی آواز سے کھل گئی تھی۔ مئی اور ثوبیہ سو رہی تھیں۔ سونو دروازے تک گیا اور اس نے دروازے کی نچلی چٹخنی بھی کھولی تھی مگر میز پر کھڑے ہونے کے باوجود اُس کا ہاتھ دروازے کے اوپر والی چٹخنی تک نہ پہنچ سکا۔

”جی کون ہے؟“ اُس نے پکارا بھی تھا مگر باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آنے والے نے شاید اُس کی آواز نہیں سنی تھی۔ اور دروازہ نہ کھلنے پر لوٹ گیا تھا۔

”مئی۔ کوئی گھنٹی بج رہا ہے۔ مئی..... مئی۔“ اُس نے کئی بار مئی کو پکارا تھا مگر مئی جانے آج کیسی نیند سو رہی تھیں۔ جاگ ہی نہیں رہی تھیں۔

”مئی..... مئی جی..... کوئی دروازے کی گھنٹی بج رہا ہے۔“ اُس نے اونچی آواز میں پکارا تو ثوبیہ نے ابروؤں کے رخ پر خمیدہ پلکوں والی منی منی آنکھیں کھول دیں۔ اور اُٹھ کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں جھپک جھپک کر ادھر ادھر دیکھا اور بھائی کو مئی پکارتے سن کر خود بھی مئی مئی پکارنا شروع کر دیا۔

مگر مئی بول ہی نہیں رہی تھیں۔ مئی کے دہانے کے چاروں طرف کوئی سفید سی چیز جمی ہوئی تھی۔ ہاتھ پاؤں بھی کچھ عجیب طرح سے پھیلے ہوئے تھے۔

ثوبیہ نے ماں کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر رونا شروع کر دیا۔

”چپ ہو جانا۔ روتی کیوں ہے۔“ سونو نے جھلا کر کہا تو ثوبیہ اور زور زور سے رونے لگی۔

”مئی سو رہی ہیں ثوبی۔“ وہ بہن کو سمجھانے کے انداز میں بولا۔

”مئی۔ مئی اُٹھئے نا۔“ سونو نے پھر ماں کو جگانے کی کوشش کی۔ جب تک دروازے کی گھنٹی

دوبارہ بجنے لگی تھی۔

”کون ہے.....“ وہ دروازے کے قریب جا کر اور اونچی آواز میں بولا۔ کوئی جواب نہ آیا۔

وہ واپس کمرے میں آیا۔ ثوبیہ باقاعدہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ سونو کچھ دیر ماں کے

چہرے کو دیکھتا رہا۔ پھر روتی ہوئی بہن کو بغور دیکھنے لگا۔

”مئی۔“ اُس نے مئی کو پوری طاقت سے جھنجھوڑا مگر مئی بے حس و حرکت پڑی رہیں۔



وہ کچھ دیر گم سم سا بیٹھا رہا۔ پھر ثوبیہ کے قریب جا کر اُس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اُس کے آنسو پونچھے۔

”نہیں رونا ثوبی۔ می سورہی ہیں۔“ مگر ثوبی تھی کہ چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔

”چپ ہو جا۔“ وہ چیخا اور ساتھ ہی دہاڑیں مار مار کر رونے لگا۔

جانے کب تک دونوں بہن بھائی روتے رہے مگر امی نے چپ ہی کرایا نہ کچھ بولیں۔ ثوبیہ کوئی گھنٹہ بھر رونے کے بعد تھک کر سو گئی۔

وہ سو گئی تو سونو پھر ماں کے قریب گیا۔ اُس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر دائیں بائیں

ہلانے لگا۔

”می۔“ اس نے زور زور سے می کا سر ہلایا ”می..... می جی۔“ اس نے آنسوؤں میں بھیگی آواز میں محبت گھول کر پکارا۔ می نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر وہ ڈرائنگ روم چلا گیا۔ پردہ سر کا کرکھڑی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔

سامنے ایک بڑا سا پارک تھا جس میں چھوٹے چھوٹے کھلونوں جیسے رنگ برنگے بچے کھیل رہے تھے۔ پارک میں کئی طرح کے چھوٹے بڑے جھولے لگے ہوئے تھے ادھر ادھر آس کریم اور ویفرس کے پیکٹ والے اپنی چھوٹی چھوٹی ہاتھ گاڑیاں لیے ہوئے گھوم رہے تھے۔ ایک ریڑھی پر نہایت ننھی ننھی بوتلوں میں کولڈ ڈرنکس بھی ہوئی تھیں۔ پارک کی دوسری جانب لمبی سی سڑک پر چھوٹی چھوٹی بے شمار گاڑیاں بھاگ رہی تھیں۔ سونو نے یہ ساری چیزیں اس قدر چھوٹی جسامت میں آج سے پہلے کبھی نہ دیکھیں تھیں۔ اُس کے ذہن میں عجیب عجیب سوال اور خیال اُبھرنے لگے۔ وہ کمرے میں لوٹ آیا۔

”می جی۔“ اُس کے سینے سے درد بھری کراہ نکلی۔ اور اُس نے اپنا چھوٹا سا سر می کے سینے پر رکھ دیا اور دھیرے دھیرے سسکنے لگا۔ آنسوؤں سے می کے شب خوابی کے لباس کا گریبان بھیگ بھیگ گیا مگر می نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ رورور کر جب وہ ہلکان ہو گیا تو اسے نیند آ گئی۔

جانے کتنا وقت وہ سوتا رہا۔

”چھو۔ چھو۔“ نیند میں اس کے کانوں میں ثوبیہ کی آواز پڑی تو اُس نے آنکھیں کھول

دیں۔

”چھو چھو۔“ ثوبیہ نے می کی طرف سے نظر ہٹا کر بھائی کو دیکھ کر کہا۔

”سو سو کرنا ہے؟“ سونو نے پوچھا تو اُس نے سر اوپر سے نیچے کی طرف ہلایا۔ سونو نے نسل

خانے کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا۔  
باہر شام ہو چکی تھی۔

ٹوبیہ باتھ روم سے آ کر ماں کے پاس لیٹ گئی۔

”ممی..... مم..... ممی۔“ ٹوبیہ نے اپنی شہادت کی انگلی سے ماں کی آنکھ کھولنے کی کوشش کی..... وہ نا کام ہو کر پھر رونے لگی۔

ممی یی.....“ وہ ممی کو پکارتی ہوئی ہچکیاں لینے لگی۔

سونو بہن کو بے بسی سے دیکھتا رہا۔

”ممی اٹھئے نا..... ممی جی..... ٹوبی رو رہی ہے۔ اُسے بھوک لگی ہے۔“

وہ گلوگیر آواز میں ماں سے مخاطب ہوا..... اُسے خود بھی بھوک لگی تھی مگر جب تک اُس نے ٹوبیہ کی بھوک کا ذکر نہ کیا اس طرف اُس کا خیال نہ گیا تھا۔

اب اُسے بھوک کا احساس ہونے لگا۔

وہ ماں کے پاس سے اٹھ کر باورچی خانے میں چلا گیا۔ تمام برتن دھلے دھلائے رکھے تھے۔ کسی میں کچھ کھانے کو نہ تھا۔

اُس نے ریفریجریٹر کھولا..... اُس میں سیب رکھے تھے..... وہ دو سیب اٹھا کر کمرے میں آ گیا۔

ایک سیب کو خود کترنے لگا اور دوسرا ٹوبیہ کو پکڑا دیا۔ ٹوبیہ اسے کھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر اُس کے منہ میں اُسے آٹھ دانت سیب کے سخت چھلکے کے ساتھ انصاف نہ کر سکے اور وہ محض سیب کی سطح پر ایک آدھ نشان لگا کر رہ گئی اور چپ چاپ بھائی کو دیکھنے لگی۔ سونو نے سیب کا ایک ٹکڑا توڑ کر دیا تو وہ اُسے چبانے کی کوشش میں منہ کے اندر ادھر ادھر گھماتی رہی اور آخر کار نگل گئی۔

دونوں سیب ختم ہو گئے تو سونو ریفریجریٹر میں پڑا آخری سیب اٹھالایا..... کچھ دیر دونوں بہن

بھائی سیب پر زور آزمائی کرتے رہے۔ اس سے فارغ ہو کر پھر ممی کو جگانے کی کوشش کرنے لگے۔

ممی کچھ نہ بولی تو وہ رورور کر ممی کو ہلانے لگے۔ گھر میں اتنی گرمی تھی مگر ممی کا بدن ایک دم ٹھنڈا

پڑا ہوا تھا..... پتہ نہیں کیوں۔

پھر کسی وقت انھیں نیند آ گئی۔

دوسری صبح بھی ممی نہیں اٹھیں۔ دروازے کی گھنٹی دوبار بجی تھی۔ جس سے سونو جاگ گیا تھا۔

”جی..... ای ای ای..... کون ہے۔“ کوئی جواب نہ آیا۔ شاید مضبوط دیواروں اور بھاری

دروازے کے اُس پار اُس کی کم سن آواز پہنچ نہیں پائی تھی اور آنے والا پھر لوٹ گیا تھا۔  
 ثوبیہ نے جاگتے ہی رونا شروع کر دیا تھا۔ اور می کے پاس جا کر زور زور سے چیختے ہوئے رو  
 رو کر جب مایوس ہو گئی تو ہچکیاں لیتی ہوئی باہر آ گئی.....  
 اُس کا پھول سا چہرہ کھلا گیا تھا۔

باورچی خانے میں سونو ریفریجریٹر کھولے بغور اندر دیکھ رہا تھا۔ پرسوں کا پڑا ہوا دودھ پھٹ  
 چکا تھا۔ ثوبیہ کو قریب دیکھ کر اُس نے اُس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔  
 ”دودھ پیئے گی۔“ اُس نے می کی طرح پوچھا تھا۔  
 ”ہوں۔“ وہ زور زور سے سر ہلا کر بولی۔

اُس نے پھٹا ہوا دودھ چمچ سے ثوبیہ کے فیڈر میں ڈالنے کی کوشش میں بہت سا دودھ گرا کر  
 تھوڑا سا ڈالنے میں کامیابی حاصل کی اور فیڈر بہن کے بڑھے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا۔  
 ثوبیہ وہیں فرش پر چت لیٹ کر دودھ پینے لگی۔ جب پھٹے ہوئے دودھ کا کوئی ٹکڑا بر کے  
 نیل کا چھید بند کرنے لگتا، وہ پیرنچ پینچ کر پوری طاقت سے دودھ پینے کی کوشش کرنے لگتی اور  
 رونے لگ جاتی پھر خود ہی چُپ ہو جاتی۔

سونو نے دودھ کے کچھ بچے ہوئے چمچ خود بھی پیئے اور ثوبیہ کے پاس جا بیٹھا..... بوتل خالی  
 ہوئی تو ثوبیہ اُٹھ کر بیٹھ گئی..... پھر کھڑی ہو کر می پکارتی ہوئی خوابگاہ میں چلی گئی۔  
 سونو بھی کمرے میں آ گیا۔ اور کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑا ہو کر ماں کو دیکھنے لگا۔ می کی  
 شکل آج اچھی نہیں لگ رہی تھی۔

مسز بھسین کی جزوقتی ملازمت صبح اوپر آئی تھی تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا..... دراصل امان  
 نے اُن کے ہاں فون کیا تھا کہ بابرا کو بتادیں کہ وہ ایک دن اور رُک گیا ہے اور کل آ جائے گا۔  
 کیونکہ بابرا بہت جلد گھبرا جاتی ہے..... ملازمت سے دروازہ نہ کھلنے کی خبر سن کر مسز بھسین نے سوچا  
 تھا کہ پڑوسی کہیں گھومنے گئے ہوں گے۔ یا شاید سو رہے ہوں۔ یا جو بھی.....  
 ”ثوبی! آ جا اندر بیٹھیں۔“ سونو نے ثوبیہ سے کہا۔

”کھڑکی سے باہر دیکھیں گے۔“ وہ سر اثبات میں ہلا کر بولا.....

”نہیں..... می پاش.....“ اُس نے جھٹکے سے سرنفی میں ہلایا۔

”می تو بولتی ہیں نہیں..... تو میرے پاس آ جا۔“ وہ اداس ہو کر بولا۔ اس کا چہرہ آج پیلا نظر

آ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر پڑیاں جمی ہوئی تھیں۔

”آنا ٹوپی..... آ جا۔“ وہ دھیرے دھیرے سسکنے لگا..... ٹوبیہ ماں کے پھیلے ہوئے بازو پر سہر رکھے اپنا انگوٹھا چوستی رہی اور سر نفی میں ہلا ہلا کر بھائی کو دیکھتی رہی.....

سونو اس کے قریب جا کر اسے اٹھانے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ مٹی کے پاس سے خراب سی بو آرہی تھی۔ مٹی نہائی نہیں ناکل سے..... کپڑے بھی نہیں بدلے..... ہم بھی نہیں نہائے..... اس نے اپنا گریبان سونگھا..... وہاں اُسے پرسوں کے لگائے ہوئے بے بی پاؤڈر کی ہلکی سی مہک آئی..... اس نے پھر مٹی کی طرف دیکھا..... مٹی کی شکل بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک دو اٹنے قدم اٹھاتا ہوا دیوار سے لگ گیا۔ اس کی نظریں ماں کے چہرے پر گڑھی تھیں۔ وہ دیوار کے ساتھ چلتا ہوا کمرے کے دوسرے کونے میں پہنچ گیا..... اور دیوار سے پھسلتا ہوا فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں عجیب قسم کا خوف سا چھا رہا تھا۔ اسے نیند بھی آرہی تھی۔ مگر وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ آنکھ لگنے لگتی تو فوراً آنکھیں کھول کر ماں کے چہرے کو دیکھنے لگتا..... دور بیٹھا ہوا۔ وہاں سے ماں کے تلوے نظر آ رہے تھے اور پھر ماں کا باقی جسم۔ بعد میں چہرہ۔ ٹھوڑی سے شروع ہوتا ہوا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر رکھ دیے۔ اور..... پھر پتا نہیں کب وہ دیوار سے لگا لگا فرش پر آ گیا۔ اس کے گھٹنے اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے اور وہ سوچ کا تھا۔

صبح پھر دروازے کی کال بیل لگا تا رکھ پل بجی تو وہی بیدار ہوا۔ دروازے تک گیا اور بے چارگی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ منٹ بعد لوٹ آیا..... گھر میں ہوتا تو کھڑکی سے نانی کو آواز لگاتا۔ یہاں تو نہ وہ دروازہ کھول سکتا تھا نہ کھڑکی۔ کھڑکی کھول بھی لیتا تو اس کی آواز کون سن پاتا کہ کھڑکی سے نظر آنے والے لوگ اس کی آواز کی رسائی سے بہت دور تھے۔

آج ٹوبیہ ابھی تک سو رہی تھی۔ وہ دروازے پر ٹھہر کر ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں کا چہرہ بغیر پانی کے گلدان میں پڑے کئی دن پرانے پھول سا لگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ماں کے کچھ قریب جا کر غور سے دیکھنے لگا۔ مٹی کی شکل بدل گئی تھی۔ یہ شکل کسی اور کی تھی۔ میلے سے میا لے چہرے والی..... اس کی مٹی تو گوری تھی..... تو کیا یہ اس کی مٹی نہیں تھی..... تو کیا اس کی مٹی کی شکل کو کچھ ہو گیا ہے..... یا..... یا یہ کوئی اور ہے۔ کوئی عجیب سی شے..... انسان جیسی کوئی شے.....

ذہن میں اس خیال کے آتے ہی وہ زور سے چیخ پڑا۔ ٹوبیہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور رونے لگی۔ وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر بھاگا اور ڈرائنگ روم کے لمبے صوفے کے عقب میں

جا چھپا۔ اس کا چھوٹا سا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ ٹوبیہ کچھ دیر روتی رہی پھر اٹھ کر بھائی کو ڈھونڈنے لگی۔

”بیا۔ بیا۔“ وہ باورچی خانے میں گئی اور روتے روتے بھائی کو پکارنے لگی۔ وہاں اُس نے پا کر ڈرائینگ روم میں آگئی۔

”بیا۔ آ۔ آ“ اس نے نحیف سی آواز میں پکارا۔

سونو صوفے کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس کے خوفزدہ دل میں احساسِ ذمہ داری نے قوت بھردی۔ بہن کو دیکھ اس کے قریب چلا گیا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی ٹوبی کو بہت تیز بخار ہے۔

”بیا۔ پانی۔“ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی بولی۔

”تجھے بخار ہے..... آ جا۔ ادھر لیٹ جا..... میں پانی لاتا ہوں۔“

اس نے صوفے پر چڑھنے میں بہن کی مدد کی اور باورچی خانے کی طرف گیا۔ خوابگاہ کے قریب سے گذرتے وقت اس نے ایک ادھوری سی نظر کمرے کی طرف تیزی سے ڈالی پھر ریفریجریٹر کے پاس چلا گیا اور بوتل نکال کر پانی گلاس میں انڈیلنے لگا۔ ساری بوتل خالی کر کے ہی کہیں گلاس بھر سکا تھا۔

گلاس اور چمچ لیے وہ بہن کے پاس آ گیا اور اُسے دھیرے دھیرے پانی پلانے لگا۔ بیچ بیچ میں ایک آدھ چمچ وہ خود بھی پیتا رہا۔

”بھو کی لگی ہے؟“ اس نے نہایت محبت سے ٹوبیہ سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔

صبح جب دروازے کی گھنٹی سن کر سونو بے بسی سے پلٹ آیا تھا اس وقت مسز بھسین کے ہاں پھر امان نے ٹیلی فون کیا تھا۔ اور پھر مسز بھسین نے اپنی جزوقتی ملازمہ کو اوپر روانہ کیا تھا جو لگاتار تین چار گھنٹیاں بجا کر لوٹ آئی تھی۔

ٹوبیہ ڈرائینگ روم کے صوفے پر نڈھال پڑی تھی۔

سونو ذمہ دار بھائی کی طرح اس کے قریب بیٹھا تھا۔ بیچ بیچ میں دونوں اونگھ لیتے۔ شاید مسلسل نقاہت یا رات بھر گھٹی ہوئی آلودہ فضا میں رہنے کے باعث ان کی ایسی حالت ہو گئی تھی۔

کبھی کبھی سونو سر گھما کر چور نظروں سے بیڈ روم کی طرف دیکھتا اور جلدی سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیتا۔ وقفے وقفے سے اس کے آنسو بہہ نکلتے تھے۔

اس بار ثوبیہ جاگی تو پھر رونے لگی۔

”دودھ پئے گی ثوبیہ۔؟“ اس نے آواز میں پیار بھر کر کہا۔

”مگر دودھ تو ہے ہی نہیں۔ اچھا ٹھہر جا میں کچھ اور دیکھتا ہوں۔“ ثوبیہ نے کچھ نہ کہا۔ سونو کو خود بھی بہت بھوک لگ رہی تھی۔

وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باورچی خانے کی طرف گیا اور پلاسٹک کی میز کھینچ کر نعمت خانے کی الماری کے ٹھیک نیچے تک لے گیا۔

بسکٹ کا ڈبہ لے کر جب وہ خوابگاہ کے باہر سے گذرا تو اس نے بے اختیار سا ہو کر اندر نگاہ دوڑائی حالانکہ وہ وہاں سے سیدھا ڈرائینگ روم میں بھاگ آنا چاہتا تھا۔ کیونکہ اسے پتہ تھا اندر اس کی ممی نہیں۔ پتہ نہیں کون ہے اور کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بیڈ پر پڑی ہوئی ممی جیسی کوئی چیز جیسے دب کر پھیل گئی تھی۔ بند آنکھیں جیسے بڑے بڑے ابھرے ہوئے دائروں میں دھنسی پڑی تھیں۔ اس چیز کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ جانے کس رنگ کے تھے..... دوسرے ہی پل اس نے منہ دوسری طرف موڑا اور پوری طاقت لگا کر ڈرائینگ روم کی طرف بھاگا۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا۔ بدن پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔

شاید وہ ایک زوردار چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتا مگر بخار میں چپ چاپ لیٹی ہوئی بہن نے اس کے حواس کو قابو میں رکھا۔ چیخ اس کے ننھے سے سینے میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ بہن کے قریب چلا گیا اور باچھیں کھول کر مسکرانے لگا تو اس کے سوکھے سوکھے لب سفید ہو رہے تھے۔

”بسکٹ۔ لایا ہوں۔“ وہ تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولا۔

”کھائے گی۔“ وہ پیار سے پوچھنے لگا۔ اور ثوبیہ ٹکڑے بھائی کو دیکھتی رہی۔

(افسانوی مجموعے ”بابلیس لوٹ آئیں گی“ سے)



## پوتھی پڑھی پڑھی

بالکنی میں کھڑے ہونے کے بعد جب میں نے اوپر نظر اٹھائی تو راکھ کے رنگ کے آسمان کو دیکھتے ہی طبیعت بجھ سی گئی۔ اُداسیاں پھن پھیلائے میرے دائیں بائیں آکھڑی ہوئیں۔ مجھے خود کو ان ناگنوں کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ زندگی ٹھہر تو نہیں گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ راکھ کے رنگ کا آسمان دیکھنے کی میں عادی نہیں ہوں، مجھے تو عادت ہی ایسے آسمان تلے جینے کی ہے۔ دہائی بھر سے اوپر ہو گیا اب تو۔ بس کبھی کبھی کچھ دنوں کی چھٹیاں منانے کا موقع مل جائے یا کسی کانفرنس یا سمینار میں کہیں شہر سے باہر جانا ہو تو بات دوسری ہے۔ جب آسمان کا اصلی رنگ نظر آتا ہے۔ نیلا، فیروزہ یا کپاس کے پھولوں ایسا پسید۔ یا کالے گھنے گھنے بادلوں سے ڈھکا ہوا، جھانکتا، چھپتا۔ ایسا ہی ایک اسٹڈی ویک اٹینڈ کر کے لوٹی تھی میں صبح ایک پہاڑی مقام سے۔ بلکہ ایک حسین ترین پہاڑی علاقے سے۔ کوئی چھ دن بعد۔

رات ٹرین کے آرام دہ کمپارٹمنٹ میں سوئی رہی۔ مگر شاید تین یا ساڑھے تین گھنٹے۔ حالانکہ میرے پاس سونے کے لیے پورے آٹھ گھنٹے تھے۔ مگر نیند نہیں آرہی تھی۔ مجھے پہاڑ پر گزری ہوئی شاموں کا خیال آ رہا تھا۔ یہاں ایسی یکسوئی سے شام گزارنا ممکن ہوتا تو یہ اُداسیاں میرے ارد گرد..... اس طرح.....

جب میں پہاڑ پر پہنچی تو صبح کاذب کے چہرے سے سیاہ نقاب سرکنے والی تھی، ہوا میں خنکی تھی، اور خنکی میں رچی می نے یہ احساس دلایا کہ آس پاس ہی کہیں صبح منتظر کھڑی ہے۔ اس بار میرے ساتھ کئی چیزیں پہلی بار ہوئی تھیں۔ میری نیند گہری نہیں ہوتی مگر چونکہ پہلی بار شب کا سفر کیا تھا اس لیے گھڑی اتار دی تھی کہ شاید تکان کا مارے نیند گہری آئے اور کوئی چور وور.....

میں نے سفری بیگ کی زپ سے لگانھا سا تالا کھول کر گھڑی نکالی تو چار بجنے میں ۱۰ منٹ باقی تھے۔ یہ بھی پہلا موقع تھا کہ میں سحر کے وقت کسی پہاڑی مقام پر کمرے سے باہر تھی۔ یہ سفر بھی

میرا پہلا تنہا سفر تھا۔ پہلی بار میں نے سحر کی بھیگی ہواؤں کی خوشبو محسوس کی تھی۔ نیند کی کمی سے بوجھل سلگتی آنکھوں میں ایسی ٹھنڈک پڑی جیسے یعقوب کو یوسف کا لباس چھو جانے سے۔ تھکن سے چور بدن میں تازگی کی لہر دوڑ گئی، جیسے آٹھ نو گھنٹے آرام کیا ہو۔ جی چاہا کہ سامان گیٹ ہاؤس کے چوکیدار کے حوالے کر دوں اور خود وہیں اس مختصر سے زینے کے کنارے پر بیٹھ کر شبنم میں بھیگ جاؤں۔ تو یہ ہوتا ہے سحر کا سحر۔ نئی زندگی جیسا، نئی روح ایسا۔

میں لمبے سانس لیتی ہوئی آسمان پر چمکتے ستاروں کو تکتے لگی۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو خود ہی سامان اٹھا کر اندر کی طرف چل پڑا۔ اس کا اوجھل ہونا تھا کہ میں نے اپنے نرم گرم شال کو ڈپٹے کی طرح گردن سے لگا کر شانوں کے پیچھے پھینکا اور باہیں آسمان کی طرف پھیلا کر ایک پاؤں پر ایک دائرہ ناچ لی، جیسے کہ آسمان سے ستارے ٹوٹ کر میرے ہاتھوں میں آیا چاہتے ہوں۔ ہوا سرد مگر فرحت بخش تھی۔ میرے ہونٹوں پر جانے کب سے ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اپنے اندر مجھے ایک غیر یقینی سی خوشی اور توانائی کا احساس ہوا تو مجھے خیال آیا کہ داناؤں نے اسی لیے نسیم سحر کی اس درجہ پذیرائی کی ہے۔ اور اس مقام کی سحر..... بات دو آتشہ ہو گئی۔ اگر صبح اتنی دلربا ہے تو شام کیسی جادو بھری ہوگی۔ جب طیورا اپنے اپنے آشیانوں کی طرف پرواز کرتے ہوئے آپس میں چہلیں کرتے ہوں گے۔ میں کمرے کی بالکنی میں کرسی پر بیٹھ کر کافی کا گرم گرم گگ ہاتھوں میں تھامے انھیں دیکھوں گی اور ساتھ ساتھ حنا سے باتیں بھی۔

ادہ! میں تو بھول ہی گئی۔ اس بار ایک اور نئی بات بھی ہوئی تھی۔ حنا میرے ساتھ نہیں تھی۔ اس کے بغیر میں زندگی بھر کبھی کہیں نہیں گئی۔ کبھی کبھی اپنی پرانی تصویریں دیکھا کرتی ہوں۔ چاند سے چہرے والی حنا کی گود میں ننھی سی، گل گوتھناسی میں۔ رنگ برنگے پھولوں والا فراک پہنے ہوئے۔ دونوں ٹخنوں میں چھم چھم کرتی ہوئی، بے شمار گھنگھروں والی پازیبیں پہنے۔ یہ پازیبیں میں نے حنا کے جنم دن پر پہنائی تھیں اسے۔ ہاں یاد آیا۔ تصویر میں چاند سے چہرے والی وہ لڑکی حنا نہیں، میں ہوں اور میری گود میں حنا پائلیں پہنے ہوئے، حنا نے بولنا بہت جلد سیکھ لیا تھا۔ اور چلنا بہت دیر سے۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ بہت ذہین ہوتے ہیں جلد بولنے والے بچے۔ اور چلی تو وہ سال بھر سے کچھ اوپر ہو گئی جب ہی۔ پازیبیں پہنے ہوئے جب وہ گول نرم پاؤں اٹھا کر تھپ تھپ آوازیں پیدا کرتی ہوئی چلتی تو فضا میں ایک لطیف سا ترنم چھڑ جاتا۔ گھنگھریاں چھن چھن جھن اور دھپ کی آواز کے ساتھ ایک دم بند ہو جاتیں۔ اور میں کان کلکار یوں پر لگا دیتی۔ بھاگ کر اسے گود میں اٹھا لیتی۔ وہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھے دوسری آنکھ سے میری راہ دیکھتی ہوئی ناز بھری آواز



میں پکار چھیڑ دیتی۔

”ماریں گے۔ ماریں گے اس فرش کو ہم۔ ہمارے بچے کو چوٹ لگا دی،۔؟ گرا دیا۔؟ بہت خراب بات ہے۔ بہت خراب۔“ میں ایک پاؤں دو چار بار فرش پر پٹختی اور اس کی ایک آنکھ کے پاس بسیار محنت کے باوجود بھی نہ آیا ہوا آنسو جھوٹ موٹ پونچھ کر سینے سے لپٹائے اپنے پاس لے آتی۔ وہ اپنی منی منی باہیں میرے گلے سے لپٹائے رکھتی۔ میں لکھنے کی میز کے پاس آئی تو وہ میرے زانوں پر بیٹھی رہتی۔ میز کو زور زور سے تھکتی، پھر پتہ نہیں کب گود سے اتر جاتی۔ وہ جب چاہے گود سے نکل جاتی تھی۔ چاہے میں کسی بھی زاویے سے اسے لیے رہوں۔ پکڑ کر کچھ کھلاؤں، دبوچے رکھوں مگر جانے کس طرح وہ بغیر روئے، شور مچائے، ہنستی ہوئی، اچانک مچھلی کی طرح..... نہیں..... مکھن کی ڈلی کی طرح ہاتھوں سے پھسل جاتی۔

وہ کبھی روتی نہیں تھی۔ میں گھنٹوں اسے اپنے ساتھ کبھی کہیں، کبھی کہیں بٹھائے رکھتی۔ ہال میں یوں بیٹھتی جیسے میں نہیں وہی ان کانفرنسوں اور سمیناروں میں شریک ہونے آئی ہو۔ خاموش دیکھتی، سنتی ہوئی۔ میری مختصر سی دنیا کی تکمیل میں اس کے مزاج کا بھی ہاتھ تھا اور نہ عنظر سے علیحدگی کے بعد شاید میں بھی کچھ سوچتی۔ مگر میری اس دوست اور رفیق نے مجھے کبھی احساس تنہائی نہ ہونے دیا۔ ہر حال میں میں نے اسے صبر و شکر کی تصویر پایا۔ میں اگر مصروف ہوں اور اس کے دودھ کا وقت ٹل رہا ہے تو وہ چپ چاپ شہادت کی انگلی منہ میں ڈالے ساکت لیٹی چھت کو تکا کرتی۔ میں آتی تو مسکرا دیتی۔

وقت کو ایک کام بہت اچھی طرح آتا ہے۔ پر لگا کر اڑنا۔ وقت میرے دیکھتے دیکھتے اڑ گیا۔ حنا کے ہاتھوں میں مہندی رچی۔ وہ چلی گئی۔ میری حنا مکھن کی ڈلی کی طرح ہاتھوں سے نکل گئی۔ میرے زندگی کے سارے رنگ ساتھ لے گئی اور میں ایک بار پھر Single Woman بن گئی۔ بلکہ ایک بار پھر یتیم ہو گئی۔

نظمی اچھا لڑکا ہے۔ کینیڈا میں ڈاکٹر ہے۔ ڈاکٹر لڑکی کے لیے ڈاکٹر شوہر ہی موزوں رہتا ہے میرے خیال میں۔ سال بھر بعد واپس لوٹیں گے دونوں۔ پھر یہیں رہائش رہے گی۔ مجھے چار بیڈروم کے فلیٹ کا کیا کرتا ہے۔

مگر ابھی تو حنا کو گئے ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا۔

”کیا جلدی تھی آپ کو میری شادی کی۔ میں ایم ڈی کر لیتی۔“ وہ مہندی کی رات کو میرے گلے سے لپٹ کر لاڈلی سی آواز میں بولی تھی۔ گلے کی آمیزش کے ساتھ ہلکا ہلکا احتجاج لیے ہوئے۔

”میں تو سمجھی تھی تم بہت خوش ہو اس رشتے سے۔“ میں روہانسی ہو کر بولی تھی۔  
 ”دکھی بھی نہیں ہوں۔ مگر میں نے سوچا کہ آپ اتنی خواہش مند ہیں مجھے دلہن بنانے کی تو۔“  
 اس نے میرے گلے سے باہیں الگ کر کے نیچے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اصل میں میں نے اسے نظمی  
 کی Company میں بہت خوش دیکھا تھا۔ یا ایسا سمجھا تھا کہ جب وہ آتا تو خوب قہقہے لگتے۔ حنا  
 باورچی خانے میں میرا ہاتھ بٹاتی۔ مجھے کھینچ کھینچ کر ڈرائنگ روم میں لے جاتی اور لطیفوں اور  
 دلچسپ واقعات میں شریک کرتی۔ ہنستی ہنساتی رہتی۔  
 اور میں یہ سمجھی کہ..... یہ سوچ کر کہ کہیں اس کی خوشیوں میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میں نے  
 جلدی میں رشتہ.....

رخصتی کے دن میں اسے کتنی باتیں کہنا اور سمجھانا چاہتی تھی مگر وہ الٹا مجھے ہی سمجھائے جا رہی تھی۔  
 ”سیماکے پارلر سے بال نا بنوائے گا امی..... وہیں جائیے گا حبیب کے ہاں..... برباد  
 کر دیتی ہے وہ آپ کے بال..... اور ہاں امی یہ جنریٹر بدلوادیتے گا۔ میں کب سے کہہ رہی  
 ہوں۔ دیکھئے اس کی ڈوری آپ سے کھنچے گی نہیں..... ہاں..... بازو دکھے گا تو لکھیں گی کیسے.....  
 رخسانہ کو کہیے گا کہ اپنے بیٹے کو یہیں لے آئے۔ گھر نہ جایا کرے شام کو۔ اب اس فلیٹ میں آپ  
 اکیلی ہوں گی تو.....“ وہ زور زور سے بولتی ہوئی اچانک خاموش ہو جاتی۔ مجھے سینے کے اندر سے  
 دھپ کی آواز سنائی دیتی..... پازیب کی جھنکار بند ہو جاتی تو میں اس کی طرف غور سے دیکھتی..... وہ  
 رندھی ہوئی آواز کو کامیابی سے قابو میں لاتی ہوئی کہتی..... ”اب اکیلی ہیں تو.....“ وہ جیسے کچھ  
 نگلتی..... ”تو یہ ٹانگ لینا مت بھول جائیے گا۔ اس میں کیلشیم اور وٹامن کے ساتھ ساتھ بی  
 کا مپلیکس اور آرن بھی ہے۔“

”افوہ..... بتایا ہے نا تم نے مجھے کئی دفعہ میری اماں۔“ میں مجروح سی آواز پر ہنسی کا بینڈ ایڈ  
 (Bandaid) چپکا کر کہتی۔ اور وہ اور میں دونوں ہنس دیتے۔ اور شادی میں آئے مہمان بھی۔ ہم  
 دونوں کے علاوہ اپنی اپنی اور ایک دوسرے کی حالت کا اندازہ کسی کو نہ ہوتا۔

پچھڑتے وقت وہ زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑائی تھی۔ شاخ گل سا سجا سنورا اس کا نازک  
 سا وجود ہریچکی کے ساتھ ہچکولے کھاتا۔ میں اسے سنبھالنے کے بہانے خود طوفان کی زد میں آئی  
 نیاسی ڈولتی، لبوں تک آئے دم کو قابو میں رکھے، اسے وداع کر آئی۔ اور جب سے۔ جب سے  
 اب تک۔ نسیم سحر سے دوستی ہونے تک ماہی بے آب سی تڑپتی رہی۔ رخسانہ اپنے بچے کو لے کر  
 ہمارے ہاں آگئی ہے۔

حنا کے جانے کے بعد میں پہلی بار گھر سے نکلی ہوں۔

ہوا تیز چلنے لگی تھی۔ ہاتھوں اور پیروں میں ٹھنڈی محسوس ہوئی تو میں نے گلے سے لپٹی شال پھیلا کر اوڑھ لی۔ قریب ہی سے کوئی کوٹا بول اٹھا۔ لہراتی ہوا میں پھولوں کی مہک شامل ہو گئی تھی۔ میں نے دور نظر دوڑائی۔ پہاڑوں کے قریب آسمان کی سیاہی میں نیلا ہٹ گھلا چاہتی تھی۔ سامنے ایک کشادہ باغیچہ تھا۔ میں نے کیاریوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایک چکر کاٹا۔ میرے بال پھر کھل گئے تھے۔ چاہے کسی بھی انداز سے بناؤں میں انھیں مگر یہ اس قدر ملائم ہیں کہ جوڑا پھسل پھسل جاتا ہے۔ موباف سے نکل آتے ہیں اور ہیر پن ڈھیلا ہو کر گر جاتا ہے۔ جیھی تو حنا نے انھیں ترشوالیا تھا۔ اب کچھ بے ترتیبی سے بڑھے ہوئے تھے تو میں نے انھیں ربر بینڈ میں سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ مگر اس وقت پھر ربر سے کسی طرح پھسل کر..... اگر حنا ہوتی تو سفر سے پہلے ضرور میرے بال سیٹ کروا لیتی۔

میں نے کمر اتو دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے اندر جانا ہوگا۔ اس منظر کو چھوڑ کر.....

فرحت دیدن گل آہ کہ بسیار کم ست

آرزوئے دل مرغان چمن بسیار ست

میں اندر جاتے ہی حنا کی تصویر میز پر سجادوں کی۔ دن میں کئی کئی بار تو دیکھتی ہوں میں اس کی تصویر۔ اور کل رات سے میں نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اندر جانا چاہیے۔ میں زینے کی طرف مڑی تو پیچھے سے مجھے کسی کے دوڑنے کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی ہلکی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ اسپورٹس شوز اور ٹریک سوٹ میں۔ داڑھی سفید تھی اور سر کے لمبے سفید بال جوڑے کی شکل میں سر کے اوپر ایک رومال میں بندھے ہوئے تھے۔ مگر انداز خاصا پھر تیرا تھا۔ میں نے قدم آگے بڑھایا تو آواز آئی۔

”گڈ مارننگ۔“ وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے مخاطب تھے اور آواز میں سانس کا تیز اتار

چڑھاؤ واضح تھا۔

”گڈ مارننگ۔“ میں نے جلدی سے کہا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بدلتے موسموں کی مہربانی سے مجھے اس قدر محتاط رویے کو خیر باد کہہ دینا چاہیے تھا۔ مگر مجھ میں کم اور حنا زیادہ نظر آتی۔ لوگ کہتے تھے۔

اس لیے میں اس فطری احتیاط سے دامن نہ چھڑا سکی تھی.....

حنا کی میرے شانے پر رخسار رکھے کھنچی تصویر کو بوسہ دے کر میں نے کپڑے الماری میں

ہنگروں پر لٹکا دیے۔ گرم پانی سے غسل کیا اور اُس ذی الجلال مبین کو یاد کیا۔

ڈاننگ ہال میں خاصے لوگ تھے۔ ۴۰ اور ۷۰ کے آس پاس کے سن کے۔ جیسے کہ اس طرح کے، یونیورسٹیوں کے بعد تو سچی تعلیم کے اداروں سے متعلق اشخاص ہوا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے شناسائی تھی۔ کچھ اجنبی تھے۔ ایک میز پر صبح والے سردار صاحب لطیفے بنا رہے تھے۔ ایک خاتون میری پہچان کی نظر آئیں۔ جو ہال میں کئی لوگوں سے واقف نظر آ رہی تھیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی میرے پاس چلی آئیں۔

”نمسکار رتو جی۔“ سردار صاحب رتو شریواستو سے مخاطب تھے۔

”ارے آپ..... کیسے ہیں، آئیے نا۔“ رتو نے کرسی کھینچی۔

”یہ فوزیہ سلیمان ہیں۔ بہت اچھی قلم کارہ..... فوزیہ! یہ تبسم صاحب ہیں۔“

رتو نے مجھ سے کہا ”سریندر سنگھ تبسم۔“

”آداب محترمہ..... میں نے شاید آپ کو صبح دیکھا تھا۔ تعلیمی ہفتے میں شرکت کے لیے

تشریف لائی ہیں۔ زہے نصیب۔“ وہ میری طرف دیکھ کر کرسی پر ہاتھ دھرے کھڑے رہے۔ میں نے بھی اٹھ کر تسلیم کیا۔

”فوزیہ تم حیران ہو گی کہ سردار صاحب اور یہ نفیس اردو۔ آپ دراصل انگریزی کی پروفیسر

شپ سے ریٹائر ہوئے ہیں، پنجابی میں کئی ناول تحریر کیے ہیں، اردو کے کچھ بڑے بڑے ناولوں کا ترجمہ کیا ہے۔“ رتو نے کہا تو تبسم صاحب نے فوراً بات کاٹی۔

”رتو جی کیا پورا باؤ ڈاٹا ہی پیش کر دیں گی۔“ سردار صاحب خوش دلی سے ہنستے ہوئے بولے۔

”اور کیا ہو رہا ہے آج کل سر۔“ رتو نے پوچھا۔

”پنجابی ادب کی تاریخ پر کتاب لکھ رہا ہوں۔ اب تو سال بھر سے یہیں ہوں۔“ یہ کہہ کر وہ

کچھ خاموش ہو گئے۔

جب ہم لوگ سمینار روم میں داخل ہو رہے تھے تو تبسم صاحب مختلف لوگوں سے مل رہے

تھے اور دوسروں سے بھی ملوا رہے تھے۔ جس کا ذکر کرتے، اس کی صدق دلی سے تعریف بھی کرتے۔

کسی کی چھوٹی سی خوبی کو بڑھا چڑھا کر سراہتے۔ اور ایسا کرتے ہوئے ان کے چہرے پر پُر خلوص

سے تاثرات چھا جاتے۔

دن دلچسپ گزرا۔ تازہ ہوا میں۔ کام۔ پڑھے لکھے لوگ۔ مباحثے، ہلکا پھلکا لہجہ..... اور لہجہ کے

فورا بعد مقررین کو سنتے ہوئے، سوچنے کے بہانے پل دوپل کی جھپکیاں لیتے ہوئے حاضرین۔  
شام کو کمرے میں لوٹی۔ کچھ کتابوں کو دیکھا، کچھ مقالے کو بھالا۔ بالکنی میں آئی۔ غروب  
آفتاب کا بہترین منظر نظر آ رہا تھا۔ بھٹی میں تپے ہوئے گھڑے ایسا قرمزی رنگ کا خورشید اپنی  
جسامت سے بڑا نظر آ رہا تھا۔ ایک پرندہ سورج کے کہیں قریب ہی چکر کاٹ رہا تھا۔ باقی پرندے  
ٹولیوں میں بٹے جیسے سورج کے آس پاس پرواز کر رہے تھے۔

”حنا ذرا باہر تو آنا۔“ میں نے پلٹ کر حنا کو پکارنا چاہا۔ آواز زباں بنتے بنتے لوٹ گئی۔  
کتنی خاموشی تھی۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لوگ شاید مارکیٹ کی طرف گئے ہوں

گے۔

تبسم صاحب کہیں سے آ رہے تھے۔ اسپورٹس شوز پہنے ہوئے۔ مگر اس وقت ان کی چال  
میں صبح والی چستی نہیں تھی۔ آہستہ چل رہے تھے۔ دونوں طرف پیڑوں اور سبزے کو دیکھتے  
ہوئے۔ بیچ بیچ میں رُک بھی جاتے۔ شاید کسی ٹھینگر پر غور کرنے کے لیے۔ ہاتھ میں ایک پتلی سی  
چھڑی تھی۔ جسے کبھی گھماتے اور کبھی عصا کی طرح ٹکتے۔

بالکنی کے سامنے سے گزرے تو ہاتھ سے ویو کیا۔ میں نے بھی جواب میں ہاتھ ہلایا۔ کوئی  
گھنٹہ بھر بعد جب میں لائبریری کی طرف جانے لگی تو تبسم صاحب سامنے سے آتے دکھائی  
دیے۔ سر جھکائے ہوئے، جیسے کسی سنجیدہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں ہوں۔ کچھ غمزہ سے بھی  
نظر آ رہے تھے۔ یا شاید طبیعت ناساز ہو۔

”آداب آداب۔“ مجھے دیکھتے ہی بولے۔

”آداب۔“

”چائے پی جائے؟ اگر Free ہوں توں.....“ آداب کہتے وقت ان کے چہرے پر رونق  
سی آ گئی تھی۔ چائے پینے کا خیال ظاہر کرتے وقت رونق ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی میں تبدیل ہو گئی  
تھی۔ اور آخری جملہ کہتے ہوئے وہ اس قدر اداس نظر آنے لگے کہ معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ ہی دیر  
میں رونے والے ہوں۔

”رتو بازار گئی ہے۔ بس ذرا آ جائے تو۔“ میں نے سڑک کی طرف دیکھ کر کہا۔

”جب تک ہم ڈائینگ ہال کی طرف چلتے ہیں؟“ انھوں نے اس انداز سے کہا جیسے انھیں

یقین ہو کہ میں ہال کی طرف جانے والی نہیں ہوں۔

”آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا۔“ میں نے آہستہ سے پوچھا۔

”ہاں..... جی ہاں..... شام کو بس..... انسان جیسے بیمار سا ہو جاتا ہے یہاں۔“ وہ کچھ ایسے بولے جیسے کوئی مہلک مرض چھپا رہے ہوں۔

”دن میں خاصے ایکٹو تھے آپ..... اس وقت۔“

”نہیں تو..... میں بالکل ٹھیک ہوں..... بہت بہت شکر یہ۔“

”آپ سیر کے بہت شوقین معلوم ہوتے ہیں۔ ویسے انسان یہاں سیر نہ کرے تو پھر اور

کہاں کرے..... یہ تازہ ہوائیں..... ہریالی۔“

میں نے سوال کے ساتھ خود ہی جواب جوڑ دیا۔

”جی ہاں..... مگر اب سیر بھی کتنی کرے انسان..... میں دراصل دیکھ رہا تھا کہ یہ سب لوگ.....

شاید کوئی مل جائے۔ باتیں داتیں ہوں، چائے ہو۔“ ان کی آواز میں کرب سا اثر آیا تھا۔

حنا آج بے طرح یاد آ رہی تھی مجھے۔ وہ ساتھ ہوتی تو ہم دونوں اس لمبی سڑک پر ایک طویل

چکر لگا آتے۔ بہت سی باتیں کرتے ہوئے۔ ان چار دنوں کو اور خوبصورت طرح سے گزارنے

کے پروگرام بناتے ہوئے..... مگر یہاں دور تک نیم انسانی صورتوں میں صرف سیاہ لنگور نظر

آ رہے تھے۔ Study Week کے بڑے سے سینر پر ایک قمری چونچ بھیجے، اپنے ننھے، بھورے

رنگ کے مہین مہین پروں والے حلقوں کو جنبش دیتی ہوئی کک۔ کک کی صدائیں لگاتی ہوئی اپنے

چھوٹے سے سر کو ہلا کر ادھر ادھر دیکھتی ہوئی جانے کے پکار رہی تھی۔

اگر اس کا حلق پھولتا پچکتا نہیں تو اس کی بند چونچ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا ہرگز ممکن نہ تھا کہ یہ

صدائیں وہی لگا رہی ہے۔ یہ آوازیں فضا میں کچھ اس طرح تحلیل ہوتیں جیسے کہیں دور سے سنائی

دے رہی ہوں۔ سامنے ایک شخص چائے کے خالی برتن لے کر کسی کمرے سے نکل رہا تھا۔

”دراصل یہاں..... ان پہاڑوں پر شامیں اُداس ہوا کرتی ہیں۔“ تبسم صاحب نے ڈوبی

ڈوبی سی آواز میں کہا۔

”ہاں، واقعی۔“ جانے یہ جملہ میں نے فوراً ہی کیوں کہہ دیا۔

”آپ کو بھی محسوس ہوا نا.....“ وہ انگلی میری طرف اٹھا کر بولے۔

”شام گزارنا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہے۔“ یہ کہہ کر وہ خاموش

ہو گئے۔ اور کہیں دور دیکھتے ہوئے چلنے لگے۔

دور سے رتو کسی کے ساتھ آتی دکھائی دی تو میں بھی تبسم صاحب کے ساتھ چلنے لگی۔

”شام گزارنے کے لیے کوئی دلچسپ سا مشغلہ ڈھونڈ لیجئے نا۔“ میں نے کہا۔

”ہاں سوچا تھا۔ بلکہ دو مہینے پہلے جب آفریدی صاحب..... تھے تو..... سوشیا لوجسٹ، آپ جانتی ہوں گی مشہور ماہر سماجیات ہیں..... وہ اور میں بیڈ مینٹن کھیلا کرتے تھے ہر شام..... وقت کیسے گزرتا یہ ہی نہ چلتا۔“ تبسم صاحب کے چہرے سے خوشی پھوٹنے لگی۔ ”مہینہ بھر خاصے پنکچول رہے ہم۔ کبھی کبھی سہ پہر بھی ساتھ گزرتی۔ مگر پھر وہ چلے گئے.....“ ان کا چہرہ بچھ سا گیا۔ مگر دوسرے ہی پل لوگوں کو بازار سے لوٹا دیکھ کر وہ کھل اٹھے۔

”وہ دیکھئے آپ کی رتو جی بھی آرہی ہیں۔ یہ خاتون جو ان کے ساتھ ہیں یہاں فیلو ہیں ایک عرصے سے۔ بہت مصروف رہتی ہیں۔ آج مدت بعد نظر آرہی ہیں یہ شام کے وقت۔ ورنہ بس لنچ ڈنر وغیرہ میں۔ ادھر دیکھئے کچھ ہمارے یار لوگ بھی آرہے ہیں پیچھے پیچھے۔“ آخری جملہ کہتے وقت ان کی آواز کی چہک نمایاں ہو گئی تھی۔

کبھی ساتھ ساتھ ڈائینگ ہال پہنچے۔

”یہ مسز رتو دیدی ہیں۔“ رتو نے کہا تو میں نے آداب کہا۔

”رتو کہتی ہے تم بہت اچھا لکھتی ہو۔“ انھوں نے محبت اور اپنائیت سے کہا۔

”بور تو نہیں ہوئیں نا یہاں۔“ انھوں نے پوچھا۔

”جی بس ذرا سا کسی وقت..... رتو بھی نہیں تھی نا..... تو۔“

”رتو..... میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ پھر ہم ذرا بازار کی طرف ہو لیے۔ مجھے کچھ پھل وغیرہ

خریدنے تھے اور اسے پیہ نہیں کیا کیا۔“ مسز رتو دیدی ہنس دیں۔ وہ ایک دہلی پتلی جسامت کی چھتر

چھتر کے بن کے مشفق سی خاتون تھیں۔ صاف رنگ۔ گہری گہری آنکھیں۔ بال چند ایک کو چھوڑ

کر سب سفید۔ چہرے پر لکیریں ہی لکیریں مگر باریک، جو جلد میں پڑی تھیں۔ گہری جھڑیاں نہیں۔

مسکراتیں تو بچوں کی سی معصوم نظر آتیں اور بات کرتیں تو محبت کے سارے معنی سمجھ میں آنے

لگتے۔

”آپ تو کبھی بور نہیں ہوتیں میڈم.....!“ تبسم صاحب سب کی طرف باری باری دیکھ کر

مسکراتے ہوئے بولے۔ ان کا چہرہ خاصا باشاں نظر آ رہا تھا۔ اس سوال میں مجھے بھی دلچسپی تھی۔

”پہلے پہل جب شہر سے ایک دم یہاں آئی تو..... خالی خالی سا لگتا۔ ادھر گھر میں بھی بچے

اپنی اپنی دنیاؤں کے ہو گئے تھے۔ کچھ ایسا فرق بھی نہیں پڑا مگر پھر بھی یہ سکوت کہیں اندر سے

خاموش سا کر دیتا۔ حالانکہ دن خاصی مصروفیات میں گزرا کرتا اور کرنے کو اور بھی بہت کچھ ہوتا۔ مگر

پھر بھی ایک احساس تنہائی سارے وجود پر مسلط رہتا۔ سینارو وغیرہ ہوتے تو چہل پہل ہوتی..... مگر

میں نے خود کو کبھی اداس نہیں ہونے دیا۔“

”پھر.....؟“ تبسم صاحب ہمہ تن گوش تھے۔

”بتاتی ہوں بھئی.....“ وہ ہنس دیں۔ شفاف سانپا تلا قہقہہ۔

”اگر دیکھا جائے تو انسان ہمیشہ اپنا بار اٹھاتا پھرتا ہے۔ بچپن میں انجانے میں اور بڑا ہو کر دانستہ..... کوئی بھی ساتھ چل پڑے تو وہ اپنے وجود کو خود ہی اہم سمجھنے لگتا ہے..... بڑے بڑے الفاظ میں اسے موہ مایا وغیرہ کہا جاسکتا ہے۔ ورنہ صاف الفاظ میں یہ دوسروں پر انحصار کرنے والی بات ہے، اور کچھ نہیں۔“

”مگر یہ بات دماغ کہاں قبول کرتا ہے میڈم۔“ تبسم صاحب افسوسناک سے لہجے میں بولے۔  
 ”آپ کو تو کوشش کرنا چاہیے۔ اور آپ اپنے ذہن کو تیار کر سکتے ہیں اس بات کے لیے۔ اصل میں ہم جس طرح رہنا چاہتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھ میں ہے۔“  
 ”جیسے؟“ رتو بولی۔

”وہ اس طرح کہ جو ہمیں میسر ہے۔ ہم اس کے مطابق اپنی ضروریات وضع کر لیں۔ میں نے بھی ان باتوں کی معراج یہاں آ کر ہی حاصل کی۔“

”مگر میرے ساتھ الٹا ہوا ہے۔ میں یہاں آ کر.....“ تبسم صاحب کچھ کہتے کہتے رُک گئے۔  
 ”میں یہ ہی تو کہہ رہی ہوں۔ میں بھی دن بھر کے کام کے بعد شام میں ایک لمبا چکر لگا آنے کے باوجود وقت کو منہ پھاڑے کھڑا دیکھتی۔ اور رات کے کھانے تک کا وقفہ جب بھی طویل محسوس ہوتا۔ اب چونکہ لکھنے پڑھنے کے کام کا زیادہ حصہ میں رات میں کیا کرتی ہوں۔ اس لیے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ شام کیسے گزاروں۔“

”میری سمجھ میں آ گیا“ رتو چٹکی بجا کر بولی ”کھیل کر یا کوئی میگزین دیکھ کر یا..... یا پھر بازار گھوم کر.....“

”کھیلنے کے لیے بھی ساتھ چاہیے کسی کا..... ہے نا..... صبح سیر کر لیتی ہوں لمبی سی۔ پھر ذرا سی شام کو بھی..... پھر بھی..... یہ وقت..... اخبار رسالے وغیرہ میں ناشتے کے وقت کے آس پاس دیکھ لیا کرتی ہوں۔“ وہ سمجھانے کے انداز میں ہاتھ میز سے ذرا سا اٹھا کر بولیں۔ ان کی سفید کالی مہین مہین لکیروں والی ساری ان کے بالوں سے نہایت پروقار سے انداز میں میل کھا رہی تھی۔ اور ان کی مسکراہٹ کا اسرار انھیں عجیب طرح کا تقدس بخش رہا تھا۔

”عبادت کر کے۔“ میرے منہ سے اچانک نکلا۔



”سیانی ہے۔“ مسز ترویدی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔

’عبادت صبح تو کرتی ہوگی.....‘ انھوں نے پوچھا ”ہر ایک کرتا ہوگا اپنے اپنے طور سے..... کچھ نہ کچھ..... ہے نا.....“ انھوں نے باری باری سب کی طرف دیکھا۔

”کچھ دیر ذرا گہرائی سے اس کا تصور کر کے دن شروع کرے انسان تو من پر سکون، شانت رہتا ہے۔ جیسے ہم نے ہر کام اس کو سونپ دیا ہو۔ وہ جو ہر چیز پر قادر ہے.....“ انھوں نے اوپر کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہا۔

”ہمارے سوچنے سے کیا ہو سکتا ہے۔ اُداس ہو کر ہم دوسروں سے ذرا ذرا سا پیار اور اہمیت مانگ کر وقت گزارا بھی کریں تو تمہی دامن ہی رہتے ہیں۔ خوشی کے لیے ہم دوسروں پر منحصر ہوں۔ اس سے بڑی نادانی کیا ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے بہتر کر سکیں۔ خود کے لیے..... دوسروں کے لیے..... چلیے دوسروں کے لیے بہتر نہ بھی کریں۔ مگر کسی کو تکلیف بھی نہ دیں..... اور باقی اُس پر چھوڑ دیں۔ اُس کے ہو جائیں تو خوشی اندر سے، ہمارے دلوں سے پھوٹی ہے۔ ہمیں اس کی تلاش میں مارا مارا نہیں پھرنا پڑتا۔ صبح اُس کا ذکر کرتے ہیں۔ یا کبھی بھی کرتے ہوں۔ ذرا سا شام کو بھی دھیان کر لیں تو جو بیسوں گھنٹے پھل ہو جاتے ہیں۔ جو وقت اذان کا ہوتا ہے، آرتی کا ہوتا ہے، ارداس کا پاٹھ کا، کچھ بھی کہہ لیجیے۔ جب سورج اپنا فرض نبھا چکتا ہے، رات اپنی حکمرانی پر آیا چاہتی ہے۔ ماحول میں شور بھی کم ہوتا ہے۔ کتنا حسین وقت ہوتا ہے وہ۔ اب اُس کا ذکر آپ اگر شام کو بھی کرتے ہیں تو ذرا اور زیادہ وقت کے لیے کر لیا جائے۔ وقت بچا کر تنہائیوں کے سپرد کیوں کیا جائے۔ اُس سے لو کیوں نہ لگائی جائے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ وقت گزارنے کے بہانے نہیں ڈھونڈیں گے، وقت ہی آپ کا منتظر ہوگا۔ باہر کی منفی طاقتوں کو اپنے اندر کے سکون پر حملہ کرنے کی اجازت بھی کیوں دیں گے۔ اپنی اندر کی طاقت سے اسے پسپا کر دیجئے۔ ذرا سا باہر سے لوٹ کر اپنے اندر سمٹ آئیے۔ اپنے اور اس پر مٹکتی، اس محبوب حقیقی..... اُس سچے پریمی کے اور قریب ہو جائیے۔ پھر بس سکون ہی سکون..... آپ خوشیاں مانگیں گے نہیں، بانٹیں گے۔ آپ کا اندر روشن رہے گا اور آپ یہ روشنی دوسروں کو دیں گے۔“ انھوں نے دونوں ہاتھ میز پر ادندھے رکھ دیے اور مسکراتے ہوئے ہمارے چہروں کا جائزہ لینے لگیں۔

جب ہم لوگ راہداری سے گزر رہے تھے تو رتو میرے ساتھ چل رہی تھی اور تبسم صاحب اور مسز ترویدی آگے آگے۔

”جب بھی ان کے ساتھ ہوتی ہوں تو مجھ پر کسی نئی خوشی کا انکشاف ہوتا ہے۔“ رتو بولی تو تبسم

صاحب پیچھے مڑے۔

”اس لیے کہ زندگی پرانی ہو جائے تو جینے کے لیے نئے طریقے چاہئیں۔ مجھے یہ راز پہلے معلوم ہوتا تو سال بھر سے اپنی شامیں بندروں سے گفتگو میں برباد نہ کرتا۔“ انھوں نے زوردار قہقہہ لگایا۔ پہاڑیوں سے ٹکرا کر ان کا قہقہہ ہمارے پاس لوٹ آیا تو ہم سب بھی ہنس دیے۔

سمجھے تو گھر میں رہے پر سا پلک لگائے

تیرا صاحب تجھ میں انت کہو مت جائے

کبیر نے کہا ہے۔“

مسز ترویدی نے مڑ کر ہمیں دیکھتے ہوئے کہا:

”بنا پریم دھیرج نہیں برہا بنا بیراگ

ست گرو بنا نہ چھوٹے من منا کی آگ

یہ بھی کبیر نے کہا ہے۔“

تبسم صاحب پُرسکون سی مسکراہٹ لیے ہم سب سے بولے۔

اور پھر وہ شامیں۔ سب کی ہی شامیں پُرسکون گزری ہوں گی کہ میں نے پھر کسی شام تبسم

صاحب کو نہیں دیکھا۔ یا وہ نظر نہ آئے یا میں شاموں کو باہر نہ نکلی۔ یا ہم دونوں ہی۔

اس فلیٹ سے حنا کی ان گنت یادیں وابستہ ہیں۔ آسمان مٹ میلا سا ہے۔ ہوائیں صاف

نہیں ہیں۔ فضا میں دھندلا دھندلا دھواں سا ہے۔ باہر شور ہی شور ہے۔ یہاں حنا کی چیزیں،

تصویریں، باتیں، خوشبو، سب ویسے ہی ہے۔ آسمان کو دھویں نے چھپا لیا ہے مگر بالکنی کے نیچے کی

یہ زمین میرے پاس ہے۔ یہاں سے میری آنکھیں دھوئیں کے اُس پار، دور عرش کے قریب پہنچ

سکتی ہیں۔ بس ذرا سا میں انھیں موند کر اپنے اندر سمٹ جاؤں میرے اندر کی خاموشی کو باہر کا شور

مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ یہ سکوت میرے ابدی سکون کا پیامبر ہے، پھر روح پرور سحر تو میری اپنی ہے

ہی۔ اور حنا اپنے گھر میں خوش ہے۔

(افسانوی مجموعہ ”ابابلیس لوٹ آئیں گی“ سے)



## یہ تنگ زمین

میں نے جب اپنے خریدے ہوئے خوبصورت کھلونوں کو ڈھیر کی شکل میں لا پرواہی سے ایک کونے میں پڑا ہوا دیکھا تو مجھے دکھ سا ہوا۔ یہ کھلونے کتنے چاؤ سے لائی تھی میں اس کے لیے۔ یہ چھوٹا سا پیانو..... یہ جلت رنگ..... یہ چھوٹی سی گنار، چمکنے والی ربر کی بلبیل، ٹیس ٹیس بولنے والا طوطا، اور ڈرم بجاتا ہوا ٹیڈی بیئر۔ اور سب سے بڑھ کر یہ Synthesisor جس میں سو قسم کی دھنیں تھیں، جن سے کئی اور دھنیں بن سکتی تھیں۔ جس میں موسیقی کے ہر آلے کی آواز تھی۔

مگر اس نے انھیں چھو اتک نہ تھا۔ وہ تو ایسے کھلونوں کا عاشق تھا۔ کیا وہ خود کو اب میرا نہیں سمجھتا یا اب اسے مجھ سے محبت نہیں رہی۔ وہ جسے میں نے دل کے ایک ٹکڑے کی طرح برسوں سینے میں چھپائے رکھا۔ وہ جس نے میری مجروح ممتا پر اُس وقت اپنی معصومیت کا پھاہار رکھا تھا جب میرے دامن میں کھلنے والا پہلا پھول چند سیکنڈ کے بعد ہی مرجھا گیا تھا۔ جب میرے ہونٹوں پر لوریاں صدا پانے سے پہلے ہی بے سُر ہو گئی تھیں اور روٹھی ہوئی نیند کو میں نصف شب تک رو رو کر، کروٹیں بدل بدل کر منانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ تب ایک سردرات کے گیارہ بجے میرے شوہر اسے گود میں لیے ہوئے لوٹے۔ اس نے ٹوئڈ کا دھاریوں والا ننھا سا پھرن پہن رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنی غیر معمولی لمبائی والی منی منی پلکیں پھڑ پھڑا کر کسی روبوٹ کی طرح جلدی سے کہا تھا،

”آنتی مت لوئیے۔ میں آ گیا۔ اب مت لوئیے۔“

کہ اس کے انکل جنھیں وہ اکل جی کہتا تھا اسے راستہ بھر یہ ہی سکھا کر لائے تھے۔ میں مسہری سے اٹھ کر آنسو پونچھتی ہوئی ان کے قریب گئی اور اسے گود میں لے کر سینے میں چھپا لیا۔ اُس کے سردی سے ٹھٹھرے چہرے کو میں نے جلتے ہوئے کلیجے سے لگالیا۔ میرے دل سے خون رسنا کھتم گیا۔ اُس کے گھنگھریا لے بالوں کو میں نے آنسوؤں سے دھو دیا۔

”نہیں روؤں میں؟ کیا تم میرے پاس رہو گے۔ اپنی ماما کے پاس نہیں جاؤ گے؟“ آنٹی کے  
ہی پاس رہ جاؤ گے بولو؟“

”ہاں آنٹی پاس رہ جاؤں گا۔ لوج لوج مجھ کو بکی اور چال کیٹ دو گے؟“

اس نے اپنا ادھ چبا چاکلیٹ منہ میں ڈالنے کی کوشش میں اپنے گال پر مل لیا اور خرگوش کی سی  
تیزی سے سر ادھر ادھر ہلا کر پوچھا۔ پھر پھرن کی اُس جیب میں ہاتھ ڈال دیا جس میں کچھ اور  
چاکلیٹ اور بسکٹ تھے۔

میری تڑپتی ہوئی ممتا کو صبر آ گیا۔

وہ میری بہن کا بیٹا تھا۔ اور میرے شوہر بظاہر میری تڑپ کو بہلانے اور اصل میں خود اپنے  
دل کے قرار کی خاطر اُس دن اُسے اُس کے گھر سے لے آئے تھے۔ اس کی قربت پا کر میں بھول  
گئی کہ میری ممتا کے ساتھ اتنا بڑا ناخوشگوار حادثہ پیش آیا تھا۔ بھولی نہیں بھی تھی مگر بہل ضرور گئی تھی۔  
وہ مہینوں میرے پاس رہتا اور کبھی اس کی امی اسے لینے آتی تو باقاعدہ وعدہ کر کے جاتا کہ کب  
لوٹے گا۔ پھر میرے پاس آنے کے لیے ان کی ناک میں دم کر دیتا اور طے شدہ وقت سے پہلے ہی  
چلا آتا۔ اس کی ماں بھی اسے کچھ زیادہ نہ روکتی کہ میرا درد وہ جانتی تھی۔

وہ واپس آ جاتا تو بہار آ جاتی گھر میں۔ اس کی عادتیں بھی دل موہ لینے والی تھیں۔ فطرت کا  
اس قدر عاشق کہ ہر وقت باہر لان میں کھیلتا۔ کمروں میں تو جیسے اسے اپنا آپ مُقید محسوس ہوتا۔  
میری انگلی پکڑ کر کھینچتا ہوا، ننھے ننھے جوتے پہنے چھوٹے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باہر لے  
جاتا۔ کبھی پھولوں پر غور کرتا یا کسی تلی کا پیچھا کرتا ہوا، کبھی گھاس میں چھپے مینڈکوں کو بھگاتا ہوا گیٹ  
سے باہر نکل جاتا۔ جہاں چنار کے بہت سے پیڑوں کے پرے جھیل نظر آتی تھی۔ وہاں پہروں  
ایک جگہ کھڑا جھیل کو دیکھتا رہتا۔ یا چنار کے بڑے سے تنے پر چھوٹا سا ہاتھ دھر کر گول گول گھومتا۔ یا  
اس کے کھوکھلے تنے میں چھپ کر مجھے تلاش کرنے کو پکارتا۔ میں کتنی بار اندر چلی جاتی کہ پیچھے پیچھے  
آتا ہو گا مگر مجھے پھر باہر جانا پڑتا اس کی تلاش میں۔ اور اسے اپنی دھن میں مگن ہری ہری گھاس پر لیٹا  
ہوا نیلے نیلے آسمان کو تاکتا ہوا پاتی۔ وہ صبح سے شام کر دیتا کہ پرندے بولنے لگتے۔ کئی طرح کے  
پرندے چناروں کی اونچی نیچی شاخوں پر آ بیٹھے اور اپنے اپنے آشیانوں میں شب بھر چھپ جانے  
سے پہلے کچھ دیر ان ٹہنیوں پر ستاتے چہکتے ایک لطیف سا شور برپا کر دیتے۔ اور وہ اُس میں کھو جاتا۔  
مجھ سے ان کے نام پوچھتا اور یاد رکھتا۔ یہ بلبل ہے، یہ پیہا ہے، یہ کستوری ہے، یہ ابابیل ہے، یہ

فاختہ ہے، یہ مینا ہے..... اور ہر پرندے کی بولی پہچان لیتا اور ہو بہو نقل اتارتا۔ جب کوئی پرندہ نیچے کی ٹہنیوں سے اڑ کر اوپر گھنی شاخوں میں کہیں گم ہو جاتا تو وہ پہروں گھوم گھوم کر اسے تلاش کرتا۔ کوئی نیل کٹھ پاس کی جھیل سے اپنی لمبی نیلی چونچ میں کوئی تڑپتی ہوئی رو پہلی مچھلی آڑھی دبوچ کر لاتا اور اسے سیدھی نگل جانے کی دھن میں بار بار اگلنے لگتا اور ناکام ہو کر کسی اونچی موٹی سی ٹہنی پر اسے پٹخ پٹخ کر کھاتا تب وہ بھاگ کر اندر سے اپنی ننھی سی دور بین اٹھاتا اور باقاعدہ مشاہدہ کرتا۔ مجھے بھی اس کی ذہین بھول پن کو نہارنے کے علاوہ اور کسی کام میں لطف نہ آتا۔ اس کے ایسے ہی بھول پن اور محویت کا فائدہ اٹھا کر میں اسے کھلا پلا دیتی ورنہ فطرت کے اس پرستار کو میں باہر سے اندر لانا اگر بھول جاتی تو وہ کہیں باہر ہی سو جاتا، چاند کو سوچتا ہوا۔ تاروں کو دیکھتا ہوا۔ اور صبح جب اسے شبنم جگاتی تو شاید وہ پھر کسی ہڈ کو مٹی کی ننھی ننھی ڈھیریوں میں سے چھوٹے چھوٹے کیڑے ڈھونڈتے ہوئے دیکھنے میں کھو جاتا۔

میرے شوہر کہیں شہر سے باہر جاتے تو فون پر اسی کی باتیں کرتے مجھ سے۔ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گیا تھا وہ۔ ذہین بے انتہا تھا وہ، یادداشت غضب کی۔ موسیقی کا دلدادہ ایسا کہ کسی دن دھول میں اٹا ستار کا غلاف اتار کر میں اسے بجانے لگتی تو دیکھتی کہ وہ بغیر تھکے تقریباً پون گھنٹہ اپنے ہی انداز میں اپنا ایجاد کیا ہوا کوئی رقص کرتا رہتا۔ اس کے ننھے منے ہاتھ پیر نہ تھکتے۔ کبھی ایک ٹانگ آگے کو جا رہی ہے کبھی پیچھے کو۔ کبھی سامنے کے تکیے پر ایک آدھ لات رسید کی جا رہی ہے۔ کبھی ایک ٹانگ سے یا کبھی دونوں ٹانگوں سے گودا جا رہا ہے۔ دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے جا رہے ہیں۔ سر بائیں کو مڑتا پھر تھوڑی دیر بعد دائیں کو۔ اور اس طرح کی ہر حرکت میں میں دیکھتی کہ ایک ردھم ہوتا۔ وہ جھوم جھوم جاتا۔ پسینہ پسینہ ہو جاتا۔ میں دیکھ دیکھ کر ہنستی۔ پھر ستار چھوڑ کر اسے گود میں بھر لیتی۔ وہ حیرت سے دیکھتا کہ آخر ایسا کیوں، پھر اور بجانے کی ضد کرتا۔ میں بہلانے لگتی:

”ذرا آنکھیں بند کرو۔“ وہ آنکھیں میچ لیتا۔

”یہ لمبی پلکیں کہاں سے لائے۔“

”با جا رہے۔“ وہ بھول پن سے جواب دیتا۔

”کتنے میں.....؟“

”دلو پے میں۔“ وہ آنکھیں پھیلا کر ابرو اٹھا کر دو پر زور دے کر کہتا۔ یہ بھولی بھالی باتیں

مجھے زندگی کا احساس دلائے رکھتیں۔ اس کی آمد سے میرا ذہنی تناؤ دور ہو گیا تھا۔

اللہ نے میری بھی گود بھردی۔

وہ کچھ بڑا ہوا تو اسکول میں داخل کروادیا گیا۔ اب وہ صرف Week End پر آتا۔ پھر سال بھر بعد ہمارا اثرانفسر ہو گیا۔ ہم وہاں سے چلے آئے۔

اس کی جدائی کا غم پتھر کی سل کی طرح سینے پر رکھا تھا۔ میں نے ہمیشہ اسے پہلوٹھی کے بیٹے کی طرح چاہا اور اس سے الگ ہو کر اس کے لیے ایسے ہی تڑپی جیسے ماں بچے سے ہچکڑ کر تڑپتی ہے۔ اسی نے تو اپنے بچپن کو پہلے پہل میری گود میں جگہ دی تھی۔ مجھے ممتا اور محبت سے آشنا کرایا تھا۔ وہ بھی ہم دونوں کو برابر یاد کرتا۔ ہم سے ملنے کو مچلتا۔ فون ہی کچھ تسلی تھا دل کو۔ کافی دیر بات چیت چلتی۔ میں فون پر کہتی کہ ذرا آنکھیں بند کرو۔ وہ فوراً آنکھیں بند کرتا میں پوچھتی کہ یہ پلکیں کہاں سے لائے تو ویسی ہی سنجیدگی سے کہتا کہ با جا رہے۔ دو لوپے میں۔ اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ خیال نہ آتا کہ میں تو اس کی بند پلکوں کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اُس کی امی مجھے بتایا کرتیں۔ پھر ایسے ہی دو تین سال گزر گئے۔ کبھی فون Connect ہوتا کبھی کئی دن گزر جاتے۔ میرے دل سے اس کی محبت ذرا کم نہ ہوئی۔ اس کی یاد میں میری آنکھیں بھر آتیں، چھلک جاتیں۔ دل اُسے ایک نظر دیکھنے کو تڑپ اٹھتا۔ باہیں اسے سینے سے لگانے کو مچلتیں۔ روح جدائی کے غم سے درد کرتی۔ اور میں دل پر پتھر رکھ لیتی۔ اپنے بچوں میں صبر ڈھونڈ لیتی۔ کہ صبر کرنا میں نے اسے پا کر ہی سیکھا تھا۔

ایک عرصے سے ہم بھی اور وہ لوگ بھی ملنے کا پروگرام بنانا چاہتے تھے۔ اور ملاقات تھی کہ طے ہی نہ ہو پاتی تھی۔ کچھ یہاں کا موسم کچھ ادھر کے حالات.....

اب کے سردیاں شروع ہوئیں تو وہ لوگ سچ مچ ہی آگئے۔ مجھے تو انھیں دیکھ کر بھی ان کی آمد کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کا قد تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا۔ تالاہٹ ختم ہو گئی تھی۔ پہلے سے کچھ کم گو ہو گیا تھا۔ گرد دیکھنے میں ویسا ہی پیارا۔ دل موہ لینے والی صورت۔ کالی کالی بھولی سی آنکھیں۔ لمبی گھنی پلکیں۔ سب ایسے گال اور سرخ سرخ کان۔ ہاتھ پاؤں وہی گورے، مکھن کے پیڑوں ایسے۔ مجھ سے لپٹا تو میں رونے ہی لگ پڑی اور وہ کتنی ہی دیر ہنستا چلا گیا۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے مسکرا کر کہا:

”ذرا آنکھیں بند کرو۔“

اس نے آنکھیں جھکالیں۔ میں نے پوچھا یہ پلکیں کہاں سے لائے تو شرما کر مسکرا دیا۔

میرے گھر میں بہاریں آگئی تھیں۔ گھر میں کھانا اسی کی پسند کا بنتا۔ میں اسے طویل Drive پر لے جاتی۔ میرا سارا وقت اس کا ہو گیا تھا۔ مجھے میری گم گشتہ جنت مل گئی تھی۔

ایک دن صبح صبح گولیاں چلنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ بھاگی بھاگی باہر نکلی تو دیکھتی ہوں کہ وہ بالکنی میں کھڑا منہ سے مختلف قسم کی گولیاں چلنے کی آوازیں نکال رہا تھا۔ ایسی مہارت سے کہ ان کے نقلی ہونے کا شک تک نہ گزرے۔

یہ سارا قصور میرا ہی تھا۔ وہ کتنے دن سے آیا تھا اور میں اس کے لیے ایک بھی کھلونا نہیں لائی تھی۔ اسی دن شام کو میں اس کی پسند کے کھلونے خرید لائی۔ جب وہ سو گیا تو میں نے وہ سارے کھلونے اس کی مسہری پر سجا دیے کہ صبح جاگتے ہی دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ میں ذرا دیر سے جاگی۔ دیکھا کہ سارے کھلونے ایک طرف کو ایک ڈھیر کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ غائب۔ میں نے اس کی ماں سے پوچھا تو بولیں کہ سب بچے بڑے کمرے میں کھیل رہے ہیں۔

بڑے کمرے کے دروازے پر اس کی مٹی سی بہن ہونٹوں پر انگلی رکھے پہرہ دے رہی تھی۔ ”شی ادھر نہیں جانا۔ فارنگ ہو رہی ہے۔“ وہ مجھے خبردار کرتے ہوئے سرگوشی میں بولی۔ اندر جھانکا تو عجیب منظر دیکھا۔ سارے گھر کے تکیے اور سرہانے ایک کے اوپر ایک اس طرح رکھے ہوئے تھے جیسے ریت کی تھیلیاں رکھ کر مورچے بنائے جاتے ہیں۔ وہ درمیان میں اونڈھا لینا ہوا ایک بڑی سی لکڑی کو بندوق کی طرح پکڑے منہ سے مختلف طرح کی گولیوں کی آوازیں نکال رہا ہے۔ اور اس کے دائیں بائیں میرے دونوں بچے اپنی چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی بندوقیں لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ جیسے حکم کرتا وہ دونوں ویسا ہی کرتے کبھی ایک بھاگ کر ایک کونے میں گھستا، کبھی دوسرا دوسرے کونے میں یہ ہی عمل دہراتا۔ کبھی ایک بک ریک کی آڑ میں ہو کر دوسری طرف کودتا۔ کبھی دوسرا الماری کے پیچھے چھپ کر، جست لگا کر دیوار کے ساتھ چپک جاتا۔ اور وہ خود مورچہ سنبھالے کبھی ان کو ہدایت کرتا کبھی ان پر بندوق تان دیتا۔

اب یہ ہی اس کا پسندیدہ کھیل تھا۔

وہ ٹیٹھی بولیاں، وہ رقص، وہ موسیقی..... وہ بھول گیا تھا اور یہ سب یاد دلانے کے لیے میں شاید اسے کہیں نہیں لے جاسکتی تھی۔



## بلبل

ڈنیم کی بھاری سوتی جین کو کھنگال کر نچوڑنے کے بعد جب میں اسے بیگر پر پھیلانے کے لیے سیدھی کھڑی ہونے لگی تو سارے بدن سے ٹیس سی اٹھی۔ پوری طرح ایستادہ ہونے میں مجھے دس بارہ سیکنڈ تو ضرور لگے۔ اور جب میں نے جین کو زور سے جھٹک کر جھاڑا تو میرے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کا وہ لمبا سا ناخن جو جین کی موری کو رگڑتے ہوئے آدھا ٹوٹ گیا تھا، انگلی کے پورے تھوڑی سی جلد چھیلتا ہوا پورا الگ ہو گیا۔ خون کے قطرے گرنے لگے اور میں درد سے بلبلا اٹھی۔ مگر اس خیال سے کہ کہیں جین پر خون کا دھبہ نہ لگ جائے میں نے ایک ہاتھ سے بمشکل تمام اسے بیگر پر ڈال دیا۔ انگلی پر ٹشو پیپر پیٹ کر، میں کھڑکی کی طرف لپکی اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ اندھیروں سے نکل کر آتا ہوا، ہوا کا ایک اداس جھونکا..... میرے چہرے سے ٹکرایا۔ جانے اتنی جلدی اندھیرا کیسے ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو میں نے کچھ دیر بعد ڈوبنے والے سورج کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ بس اتنی سی دیر میں؟..... ایک ہی تو پینٹ دھوئی تھی میں نے..... میری انگلی کا درد میرے دل میں اتر آیا۔ ایک تھکی ہوئی نظر میں نے آسمان کی طرف اٹھائی۔ اتنے وسیع آسمان پر زہرا کیلا چمک رہا تھا۔ زہرا کا عکس میری آنکھوں میں دھندلا سا گیا..... اس ذرا سی بات پر..... یہ آنسو بھی.....

کچھ دن پہلے جب انھوں نے بتایا کہ ان کے دفتری کام کے سلسلے میں ہم لوگ تین دن کے لیے شملہ جا رہے ہیں تو مسرت کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ دراصل میری اپنی چھٹی کے بھی یہ ہی تین دن تھے۔ ان دنوں منو کی بھی چھٹیاں چل رہی تھیں۔ معلوم نہیں میرا وقت کہاں چلا جاتا ہے۔ لوگ بور کیسے ہوتے ہوں گے۔ مجھے تو بور ہونے کا وقت کبھی میسر نہیں آیا۔ ویسے کچھ کرنا تو ہوتا نہیں مجھے ایسا۔ مگر پھر بھی کبھی کبھی میں ایک ایک لمحے کو اپنے پاس بلا کر رہ جاتی ہوں۔ اسے دل کی گہرائیوں سے یاد کرتی ہوں۔ پچکارتی ہوں۔ تصورات کی باہیں پسارے اس



سے وعدہ کرتی ہوں کہ اسے اتنے خوبصورت انداز سے گزاروں گی کہ شاید ہی اسے کسی نے اتنا حسن بخشا ہو۔ اس کی منت اور خوشامد کرتی ہوں۔ بڑی مشکل سے اتنی ساری عاجزی کے بعد جب وہ ایک لمحہ میرے پاس آنے کو تیار ہوتا ہے تو..... اسی وقت لگر کی سیٹی، ٹیلیفون کی آواز، دروازے کی گھنٹی، بچوں کی پکار، گوالے کی ڈوچلی کی کھڑکھڑاہٹ یا پھر کسی کام کا احساسِ ذمہ داری مجھے آلیتا ہے۔ میرا اتنے جتن سے بلایا ہوا لمحہ مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی کہیں دور ساکت ہو جاتا ہے۔ میں خالی دامن اور خالی باہیں لیے کوئی فرض پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہوں۔ اور پھر مجھے دن بھر کرنا ہی کیا ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ جزوقتی ملازمہ کپڑے دھوتی ہے، صفائی کرتی ہے۔ اب ایسا کون سا کام رہ جاتا ہے۔ ذرا سا بچوں کو ہی تو دیکھنا ہوتا ہے۔ ان کی بکھری ہوئی چیزیں اپنی جگہ پر رکھنا۔ وہ اودھم بھی تو بہت مچاتے ہیں۔ یا پھر کھانا بنانا، سودا سلف لے آنا یا دیگر خریداری وغیرہ کرنا۔ چھوٹے موٹے گھریلو کاموں کے لیے بجلی والا یا نل ول ٹھیک کرنے والا بلانا۔ مجھے کہیں جانا تو ہوتا نہیں۔ آرام سے گھر میں کام کرتی، اپنے سامنے سب ٹھیک ٹھاک کرواتی رہوں گی تو میرا وقت گزرتا جائے گا۔ مستعد رہوں گی تو تندرست رہوں گی۔ وہ نوکر کے سخت خلاف ہیں۔ کہتے ہیں بڑے شہروں میں چھوٹا نوکر رکھنا بھی خطرہ مول لینے کے برابر ہے۔ وہ بہت عقلمند ہیں انھیں ہر بات کا تجربہ ہے۔ اب بھلا میں گھریلو عورت یہ سب کیا جانوں۔ مجھے کرنا ہی کیا ہوتا ہے ایسا۔ جھاڑ پونچھ لیا۔ کپڑے سنبھال لیے منی کا دودھ، Napies وغیرہ۔ منے کی کتابیں کھلونے وغیرہ دیکھ لیے۔ اس کا ہوم ورک کر لیا۔ بس اور کیا۔ پتہ نہیں چیزیں بار بار کیوں بکھر جاتی ہیں اور انھیں ٹھیک کرنے میں اتنا وقت کیوں لگتا ہے۔ اور پھر یہ وقت کیسے اتنی جلدی گزر جاتا۔

وہ بہت مصروف رہتے ہیں۔

اور میں سارا دن گھر میں ہی گزارتی ہوں۔ پھر بھی یہ تین دن جو اس گرمی سے دور ایک خوبصورت مقام پر گزریں گے، میرے اپنے ہوں گے۔ اور بچے نئی جگہ میں محور ہیں گے۔ نہ باورچی خانہ، نہ خریداری۔ صرف خوبصورت پہاڑ، رنگ برنگے پرندے اور ٹیٹھی ٹیٹھی ان کی بولیاں، بڑے بڑے دانٹوں والے بندر اور کالے منہ اور لمبی دم والے لنگور۔ ہری ہری گھاس اور خوش رنگ پھولوں پر منڈلاتی نیلی پیلی تتلیاں۔ چاندنی رات اور نا آلودہ آسمان کے بے شمار تارے۔ طلوع اور غروب آفتاب کا شفق گوں فلک۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور بھیگی بھیگی رتیں۔ پل پل آنکھ مچولی کرتی ہوئی دھوپ کی کرنیں۔ اور نہ جانیں کیا کیا۔ یہ سب میں اپنی مرضی سے

دیکھوں گی، محسوس کروں گی۔ یہ بہتر گھنٹے میرے اپنے ہوں گے۔ اوہ..... کتنا سکون ملتا ہے اس تھوڑے ہی مجھے۔ اسے محسوس کروں گی تو کیسا لگے گا۔ میرے من میں گدگدی سی ہونے لگتی ہے۔ زندگی سہل سہل سی معلوم ہونے لگتی ہے۔

میں ہفتہ بھر پہلے ہی سفر کی تیاریوں میں لگ گئی۔ اس جھلستی گرمی سے تین دن دور۔ بہت ہوتے ہیں تین دن۔ یہ تین دن مجھے پوری طرح سے Recreate کریں گے۔

سفر پر جانے کی شام میں نے سب کی پیکنگ کی۔ رات کے دو بج گئے یہ سب کرنے میں۔ صبح ہمیں ہمالین کونین پکڑنی تھی چھ بجے سے پہلے۔ اس کے لیے ہمیں گھر سے ۵ بجے چلنا ہوگا۔ اور پھر مجھے چار بجے اٹھنا ہوگا۔ یہ بستر میں چائے پینے کے عادی ہیں۔ ان سب کے تیار ہونے سے جو چیزیں بکھریں گی انہیں سمیٹنا ہوگا۔ مسہریاں بھی ٹھیک کرنا ہوں گی۔ ملازمہ تو اس وقت ہوگی نہیں۔ سب صفائی وغیرہ کر کے ہی نکلنا ہوگا۔

باہر سے لوٹ کر انہیں گندا گھرا چھا نہیں لگتا۔

پھر دروازوں کھڑکیوں کی کنڈیاں چٹنیاں اچھے سے دیکھنا بھالنا، تالے چابیاں مل جلیاں وغیرہ دیکھنا۔ سب کچھ منتقل کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کام میں ہی بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں اور مجھے ہی کرنا ہے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں۔

دوسری صبح کچھ سوتے کچھ جاگتے ہم روانہ ہوئے اور دوپہر کو کالکاپینج گئے۔ وہاں سے شملہ کے لیے ٹیکسی لی۔ منو کو ان گھومتے بل کھاتے راستوں میں ابکائی ہو جاتی ہے۔ وہ سارا راستہ الٹیاں کرتا رہا۔ میں اس کا سر تھامے رکھتی، منہ پونچھتی، گریبان صاف کرتی رہی۔

وہ اگلی سیٹ پر شاید سو رہے تھے..... پہاڑی راستے اتنے دل موہنے والے تھے کہ سب تکان بھول کر میں ان اونچے اونچے پیڑوں کو ڈھلوانوں، گھاٹیوں کو دیکھنے لگی۔ کوئی ساڑھے تین گھنٹے کا سفر تھا۔ بوندیں پڑنے لگی تھیں۔ جہاں جہاں گاڑی بڑھتی ذرا سا راستہ چھوڑ کر وہیں پر بارش پڑنے لگتی۔ بادل ہمارے ہی رخ پر تیر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ساتھ چل کر مینہ برساتے جاتے۔ دونوں بچے میرے دوکاندھوں پر سر نکائے سو رہے تھے۔ شاید اس ترنم کو لوری سمجھ کر جو بارش کے قطروں کے کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرانے سے پیدا ہو رہا تھا۔ انہیں میٹھی نیند آ گئی تھی۔ یہ منظر اس قدر دل کش تھا کہ میری بوجھل پلکیں بھی بند نہ ہو پار ہی تھیں۔ زوروں سے برستا ہوا پانی

سامنے کے شیشے پر چھا جاتا اور گاڑی میں لگاوا پیرا سے پلک جھپکتے میں پونچھ لیتا اور اتنے ہی عرصے میں اس کی جگہ اور پانی لے لیتا اور پھر اسی طرح پونچھا جاتا۔ دونوں طرف کے شیشوں پر بھی بوندیں ٹکرائیں اور پھسل رہی تھیں۔ بارش سیدھی، آڑھی، ترچھی جانے کیسے کیسے بہ رہی تھی۔ ایک طرف پہاڑیاں ایک طرف جنگل اور اگر جنگل کی طرف دیکھیں تو بارش آسمان سے لے کر زمین تک برستی ہوئی پانی کی ہزاروں نہایت طویل دھاروں کی شکل میں رواں نظر آ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہم خود اوپر سے نیچے پانی کے بے شمار دھاریں برس رہے ہوں۔

گاڑی کے اندر ہلکی ہلکی گرمی تھی۔ باہر ہوائیں، سردی اور بارش اور تنہا بل کھاتی سرمئی طویل سڑک..... مجھے نیند آ رہی تھی..... منظر کو نہارنا اچھا لگتا تھا مگر مکان کے باوجود میں نے خود کو سونے سے روک رکھا تا کہ موڑوں پر مڑتے وقت بچوں کو کہیں چوٹ ہی نہ لگ جائے۔

یہ جگہ شملہ سے آگے تھی۔ بچوں بیچ جنگل کے۔ ویسے یہاں سب کچھ جنگل کے درمیان ہی تھا۔ مگر یہاں قدرتی حسن اپنے شباب پر تھا۔ چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر یہ خوبصورت سا ہوٹیل۔ پہاڑی کے شروع میں مختصر سا بازار..... سب خوبصورت تھا۔

ٹیکسی سے اترتے ہی تازہ ہوا کے معطر جھونکوں نے ہمارا استقبال کیا۔ اس خوشبو میں جنگلی درختوں کی سوندھی سوندھی مہک بھی شامل تھی اور مختلف قسم کے پھولوں کی خوشبوئیں بھی، جو باغیچے میں چاروں طرف اور درمیان میں نہایت سلیقے سے اگائے گئے تھے۔ اس میں ایسا بڑے سے اخروٹ کے پیڑ پر ایک پہاڑی مینا اپنی پیلی چونچ واکیے چبک رہی تھی۔ نکھرے نیلے آسمان پر بادل کے دودھ ایسے سفید ٹکڑے ادھر ادھر ٹنگے ہوئے تھے۔ سرمئی پنکھوں اور پیلے پیٹ والی ایک مٹی سی چڑیا یہاں سے وہاں اڑ رہی تھی۔ آسمان پر قوس و قزح ابھر آیا تھا۔ بچوں نے پہلی بار دھنک کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ آس پاس حد نظر تک دھلا دھلا یا سا منظر۔ نکھرے نہائے سے پیڑ، بچے سجائے شرمائے شرمائے سے پھول۔ ہری ہری گھاس پر اٹھکھیلیاں کرتی ہوئی رنگ برنگی تتلیاں۔ نیلا نیلا آسمان دیکھ کر گنگناتی ہوئی پہاڑی مینا..... یہ منظر جانے کہاں لے گیا۔

کمرے میں پہنچ کر میں نے سب کے کپڑے Unpack کر کے الماری میں لٹکا دیے۔ بچوں کو ہاتھ منہ دھلانے غسل خانے میں لے جانے لگی تو دیکھا کہ بادل اندر گھسے آ رہے تھے، کھڑکی کے راستے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ہوش ربا منظر میں محو ہو جاتی، میں نے بادلوں سے

درخواست کی کہ کچھ اور دیر ایسے ہی ٹھہر جائیں۔ میں بچوں سے فارغ ہوں کہ میں یہ سحر آگیاں  
منظر پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔  
وہ بالکنی میں کھڑے سگریٹ پھونک رہے تھے۔

کھانا کھاتے شام ہوگئی۔ شام سے مجھے عشق رہا ہے۔ چوبیس گھنٹوں میں شام ہی ہے جو  
مجھے اپنی سی لگتی ہے۔ پھر پہاڑوں کی شام کی بات تو کچھ اور ہی ہے۔ میں بالکنی میں بیٹھ کر بادلوں کو  
اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں پر محسوس کرنا چاہ رہی تھی کہ میں تین دن کے لیے بادلوں کے پاس اتنی  
اونچائی پر چلی آئی تھی۔ وہاں بیٹھ کر ذرا سا وہ میگزین دیکھنا چاہ رہی تھی جو میں نے اسٹیشن پر خریدا  
تھا..... مگر

مگر ان کی سگریٹ ختم ہوگئی تھی اور ہوٹل میں وہ برانڈ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے ہی بھیجنا  
مناسب سمجھا۔ کہنے لگے کہ بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں بازار۔ راستہ بھی دیکھ لوں گی اور سیر بھی  
ہو جائے گی۔ وہ جب تک بالکنی میں بیٹھ کر میگزین دیکھیں گے۔ انہوں نے آہستہ سے میرے  
ہاتھ سے رسالہ لیتے ہوئے سمجھایا تھا۔

بازار دور سے نظر آ رہا تھا۔ ہمارے چلتے وقت آسمان پھر ابر آلود تھا۔ مگر بوندیں اتنی باریک  
باریک برس رہی تھیں جیسے چھلنی میں سے چھن کر گر رہی ہوں۔ ہم ڈھلان طے کر کے چوڑی سڑک پر  
پہنچے ہی تھے کہ بارش اچانک تیز ہوگئی۔ اور ہم سب ایک دکان کے چھتے تک پہنچتے پہنچتے بری طرح  
بھیک گئے۔ کچھ دیر بعد جب بارش ذرا کم ہوئی تو جلدی سے سگریٹ اور کچھ بسکٹ وغیرہ لے کر میں  
گڑیا کو گود میں لیے منو کی انگلی تھامے اوپر چڑھائی چڑھنے لگی۔ سرد ہوا بدن کو چھوتی ہوئی لباس کے  
آر پار ہو کر گزر رہی تھی۔ مگر میں پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ سانس بے ترتیب چل رہا تھا۔ منو بھی بار بار رک  
رہا تھا۔ اگر وہ ذرا سا ڈھلان تک آجاتے تو گڑیا کو سنبھال لیتے یا منو کو ہی سہارا دے کر اوپر لے جاتے۔

ہانپتے کانپتے جب ہم اوپر پہنچے تو وہ مسہری پر نیم دراز گرم گرم چائے پی رہے تھے۔ ٹی وی آن  
تھا۔ کوئی پرانی فلم آ رہی تھی۔ فلم کی ہیروئن ایک ننھے سے بچے کو پیٹھ پر باندھے، کدال سے پتھر  
ایسی سخت زمین کھود رہی تھی۔ وہ نہایت پرسکون تھے۔ انہوں نے ہم لوگوں کی طرف دیکھے بغیر  
سگریٹ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔

میں نے جلدی سے بچوں کے بال پونچھ کر ان کے کپڑے تبدیل کیے اور پھر اپنے۔ گڑیا کی

کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے کبل اوڑھا کر ان کے برابر لٹا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولے کہ گڑیا کو بخار آ رہا ہے۔ چھو اتو وہ تپ رہی تھی۔ میں نے اسے اور منو دونوں کو کرو سین سرپ کا ایک ایک چھج پلا دیا۔ اس کے نازک سے ننھے وجود کو سردی ہو گئی تھی۔ اس دن پوری رات وہ بے چین رہی۔ میں بیچ بیچ میں دوئی بھی پلاتی رہی۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی کرتی رہی۔ صبح کے وقت جب اس کا بخار کم ہوا تو وہ سو گئی۔

یہاں تو یوں بھی مجھے کوئی کام نہیں۔ نیند آئے گی تو دن میں بھی سو سکتی ہوں۔ مگر میں سو کر اس حسین منظر کی توہین نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی آنے والے دن کو نیند کے حوالے کر کے ضائع کروں گی۔ میں اسے محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ میں ہرگز نہ سوؤں گی۔

سحر ہونے کو تھی مگر ابھی باہر گھپ اندھیرا تھا۔ قریب ہی کسی پیڑ پر کوئی پرندہ گارہا تھا۔ اتنی صبح۔ یعنی صبح سے بھی پہلے۔ یہ کون سا پرندہ گا سکتا ہے۔ اتنا میٹھا نغمہ۔ ایک مسلسل گیت۔ سُراور لے سے بھر پور۔ میں اٹھ کر کھڑکی تک آ گئی۔ میں نے اندھیرے میں غور سے دیکھا۔ سیاہی مائل نیلے پروں اور پیلی چونچ والی پہاڑی مینا گھاس پر ادھر ادھر کبھی چل کر کبھی پھدک کر چہل قدمی کر رہی تھی اور کبھی رک کر سراو پر اٹھائے اس سُریلے نغمے کا الاپ کر رہی تھی جو اس گہرے سکوت کو توڑ کر روح کی گہرائیوں میں گھلا جا رہا تھا۔ یہ منظر اتنا ہوش ربا تھا کہ میرے پاؤں کھڑکی کے پاس جیسے کہ منجمد ہو گئے۔ صبح کا ذب کے نئے نئے متوقع اسرار سے محظوظ ہونے کے لیے میں وہیں کھڑی رہی۔ ذرا سی دیر میں پو پھٹا چاہتی تھی۔ مینا اصل میں اتنی صبح باغیچے میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں اتری تھی ورنہ وہ ڈال پر بھی تو گا سکتی تھی۔ وہ ان ننھی منی بیر بہوٹیوں کے لیے پیغام اجل لیکر نمودار ہوئی تھی جو گھاس کے ایک مُنہ سے تنکے کی اوٹ میں کچھ گھنٹوں کی زندگی گزارا کرتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے وہ شوق سے کھایا کرتی ہے۔ پہروں گھاس پر ادھر ادھر گھوم کر انھیں تلاش کرتی تھک جاتی تو اڑان بھر کر پاس کے پیڑ پر بیٹھ کر نغمہ چھیڑ دیتی۔ جیسے کوئی مختلف سروں میں سیٹیاں بجا رہا ہو اور ساتھ ہی چہک بھی رہا ہو۔ کچھ سیٹیاں ایک چہک، پھر سیٹیاں پھر چہک.....

روشنی پھیلنے لگی تھی۔ پرندے جاگ گئے تھے۔ کسی شاخ پر بھورے سرمئی پروں اور پھر تیلے جسم والی کستوری لہک لہک کر گارہی تھی۔ پی۔ پی۔ پی۔ پی۔ پیو پیو۔ کئی طرح کی مختلف بولیاں بول رہے تھے پرندے۔ کئی طرح کی بلبلیں گارہی تھیں۔

کچھ ہی دیر میں دھند نے سارے منظر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دراصل یہ دھند نہیں تھی، یہ

بادل تھے جو ہمیں میدانی علاقوں میں بہت اوپر پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں ورنہ اگر یہ صرف دھند ہوتی تو صرف دھند ہی ہوتی۔ ساتھ میں بارش بھی ہونے لگی تھی۔ پرندے خاموش سے ہو گئے تھے۔ مگر وہ پہاڑی میناب بھی گھاس پر بھیگ بھیگ کر گھوم گھوم کر نغمے گا رہی تھی۔ نہ وہ بھینگنے سے گھبراتی نہ سردی سے۔ جی چاہ رہا تھا کہ نیچے باغیچے میں اتر کر میں بھی ذرا سا ٹہل کر تھوڑا سا بھیگوں اور اس دھلی دھلائی نکھری نہائی صبح کو اپنی روح میں اتار لوں مگر مسلسل کئی گھنٹوں کی تکان اور شب بیداری نے میرے پاؤں من من بھر کے کر دیے۔ آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں، میں واپس مسہری پر آ گئی۔

چھت کے اوپر زوروں کی کھڑکھڑاہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے جھانکا تو دھوپ چمک رہی تھی اور ٹین کی چھت پر اچھلتے کودتے بندروں کا سایہ باغیچے کی گھاس پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں تھے۔ شاید منو بھی ان کے ساتھ گیا تھا۔

گڑیا چپ چاپ سو رہی تھی۔ ننھی سی جان کو بخار نے کھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا پھول سا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ وہ پیلی پڑ گئی تھی، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ اگر ٹھیک ہوتی تو اپنے قد کے برابر ہر چیز کا وہ بھرپور جائزہ لے چکی ہوتی کہ ابھی ابھی کھڑا ہونا سیکھا تھا اس نے۔ ایش ٹرے جو اس کے قد کے برابر اونچی میز پر سلیقے سے ایک طرف کوج رہی تھی، فرش پر اوندھی پڑی ہوتی اور سگریٹ کے بچے ہوئے ٹکڑے کچھ زمین پر ہوتے کچھ اس کے منہ میں۔ جگ الٹا ہوا ہوتا اور گلاس گرا ہوا۔ دو منٹ میں اس کے سارے کپڑے بھیکے ہوئے ہوتے اور مجھے دیکھ کر ہنس کر کبھی مسہری کے نیچے گھسنے کی کوشش کرتی کبھی میز کے نیچے۔ اور میں وہاں سے اس کے گول مٹول مکھن ایسے پیروں کو کھینچ کر اسے باہر نکالتی۔ اس کا دہانہ صاف کرتی، منہ سے سگریٹ کے بچے ہوئے ٹکڑے نکال کر اسے خوب خوب پیار کرتی.....

مگر اس بخار نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔

میں نے پانی پلانے کے خیال سے اس کے چہرے کو چھوا۔ وہ اب بھی ہلکا سا گرم تھا۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ پسینے کی وجہ سے نرم نرم بال ماتھے سے چپک گئے تھے۔ اس نے نحیف سی آواز میں مجھے پکارا۔ میں نے دو تین چمچ پانی پلایا۔ اس نے مشکل سے پیا۔ اس وقت بھی اسے بھوک نہیں تھی۔ کل رات بھی اس نے کچھ نہ کھایا تھا۔ اور اب وہ بہت نحیف لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ کچھ دیر کے لیے آجاتے تو میں بازار جا کر کچھ دلیا وغیرہ لے آتی۔ دوا سے کچھ دیر کے لیے

جب اس کا بخارا اترتا تو میں اسے دلایا کھلا دیتی۔ دوپہر ہو گئی، وہ نہیں لوٹے۔ نیچے وہ کہہ گئے تھے کہ میرا کھانا کمرے میں بھجوا دیا جائے۔

سارا دن بخار میں تپتی ہوئی گڑیا کو سینے سے لپٹائے میں خود بھی تڑپتی رہی۔ وہ بھوکے تھی تو مجھ سے کہاں کھایا جاتا کچھ۔ میں نے ویٹر سے دودھ اوپر کمرے میں منگوایا تھا، اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔

صبح موسم خوشگوار تھا پھر معلوم نہیں کب بادل چھائے مطلع ابر آلود ہو گیا۔ ہوا کے جھونکے نے کھڑکی کا پٹ کھٹ سے کھول دیا تو میں نے گردن موڑ کر دیکھنا چاہا مگر اس وقت گڑیا نیند یا غنودگی یا بخار میں مجھے پکار کر چیخی۔ میں نے ہلا کر جگا دیا۔ پانی کے دو چمچ پلائے، کچھ بات کرنا چاہی۔ وہ نیم و اسی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں مسکرائی تو وہ بھی دھیرے سے مسکرائی۔ میں اس کا مکھڑا دیکھ رہی تھی۔ حرارت کچھ کم تھی۔ میرا دل پرسکون ہونے لگا۔ اب شاید وہ دودھ پی لے گی۔ کچھ تازہ سی خوشبوئیں محسوس ہوئیں تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ ہوائیں کمرے کے اندر چلی آرہی تھیں۔ میں نے پہلی بار ہواؤں کو دیکھا تھا۔ پہلی بار ہوا کی خوشبو سونگھی تھی۔ مجھے اپنی قوتِ شامہ اور باصرہ پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا کو دیکھا جاسکتا ہے؟ ہاں ہوا کو دیکھا جاسکتا ہے۔ جب وہ بادلوں کے بے شمار خورد بینی ذرات پر سوار ہو کر آئے۔ اور ہوا کو سونگھا بھی جاسکتا ہے..... جب وہ جنگل کے عظیم درختوں کے نوکیلے پتوں کی سوندھی سوندھی مہک اور رنگ برنگے پھولوں اور ہری ہری گھاس کی نمی اور خوشبو اپنے ساتھ لے کر چپکے سے کھڑکی سے داخل ہو۔

کچھ دیر میں اس جنت میں گم ہو گئی جو بغیر بتائے کمرے میں آ کر مجھے سرشار کر گئی۔

میں نے دو تکیوں کی مدد سے گڑیا کو بٹھا کر چاروں طرف سے کبل اوڑھا دیا۔ باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ایک پہاڑی مینا اڑتی آئی اور کھڑکی پر بیٹھ کر گانے لگی۔ اسے تو بہانہ چاہیے گانے کا۔ بادل چھائیں تو گائے گی۔ بادل نہ چھائیں تو گائے گی۔ بارش برے تو گائے گی بارش تھم جائے تو گائے گی۔ سورج چڑھے تو گائے گی اور ڈوبے تو بھی۔ بلکہ سورج چڑھنے سے گھنٹوں پہلے منہ اندھیرے گانے لگے گی اور اسی طرح سورج غروب ہونے کے گھنٹوں بعد تک جب تک گھپ اندھیرا نہ ہو جائے اور کچھ بھی نظر نہ آسکے، اُس وقت تک گاتی جائے گی۔ ایسا بھی دیکھا ہے کہ بجلی کڑکتی ہے اور یہ چمکتی ہے اور بادلوں کی زوردار کھروری دھاڑ میں بھی اس کا نہایت سریلانغمہ کانوں میں رس گھولتا، گرج کو چیرتا ہوا سنائی دیتا ہے۔ میں نے ایسا خوش مزاج پرندہ کبھی نہیں دیکھا

تھا۔ گاتی ہوئی پہاڑی مینا کانٹہ یا اس کی پہلی چونچ یا پھر سیاہی مائل نیلے پروں کی کشش تھی کہ گڑیا اس کا محویت سے مشاہدہ کرنے لگی۔ میں نے اس کی اسی محویت کا فائدہ اٹھا کر اسے چار چھ چمچ دودھ پلا دیا۔ اور خود چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے ہوئے مینا کو دیکھنے لگی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چائے پیوں۔ مگر مینا کے اڑ جانے کے ڈر سے میں وہیں گڑیا کے پاس مسہری پر بیٹھ گئی۔ میہنہ زوروں کا تھا۔ ساتھ ہی موٹے موٹے اولے بھی پڑ رہے تھے۔ مینا کہیں اڑ گئی تھی۔ میں نے کھڑکی کے قریب جا کر بارش کے قطروں کو ہاتھ میں لینے کے لیے ہاتھ پھیلا دیا بڑی مشکل سے ایک اولامیری ہتھیلی پر رُکا۔ عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسے کہ میں ہوا کے دوش پر تیر رہی ہوں یا اپنے لڑکپن میں کہیں لوٹ آئی ہوں..... نہیں لوٹ آیا چاہتی ہوں کہ دروازے کی دستک نے مجھے احساس دلایا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا۔ وہ دونوں باپ بیٹے اندر داخل ہوئے۔

”بہت مزا آیا ماما۔ آپ کیوں نہیں آئیں ہمارے ساتھ گھومنے۔“ منو مجھ سے لپٹتے ہوئے بولا۔  
 ”گڑیا ٹھیک ہو گئی؟“ وہ بولے۔

”کچھ بہتر تو ہے۔“ میں نے جواب دیا۔

”بہت تھک گئے ہم۔ ذرا روم سروس میں چائے کے لیے فون کر دیجئے۔“ وہ بستر پر دراز ہوتے ہوئے بولے۔ وہ واقعی تھک گئے تھے کہ اس طرح جوتوں سمیت بستر پر لیٹنے کا مطلب تھا کہ میں ہی ان کے جوتوں کے تسمے کھولوں، موزے اتاروں۔  
 جوتوں موزوں سے فارغ ہو کر میں نے منے کو نہلا دیا۔

رات کا کھانا ہم سب نے نیچے ڈائیننگ ہال میں کھایا۔ باہر آئے تو میں نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ آسمان پر بے شمار تارے تھے کہ شہر کے آلودہ آسمان پر تو بہت تھوڑے تارے ہوا کرتے ہیں جو بہت چھوٹے دکھائی دینے والے تارے ہوتے ہیں، وہ سٹ میلے دھوئیں کے غلاف کے اس پار دکھائی ہی نہیں دیتے۔ جو نظر آتے ہیں وہ بھی میلے میلے سے اور یہاں کتنا چمکدار آسمان..... اور ایک دوسرا آسمان وہ جو زمین پر بھی نظر آ رہا تھا۔ رات کو پہاڑیوں کے اونچے اونچے مقامات پر بنے مکانات کی بجلیاں دور دور سے ہلکورے کھانے والے ان گنت پتوں کے پیچھے سے یوں آنکھ پجولی کر رہی تھیں جیسے رنگ برنگے ستارے ٹٹمار ہے ہوں۔ بہت ہی لہساؤنا منظر تھا۔ یہ نظارہ اگر شام



کی سرمئی روشنی میں دیکھا جائے تو کتنا زیادہ حسن سمیٹ لے گا اپنے اندر۔ اس وقت تو نیلا آسمان بھی گہرا نیلا دکھائی دیتا ہوگا۔ اور پرشکوہ درختوں کے اسرار بھی واضح ہوں گے۔ تب یہ روشنیاں دور سے ایسی لگتی ہوں گی جیسے درختوں کی شاخوں پر آن گنت جگنوؤں کے جھرمٹوں نے ڈیرے ڈالے ہوں۔ یا اس اندھیرے میں اونچے لمبے ٹیلوں والی پہاڑیوں پر یہاں وہاں جیسے بے شمار دیے جھلملا رہے ہوں۔ دو دن تو جانے کیسے گزر گئے۔ کل شام میں یہ منظر ہرگز زائل نہ ہونے دوں گی۔ سورج کو غروب ہوتا ہوا دیکھوں گی۔ ان تمام پرندوں کو پاس کے کبھی درختوں پر غور کر کے تلاش کروں گی جو یہ دل چرانے والی چہکار جگا کر ہمیں سکون کی وادیوں کی سیر کراتے ہیں۔ اپنے روح پرور نغمے سنا کر مدہوش کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے۔ سارے غم، سارے کام، ساری ذمہ داریوں کے احساس پر سکون کا احساس حاوی رہتا ہے کہ سکون کی اب میرے نزدیک وہ اہمیت ہے کہ معصوم زندگیوں کی بے شمار ضرورتوں کی فکر نہ ہوتی..... تو جان کے بدلے خرید لیتی۔ اور یہ خوش رنگ و خوش گلو پرندے، بے دام میری جھولی میں یہ دولت ڈال دیتے ہیں کہ زندگی کوئی اچھی چیز معلوم ہونے لگتی ہے۔

یوں بھی نہیں کہ زندگی مجھے ہمیشہ جھیلنی پڑتی تھی، بلکہ میں نے تو زندگی سے خوب خوب محبت کی تھی۔ زندگی میرے لیے ہنسی کے نہ رکنے والے فوارے، ماں باپ کی ناز برداریاں، ننھے منے بھتیجوں کے ساتھ عشق، بھائیوں کا لاڈ اور بھائیوں کے ساتھ سیر سپاٹے، شاپنگ اور فلموں کے علاوہ پینسل اسکیپنگ کرنا اور..... پڑھائی کرنا تو خیر تھا ہی۔ اب تو اخبار تک کی شکل دیکھے ہفتوں گزر جاتے ہیں۔ وہ بھی ٹھیک ہی کہتے ہیں۔

مجھے کرنا ہی کیا ہے۔ کوئی سوشل لائف تو میری ہے نہیں۔ نہ دوست نہ سہیلی۔ جو احباب وغیرہ ہیں تو ان ہی کی طرف سے ہیں۔ ان سے اگر کبھی ہمارے ہاں ملاقات ہوتی ہے تو مجھے فرصت ہی نہیں ہوتی پاس ٹھہرنے کی۔ اور ان میں سے کسی کے ہاں وہ صرف خود ہی جا پاتے ہیں۔ انہیں اس بات سے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ وہ دوستوں سے بات کر رہے ہوں اور بیچ میں بچے کے رونے کی آواز آجائے یا بچہ زور سے ہنس پڑے۔ اس لیے میں بچوں کو اپنے پاس ہی رکھتی ہوں۔ باہری دروازے کی چابی ساتھ نہیں لے جاتے وہ، انہیں اچھا نہیں لگتا کہ وہ خود سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوں اور میں سوئی ہوں ملوں۔ میں بیٹھے بیٹھے اونگھ بھی جاؤں تو لیٹی نہیں تاکہ

وہ گھر لوٹیں تو دروازہ کھولوں۔ اب دوست کے گھر جائیں گے یا ان کے ساتھ کہیں جائیں گے تو یہ آدھی واڈھی رات تو ہو ہی جاتی ہے۔ تھک بھی جاتے ہیں۔ ان کو کپڑوں کی الماری کے دروازے پر لگے ہینڈل پر ہینگر میں ٹنگا شب خوابی کا لباس پکڑانا ہوتا ہے۔ موزے اور قمیض وغیرہ کپڑے دھونے کی مشین میں ڈالنا۔ اور کچھ کپڑے اسی ہینگر پر ڈال کر الماری میں رکھ دینا۔ جوتے جو یہ ریک کے ٹھیک پاس اتارتے ہیں انھیں اٹھا کر قرینے سے ریک کے اندر رکھنا۔ گھر میں چار لوگ ہیں۔ اور پھر مجھے ایسا کرنا ہی کیا ہوتا ہے۔

بہر حال کل کا دن میرے پاس ہے۔ کل رات کی گاڑی سے جانا ہے۔ معلوم نہیں وہ اور منو کل کہاں گھومنے گئے تھے۔ آس پاس دیکھنے لائق مقام تو ہوں گے۔ دن میں کچھ نہ کچھ تو دیکھ ہی سکتی ہوں۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی میں فوراً پیکنگ کر لوں گی۔ مگر کیا معلوم وہ کتنے مصروف ہوں۔ انھیں کہیں جانا ہو۔ میں کبھی کوئی پروگرام بنا نہیں پاتی۔

ناشتے کے بعد جب میں پیکنگ کرنے لگی تو انھوں نے مشورہ دیا کہ یہ جو پلاسٹک کی تھیلی میں ہے بچوں کے میلے کپڑے ساتھ اٹھالیے ہیں، انھیں یہاں ہی دھولوں۔ کہاں میلے کپڑوں کو اٹھاتی پھروں گی۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اب میں ان کو یہ کہہ کر پریشان تو نہ کرتی کہ یہ سوکھیں گے نہیں شام تک، اور جب بھی تھیلی میں الگ سے ڈالنے پڑیں گے۔

خیر میں نے پیکنگ کا کام ادھورا چھوڑ دیا اور کپڑے دھونے لگ پڑی۔ دھوتے دھوتے جانے کب دوپہر ہوگئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کسی طرف نکل گئے اور میں پیکنگ میں لگ گئی۔ اٹیچی بڑی مشکل سے بند ہوئی۔ اصل میں اس میں ان کے ملنے والوں کے لیے کچھ چھوٹے موٹے تحائف وغیرہ تھے۔ یہ ایک اضافہ تھا۔ اور بیگ میں بھی بھیکے کپڑوں نے ایک بڑی جگہ گھیر رکھی تھی۔ بچوں کو میں نے سفر کے لیے چاق و چوبند بنا دیا۔ خود بھی تیار ہوگئی۔ وہ تو تیار ہی تھے۔ سب سامان پیک ہو چکا تھا بلکہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھنس چکا تھا۔ پانچ بجنے والے تھے۔ شکر ہے سب کاموں سے نبٹ تولی۔ ادھر ادھر نہ سہی، آرام سے بالکنی پر وہ رسالہ دیکھوں گی جو تین دن پہلے میں نے خریدا تھا۔ اس کے بعد غروب آفتاب کا نظارہ پھر پرندے.....

اس خیال سے میں نے گڑیا کو انگلی پکڑائی اور اُسے دھیرے دھیرے چلاتی ہوئی بالکنی میں پہنچی ہی تھی کہ نیچے سڑک پر وہ آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ میں واپس کمرے میں لوٹ آئی۔ وہ آتے ہی کہنے لگے کہ ان کی جینز کافی میلی لگ رہی ہے۔ اور یہ کہ انھیں جینز میں ہی سفر کرنا اچھا

لگتا ہے۔ اس لیے میں ذرا سا سے دھولوں۔ جینز دیکھنے میں میلی تو نہیں لگ رہی تھی، بس موریوں پر ذرا سی دھول مٹی تھی جو برش سے بہ آسانی صاف ہو سکتی تھی مگر وہ بہت صفائی پسند ہیں! کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی گاڑی کا وقت ہونے تک کچھ کرنا تو ہے نہیں ذرا سا سے دھولوں گی اور پھر ذرا سا استری سے سکھا بھی دوں گی۔ اتنا وقت ہے میرے پاس۔ میں نے پریس ساتھ رکھی تھی۔ وہ ایک آدھ شکن والا لباس بھی نہیں پہن سکتے۔

میں نے نہایت مشکل سے پیک کی ہوئی اٹیچی کھول کر انھیں دوسری پتلون نکال دی اور جینز دھونے غسل خانے میں گھس گئی۔ ڈیزنم کے موٹے سوئی کپڑے کی جینز پانی میں اور بھی بھاری ہو گئی اور میں حتی الامکان اس وزنی پینٹ کوالٹ پلٹ کر دھوتی گئی۔ ہاتھوں میں لے کر رگڑتی گئی۔ کپڑے دھونے کا برش تو میرے پاس تھا نہیں، اس طرح اور زیادہ صاف کرنے کی کوشش میں میری انگلی کا ایک لمبا ناخن آدھا ٹوٹ گیا۔ جانے کتنا وقت لگا ہو گا مگر میں نے اسے آخر کار دھولیا۔ اور اب اسے پھیلانے سے پہلے جھٹکتے ہوئے میرا پورا ناخن ہی اکھڑ گیا۔

خون کی دھار بہہ نکلی۔ درد کی لہری اٹھی۔ میں نے انگلی پر ٹیشو پیپر پیٹ دیا۔ اور وقت ضائع کیے بغیر غسل خانے کی کھڑکی کھول دی۔

اندھیروں کو چیر کر آتا ہوا سرد ہوا کا ایک افسردہ جھونکا میرے چہرے سے نکلایا۔ نہ معلوم کب اندھیرا ہو چکا تھا۔ سارے طور آشیانوں میں جا چھپے تھے۔ نیلے پنکھوں اور پہلی چونچ والی مینا بھی غائب تھی۔ انگلی کی ٹیس دل میں سے ہوتی ہوئی روح میں سما سی گئی۔ تھکی ہوئی نظر میں نے آسمان کی طرف اٹھائی۔

ستارہ زہرا وسیع العرض آسمان پر اکیلا لٹک رہا تھا۔ دور پہاڑیوں پر ٹنگی روشنیاں بھی برائے نام دکھائی دے رہی تھیں۔ ہر طرف دھند ہی دھند تھی۔

تھکی ہاری سی میں کمرے کی طرف پلٹی، تو کمرے کا منظر بھی مجھے دھندلایا سا لگا۔ یہ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے۔

جینز کا اضافی پانی نچڑچکا ہوگا۔ مجھے اسے استری سے سکھانا بھی ہے وہ بہت نازک مزاج ہیں۔ ذرا سی بھی Uncomfortable چیز انھیں پریشان کر دیتی ہے۔

(افسانوی مجموعے ”یہ تک زمین“ سے)



## ترنم ریاض: مشاہیر کے سوچ رنگ

### • ڈاکٹر گوپی چند نارنگ

ترنم ریاض کے نام پر بہت سے لوگ چونکیں گے لیکن کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ادب کی دنیا میں اپنی آہٹ سے یا آہنگ سے لہجے سے معنویت یا افسانویت سے چونکا نا بھی ایک جمالیاتی عمل ہے۔ جب جب کوئی نئی آواز ادب کے گنبد ہزار در میں ابھرتی ہے تو کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، آیا یہ پہلی آہٹ کے بعد ڈوب جائے گی یا دیوار و در سے ٹکرا کر ارتعاش پیدا کرے گی اور سینوں کو بر مانی جائے گی۔

ترنم ریاض وادی کشمیر کا گلِ نورس ہے جس نے افسانے کی دنیا میں قدم رکھا ہے جہاں زمین سخت ہے اور آسمان دُور ہے۔ دنیائے ادب کی رونق کے لیے نئے فنکاروں کا 'آون جاون' بنا رہے تو بہت خوب ہے۔ فنکار اور ہر فن پارہ میرے آپ کے کہنے سے نہیں اپنے حسن و خوبی سے زندہ رہنے کا حق چاہتا ہے، اور میں اُن لوگوں میں سے ہوں جو اس حق کا احترام کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ ترنم ریاض ادب کی ہر موج سے کامیابی کے ساتھ نبرد آزما ہو سکیں۔ (۱۹۹۸ء)

### • محبوب الرحمن فاروقی

ترنم ریاض بہت دنوں سے کہانیاں لکھ رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کم لکھتی ہیں، کم شائع ہوتی ہیں، لیکن حال ہی میں "آجکل" میں شائع ان کی کہانی پر عابد سہیل جیسے پختہ افسانوں کے نقاد بھی جھوم اُٹھے اور انھیں اُردو کے نئے افسانہ نگاروں میں صفِ اول میں شمار کرنے لگے تو یہ صرف ان کی خوبصورت تحریر کا روشن پہلو ہے۔ (۱۹۹۸ء)

### • نیر مسعود

ترنم ریاض نے اچھے موضوعات کا انتخاب اور لکھنے کے لیے مناسب اسلوب اختیار کیا ہے۔ افسوس کے یہ بنیادی اور بہت ضروری صفت ہمارے یہاں سے ناپید ہوتی جا رہی ہے۔

### • بلراج کومل

ترنم ریاض کے افسانوں کے موضوعات، اسلوب اور اظہار کی غیر رسمی تازگی اور سادگی، اور

تشکیلی قدرت ان کے فن کے قابل ذکر خصائص میں سے چند ایک خصائص ہیں۔

● **سید محمد عقیل رضوی**

بھئی کیا کہانی لکھ دی ”شہر“ واہ واہ! شاید اردو میں یہ پہلی کہانی ہے جو مہانگری نما شہروں سے متعلق ہے۔ مبارک ہو۔

● **ابوالکلام قاسمی**

ترنم ریاض ان افسانہ نگاروں میں سے ایک ہیں جن کا اظہار اور بیانیہ ان کی اپنی ذات کے ساتھ تہذیب و ثقافت اور اعلیٰ اقدار پر مبنی ہوتا ہے۔ مجھے ترنم ریاض کی کہانیوں میں روایت کے بھرپور شعور کے ساتھ تجربہ کار نگ بھی شامل نظر آتا ہے۔ وہ صورت حال کو کہانی بنانا جانتی ہیں اور اپنے زمانے کے اسلوبیاتی رویوں سے واقفیت کے باعث کسب فیض بھی کرتی ہیں۔ مجھے ترنم ریاض کے پہلے مجموعے ”یہ تنگ زمین“ کی بیشتر کہانیاں ایک سچے فنکار کی ترجمانی محسوس ہوتی ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ ”ابابلیس لوٹ آئیں گی“ ان کے فنی سفر کا دوسرا پڑاؤ ہے، جو اپنے آپ میں قابل توجہ بھی ہے اور اپنے زمانے کے نمائندہ افسانوی رجحانات کا عکاس بھی۔ مثال کے طور پر ”برف گرنے والی ہے“، ”مستی“، ”شہر“، ”باپ“، ”امتاں“ وغیرہ۔ میں ترنم ریاض کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ ان کا ادبی سفر اسی طرح جاری رہے گا۔

● **مرزا محمد زمان آرزو**

ترنم ریاض کے دو افسانوی مجموعے اب تک منظر عام پر آچکے ہیں ”یہ تنگ زمین“ اور ”ابابلیس لوٹ آئیں گی“ دونوں قارئین سے دادِ تحسین وصول کر چکے ہیں۔ تیسرا مجموعہ ”میمرزل“ آپ کے زیر مطالعہ ہے۔ اس میں شامل کہانیاں، مختلف جرائد میں شائع ہو چکی ہیں اور اب یہ مجموعے کی صورت میں سامنے آرہی ہیں۔

ترنم ریاض شعر بھی کہتی ہیں لیکن افسانہ ان کی شناخت بن گیا ہے اور افسانے میں انہوں نے اپنی ایک پہچان بنالی ہے۔ ترنم کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہ جیسے سوچتی ہیں، ویسے ہی بولتی ہیں اور جیسے بولتی ہیں ویسے ہی لکھتی ہیں۔ یہ خصوصیت ہر مصنف میں نہیں پائی جاتی۔ اصل میں اس خصوصیت کی بنیاد خلوص اور اس خلوص پر اعتماد ہونے پر ہے۔ ”کشتی“ اور ”میرا کے شام“ اس سلسلے میں خاص طور سے قابل توجہ ہیں۔

اس مجموعے میں شامل کہانیوں میں آپ ایک ایسے درد مند دل کو پائیں گے جو دوسروں کے زخم کو ایسے ہی محسوس کرتا ہے جیسے وہ زخم خود اس کے تن پر لگا ہو۔ ان کہانیوں میں آپ ترنم ریاض کی

کشمیر اور کشمیریوں سے محبت سے ضرور متاثر ہوں گے۔ انھیں مظلوموں سے ہمدردی ہے چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اُن کی کہانی کی بنیاد کسی رومانی مسئلے پر ہو یا سیاسی مسئلے پر یا کسی سماجی مسئلے پر کردار سے اُن کی ہمدردی اور واقعہ کی اصلیت کا احساس ہر وقت دامن گیر نظر آئے گا۔ کہانی پن اُن کے ہاں اس طرح متاثر کرتا ہے کہ ذیلی گفتگو اور فروری بیانات میں قاری بہت کم الجھنے پاتا ہے۔ ایک خاص بات جو اُن کے ہاں متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی غم ایک اجتماعی کیفیت اختیار کر لیتا ہے اور ہر شخص ان کی کہانیوں میں ایک آئینہ سے دو چار ہو جاتا ہے، جس میں اُسے اپنی تصویر نظر آتی ہے۔ البتہ یہ کہنا مشکل ہے کہ ترنم نے آئینہ دیکھ کر ان کہانیوں کو نم تر بنایا ہے یا اپنی نم تر تحریر سے ان کو آئینہ بنا دیا ہے۔

میں امید کرتا ہوں کہ گذشتہ مجموعوں کی طرح یہ مجموعہ بھی قارئین کی آنکھوں کا سرمہ بنے گا۔

● انور قصور

یوں تو افسانے کا بنیادی اسلوب مروجہ ہے مگر بعض مقامات پر افسانہ ”کشتی“ اشاراتی اور بالکل آخر کی چند سطروں میں رمز یاتی اسلوب میں لکھے جانے کے سبب دوہرا لطف دیتا ہے۔ افسانے میں متضاد واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ اس بنا پر کرداروں کے متضاد رویے سامنے آتے ہیں۔ مصنفہ کے اس فنی ترکیب کو شعوری یا غیر شعوری طور پر برتنے سے افسانے میں گھٹاؤ اور پیچیدگی پیدا ہوگئی ہے جو تنقید کے نقطہ نظر سے ایک اہم خوبی سمجھی جاتی ہے۔

مصنفہ کا مدعا ہے کہ ہماری زندگی مساعد و نامساعد حالات اور سرد گرم کیفیات سے پُر ہے، جس کے متعینہ عوامل کے پیدا کردہ نتائج پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ غالباً اس مناسبت سے افسانے کا عنوان ”کشتی“ رکھا گیا ہے، جسے تصویر کی آنکھ سے سمندر کی لہروں پر ہچکولے کھاتے دیکھ کر ہم افسانہ نگار کی بات پر صاد کر سکتے ہیں۔

ترنم ریاض نے بڑی صفائی اور آراستگی سے سیاسی معاشرتی اور اقتصادی عناصر کی کار سازی اور کار فرمائی کے پس منظر میں واقعات پیش کیے ہیں اور زین العابدین کے تاریخی واقعے کو بیان فرما کر ایک اہم فلسفیانہ نکتے کی جانب توجہ دلائی ہے کہ تاریخ کے دھارے پر روک لگانے یا اس میں پھیر بدل کرنے سے گلابہ اور جوہڑ وجود میں آجاتے ہیں!

افسانے کے مرکزی کردار دلو کی کردار نگاری حقیقی خطوط پر کی گئی ہے۔ اس کے سراپا کے بیان میں بھی خطے کی اقدار اور رسم کا خیال رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس کے لباس کے آرائش زور کا ذکر اس انداز سے کیا گیا ہے کہ دلو کے اپنے خاندان کی روایت اور ضابطوں کی پابند ہونے کا اشارہ ملتا

ہے۔ افسانہ ”میرا کے شام“ عنفوانِ شباب کو پہنچے۔ بچوں کی پیچیدہ نفسیاتی کیفیتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کے موضوع پر لکھا گیا غالباً پہلا اُردو افسانہ ہے۔ افسانہ نگار کا فنی کمال یہ ہے کہ اُس نے افسانے کو ”کیس“ بنانے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ اس کامیاب افسانے پر تخلیق کار تہنیت کا مستحق ہے۔

### ● عتیق اللہ

ترنم ریاض کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو وہ کسک ہے جسے ایک ٹیس کی طرح ان کے افسانوں کے بطن میں محسوس کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ ان افسانوں کا ماحول اور سارا سیاق بے حد خوش آگیاں ہے لیکن اسی خامشی کے اندر جو بلا کا شور برپا ہے اسے ان کا قاری بہت جلد محسوس کر لیتا ہے۔ ترنم ریاض میں چیزوں کو ان کے اندر اتر کر دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ایک افسانہ نگار کے لیے بڑی نیک فال ثابت ہوتی ہے۔

### ● مظہر امام

ترنم ریاض کے افسانوں کی جو فضا ہے وہ بڑی مانوس سی فضا ہے جس سے ہم سب واقف ہیں۔ ان کے اظہار میں کوئی تصنع آمیز صنائی نہیں ہے۔ بہت ہی صفائی اور شگلی کے ساتھ وہ اپنے افسانوں کا تانا بانا بنتی ہیں۔ کہیں کہیں تو ان کے اسلوب میں خاص طرح کی مقناطیسیت آ جاتی ہے جو اپنے ساتھ ساتھ پڑھنے والے کو بہالے جاتی ہے۔ ترنم ریاض اپنی سادگی، بے تکلفی اور بے ساختگی کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ متاثر کرتی ہیں۔

### ● عبدالصمد

ترنم ریاض نے افسانے کی دنیا میں بہت جلد ایک مقام بنا لیا ہے۔ وجہ یہ کہ وہ اپنے فن کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ ترنم ریاض بہت سوچ سمجھ کر اپنے موضوعات کا انتخاب کرتی ہیں اور انھیں بکھرنے نہیں دیتیں۔

### ● افتخار امام صدیقی

ترنم ریاض! اپنے ہر افسانے کو کہانی بنا دیتی ہیں جو ہونٹوں ہونٹ سفر کرتی ہے۔ کردار نگاری، منظر نامہ، مکالمہ کاری، سب کچھ، تخلیقی بیانیہ میں اس طرح سمودیتی ہیں کہ قاری سامع، ناقد، متحیر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے۔ وہ اپنے ہر ساختیہ کو ترقی پسندی جدیدیت اور مابعد جدیدیت سے پرے رکھتی ہیں اور ہر ممکنہ مستقبل کو جی لینے کی کاوش کرتی ہیں۔ نثر میں شاعری جگانا آسان نہیں ہے، وہ اپنے اس منفرد ہنر میں اس لیے کامیاب ہو جاتی ہیں کہ شاعرہ بھی ہیں۔ ان کا ہر دلچسپ وقوعہ، سنجیدگی کی سربراہی میں نقادوں کے قلم پر دستک دیتا ہے کہ افسانے کی تنقید، اگر لکھنی ہے تو مجھے پڑھو لکھو اور سمجھو۔

ترنم ریاض ایک Sweet Temper افسانہ نگار ہیں۔ ان کی کہانیوں میں صوفیانہ لے اور سرستی ہے۔ تصوف کا ایک طیف ہے جو ان کے تخیل پر محیط ہے۔ رابعہ عدویہ بھری کی طرح ان کی کہانیوں میں پاکیزگی، عطوفت، امومت اور ممتا ہے۔ وہ عورت اور مرد کے خانے میں تقسیم ہو کر کہانیاں نہیں لکھتیں بلکہ ان کی کہانیاں فرد کائنات کی کہانی ہوتی ہے جس کے جذباتی ارتعاشات کو ہم ان کی کہانیوں میں محسوس کر سکتے ہیں۔ ترنم ریاض عالمی حالات و واقعات سے مکمل طور سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی کائنات اور حیات کے مسائل کو انسانی نظر سے دیکھتی ہیں۔ اپنے مقدمے میں وہ لکھتی ہیں:

”نئی صدی میں داخل ہوتے ہوئے اور عالمی گاؤں (Global Village) کی جاندار شے ہوتے ہوئے بھی میری اپنی اندر کی ایک دُنیا ہے۔ میں تخلیقی عمل کو شاعری، موسیقی یا آرٹ تک ہی محصور نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے احساس ہے کہ ٹیکنالوجی کی بادشاہت قائم کرنے والا بل گیٹس بھی ایک تخلیق کار ہے جس کی پھیلتی ہوئی سلطنت نے دنیا کے ہر قلم کار کے تخلیقی عمل کو متاثر کیا ہے۔ میری نظر میں نام چومسکی بھی ایک بہت بڑا تخلیق کار ہے کہ اس کی تحریریں امریکی سماج اور معاشی نظام کے بنیے ادھیڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ایک امریکی شہری ہونے کے باوصف امریکی سماج پر ان کی طنزیہ تحریریں کسی فن پارے سے کم نہیں ہیں۔ ولیم سمرسٹ ماہم ایڈ گراہلین پو اور آلودس ہاکسلے سے ان کے موضوعات کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ چیخوف، موپاساں اور ترگینف ایک مخصوص دور کی پیداوار ہیں۔ ان کا مقام اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن سول زی نیون کی ’کینسروارڈ‘ ایک ایسا شاہکار ہے جو ایک زوال پذیر معاشرے کی عکاسی اس طرح کرتا ہے کہ اس کی تعبیر کچھ دہائیوں کے بعد ایک عظیم سلطنت سوویت یونین کے ٹوٹ کر بکھر جانے میں نظر آتی ہے۔ میری نظر میں ایلیون ٹافلر کا مقام تخلیق کاروں کی اولین فہرست میں شامل ہونا چاہیے۔ گو کہ اس نے رسمی طور پر ایک بھی کہانی نہیں لکھی، لیکن نظامِ تعلیم سے لے کر جنگی نظام تک ہر موضوع پر تحریریں قلم بند کی ہیں۔ یہ عظیم فنکار بھی میری زیر نظر رہتے ہیں، میرے قلم میں وسعت بخشنے



رہتے ہیں۔“

ان کے یہاں جوششِ باراں نہیں ہے اور نہ ہی تہر و طغیانی و آشفتہ جولانی بلکہ تحمل، تدبیر اور تفکر ہے۔ ان کا ردِ عمل کسی بھی سطح پر بیجانی یا جذباتی نہیں ہوتا بلکہ نہایت مثبت ہوتا ہے۔ وہ عورت مرد کے تعلقات اور دونوں کے مابین رشتوں کے رموز سے واقف ہیں اور اپنے متعینہ حدود و حریم میں رہ کر مسائل پر غور و فکر کرتی ہیں۔ درد و کرب کے باوجود آتش فشاں نہیں بنتیں بلکہ نہایت قرینے اور خوش سلیقگی کے ساتھ اپنے غم و غصے، خفگی، برہمی کا اظہار کرتی ہیں۔ ان کی تخلیق سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ ایسی عورت کی ہے جس کے ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی سے لبالب پیالہ ہے۔ ان کی کہانیوں میں خدا کی رحیمی کے اسرار نظر آتے ہیں۔ ان کی کہانی آہستہ رو آب اور سبک خرام پانی کی طرح استقامت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ کہانی میں نہ کوئی شور و غوغا ہے، نہ مصنوعی فضا آفرینی۔ فطری فضا میں ان کی کہانی اتمام کی منزل تک پہنچتی ہے۔ کہانی میں اپنا فلسفہ، اپنا ادراک، اپنا وژن نہیں بگھارتیں۔

ترنم ریاض کی کچھ کہانیوں میں مردانہ جبر کے خلاف ہلکی سی آہٹ تو ملتی ہے مگر وفاداری بشرط استواری کی فضا قائم و دائم رہتی ہے۔ ان کا یہ غصہ مرد کو ”متعارف“ سمجھ کر نہیں بلکہ اپنی ذات اور حیات کا ایک حصہ مان کر ہی ظاہر ہوتا ہے اور برہمی کی یہ کیفیت مرد سے متعلق نہیں ہے بلکہ مسائل سے متعلق ہے اور یہ مسائل پوری کائنات کے مشترک ہوتے ہیں اور یہ عورت اور مرد دونوں کے پیدا کردہ ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعے ”یہ تنگ زمین“ کا فکری افق نہایت وسیع ہے تو ”ابا بلیس لوٹ آئیں گی“ میں ان کا تخلیقی فن ایک قدم اور آگے بڑھا ہے۔ کہانی کتاب کا عنوان ہی ان کی تخلیقی فکر کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے اور یہ نسائی احساس کا اشاریہ بھی ہے۔ انہدام کسی وجود کا ہویا عمارت کا یا تہذیب کا، تشخص کا، جب انہدامی قوتیں حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں اور ظلم کا دائرہ پھیل جاتا ہے تو غیبی قوتیں خود بخود نمودار ہوتی ہیں۔ ترنم ریاض کے اس عنوان میں جو رمز اور تہہ داری ہے، وہی ان کی تخلیقی فکر کا نشان بھی ہے۔ گویا ترنم ریاض منتظرِ فردا ہیں اور صابر و شاکر خموشی کی زبان بن کر غیبی نصرت کی امید لگائے بیٹھی ہیں۔ یہ عنوان کے Sensitivity of Mind کو مکمل طور سے ظاہر کرتا ہے۔ تمام کہانیاں بشمول عنوان کتاب ان کے Femaleness of Mind کا اشاریہ ہیں اور ان کی نسائی حسیت اور ادراک کا اظہار نامہ بھی۔

• عبدالمنان طرزی

لوٹ آئیں گی ابا بلیں ترنم<sup>۲</sup> کی کتاب  
 دیکھے ہیں احساس کی آنکھوں نے جو اکیس<sup>۳</sup> خواب  
 آرزو کس کی نہیں کہ صحرا بن جائے چمن  
 پر قبائے آتشیں سے جل گئے کتنے بدن  
 آگ ہو گلزار، ہاں اس کی دعا کرتے رہیں  
 مانگئے وہ عزم کہ شعلوں پہ بھی چلتے رہیں  
 ہے اسی اک عزم کی لائی ہوئی فصلِ قلم  
 لب ہیں جن سے متبسم جن سے ہیں آنکھیں بھی نم  
 ”عکس<sup>۵</sup> آدھے چاند کا“، ”مہمان“، ”مٹی“، ”باپ“ بھی  
 ”پھول“، ”بابل“، ”مائیں“، ”لٹاں“، ”شہر“ ہو کہ ”شیرنی“  
 ”پوٹھی<sup>۶</sup> پڑھ پڑھ“، ”شام جی“ اور پھر ”بجھائے نہ بنے“  
 ”برف گرنے والی“، ”گم گشتہ<sup>۷</sup> متاع“ بھی دیکھئے  
 ”اچھی<sup>۸</sup> صورت کیا“، ”امان“، ”اپجاد کی ماں“ بھی لکھا  
 ”آیا گھر“، ”برآمدہ“ اور ”آبلوں<sup>۹</sup> پر بھی حنا“  
 اُن کے افسانوں کے عنوان ہیں کچھ اس انداز کے  
 سازِ دل اُن کے لیے یا خود ہیں یہ اُن کے لیے  
 وہ زباں کی تازگی ہے اور ہے دلکش بیاں  
 لائی ہیں کشمیر سے جیسے وہ کشتِ زعفران  
 زندگی کا بوجھ ڈھونڈنے والے کچھ مزدور بھی  
 گلشنِ ہستی میں پیدا کر گئے ہیں تازگی  
 فصلِ گل میں سب کا حصہ ہو ضروری تو نہیں  
 کچھ تو ہوں ایسے بھی جو کھاتے رہیں زخمِ یقیں  
 شرحِ زخمِ زندگی کیجے ترنم ! جس قدر  
 پڑھئے اِنَّا لِلّٰہ کہ بیمار خود ہے چارہ گر

۱، ۲ ابا بلیں لوٹ آئیں گی—ترنم ریاض کے افسانوں کا مجموعہ ۳ مذکورہ مجموعے میں اکیس افسانے شامل ہیں

۴ آدھے چاند کا عکس ۵ پوٹھی پڑھی پڑھی ۶ برف گرنے والی ہے ۷ متاع گم گشتہ ۸ اچھی صورت بھی کیا

۹ میرا پیا گھر آیا ۱۰ آبلو پر حنا

● **N. S. TASNIM**

In the world of today nothing that seems to be lasting value. Not that I am complaining of the transitoriness of the things material. It is the inscrutable human mind that baffles due to its shifting stances in a short span of time. In this frame of mind, when I turn to the short stories of Tarannum Riyaz I experience the calm of mind that displays the puzzles of human life falling into a pattern. The time stands still and the vignettes of human desires and frustration appear before the inner eye. In her short stories, the untouched aspects of human existence, the unrevealed process of human thoughts and the untepped reservoir of human aspirations, coupled with the felicity of poetic expression, enrich the mind of the reader abundantly. Tarannum stands apart from the contemporary storytellers.

## طارق چھتاری

ترنم ریاض ہمارے عہد کی ایک اہم ادیبہ ہیں۔ انہوں نے اپنی تخلیقات میں انسانی رشتوں کی پاکیزگی اور دلی جذبات کے تقدس کو نہایت پُر اثر اور بامعنی انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ شاعرہ بھی ہیں، افسانہ نگار بھی اور ہمدردی کے ساتھ معاشرے کے مختلف مسائل پر غور و فکر کرنے والی حساس دل انسان بھی۔ ”ہمبرزل“ کے خوبصورت افسانوں کے مطالعے سے اُن کی شخصیت کے تینوں پہلوؤں کا ثبوت فراہم ہو جاتا ہے۔ شاعرانہ طرزِ بیاں، قصہ گوئی کی نزاکتوں کا ادراک اور کامیابی و ناکامی، خوشی و غم اور شکست و فتح کے سمندر میں تیرتے ڈوبتے کرداروں کی نفسیات اور ان کے احساسات کی عکاسی جیسے عناصر مصنفہ کی ہنرمندی، فنکاری اور انسان دوستی کے آئینہ دار ہیں۔

ترنم ریاض کا ہر افسانہ بیانیہ طرزِ اظہار کا بہترین نمونہ ہے۔ واقعات آہستہ آہستہ کھلتے ہیں۔ پلاٹ کی تعمیر کے اس انداز کے سبب نہ صرف یہ کہ قارئین کی دلچسپی قائم رہتی ہے بلکہ تجسس بھی بڑھتا جاتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ یہ تو کبھی جانتے ہیں، ترنم ریاض یہ بھی جانتی ہیں کہ کیا نہیں لکھتا ہے اور اگر لکھنا ضروری ہے تو کتنا لکھتا ہے، کب اور کہاں لکھتا ہے۔ بیان کی یہ خوبی اُن کے تخلیقی مزاج کا حصہ معلوم ہوتی ہے، شعوری طور پر کی گئی صناعتی نہیں۔

وہ حقیقت پسندی اور رومانیت کے امتزاج سے اپنے افسانوں میں منظر کشی اور جزئیات نگاری اس سلیقے سے کرتی ہیں کہ افسانے میں رونما ہونے والے واقعات، شفاف اور متحرک فضا کی پاکلی پر سفر کرتے ہوئے اپنی آخری منزل تک پہنچتے ہیں اور اس طرح دلکش فضا آفرینی ان کے افسانوں کی ایک امتیازی خصوصیت بن جاتی ہے۔

ترنم ریاض کی انفرادیت یہ ہے کہ ان کے افسانوں کے بیشتر کردار، واقعات اور مناظر سب سے پہلے قاری کے دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، پھر فہم و دانش سے لبریز ہو جانے والے دل سے پھوٹی شعاعیں اس کے ذہن کو بھی منور کر دیتی ہیں اور وہ خود کو افسانے کا ایک کردار سمجھ کر افسانہ نگار کے تخلیقی عمل میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ فن کی معراج ہے۔ اس کسوٹی پر ترنم ریاض کے افسانے پورے اترتے ہیں۔



نام : ترنم ریاض

جائے پیدائش : سرینگر (کشمیر)

تعلیم : ایم۔ اے ، ایم۔ ایڈ

تصانیف : (۱) یہ تنگ زمین (افسانے)

(۲) ابا بلیس لوٹ آئیں گی (افسانے)

(۳) یمبرزل (افسانے)

(۴) مورقی (ناول)

(۵) بیسویں صدی میں خواتین کا اردو ادب (انتخاب برائے ساہتیہ اکادمی)

(۶) گو سائیں باغ کا بھوت (ترجمہ ہندی سے، برائے ساہتیہ اکادمی)

(۷) سنو کہانی (ترجمہ ہندی سے، برائے ساہتیہ اکادمی)

(۸) ہاؤس بوٹ پر بلی (ترجمہ انگریزی سے، برائے ساہتیہ اکادمی)

زیر طبع : (۱) صحرا ہماری آنکھ میں (ناول) (۲) چشم نقش قدم (تحقیقی و تنقیدی مظاہرین)

(۳) پرانی کتابوں کی خوشبو (آزاد نظمیں)

مشغلہ : برقی میڈیا سے وابستگی

## YIMBIRZAL

(Short Stories)

by

Tarannum Riyaz

C-11, Jungpura Extension, New Delhi-110014

Ph : 24310682, 24317177, (M) 9810541179

e-mail: tarannumriyaz@hotmail.com